



توحید اور شریک کی حقیقت

مؤلف

مولانا سید نوران الحسن شاہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ
بخاری

مکتبہ
الحسن
اردو بازار
لاہور
پاکستان

توحید اور شکر

کی
حقیقت

مؤلف

مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری

مکتبۃ الحسن

۳۳ حق سٹریٹ اردو بازار، لاہور، پاکستان

فون: ۲۳۳۹۶۹۹-۲۳۰۰-۰۲۲-۳۷۲۲۱۳۵۵

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب توخید اور شرک کی حقیقت

مؤلف مولانا سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ

ناشر مکتبۃ الحسنیہ

مطبع ایم اے پرنٹرز


اشاعت 2011ء

اہتمام

عبدالقدیر حسنی

ناظم

مکتبۃ الحسن لاہور



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
33	شرک کے لیے شفاعت نہیں	12	افتتاح ①
34	ایک ایمان والا بھی شرک ہو سکتا ہے	تا	کفر و ایمان کا دار و مدار عقیدہ پر ہے
36	③	16	اور عقیدہ کاماً خذ ہے کتاب و سنت
تا	اللہ کی معرفت و توحید بندے کی	12	عقیدہ کی اہمیت
38	فطرت ہے	13	عقیدہ کاماً خذ
39	④	17	تمہید ②
تا	ذات و صفات باری تعالیٰ سے متعلق مشرکین	تا	نجاتِ آخرت و دخولِ جنت کا واحد
63	مکہ، کفارِ قریش کے عقائد و تصورات	35	ذریعہ توحید و ایمان ہے
39	خالق اللہ ہے	18	عذابِ آخرت سے نجات کی واحد صورت
40	رازق، مالک، مدبر امور اور رب اللہ ہے	19	لا الہ الا اللہ
	شہنشاہِ کل، صاحب اختیار اور قادرِ مطلق	21	شہادتِ توحید و رسالت
41	اللہ ہے	22	مدارِ نجات ایمان باللہ و ایمان بالرسول ہے
41	متصرف علی الاطلاق، العزیز، الرحمن اللہ ہے		دینِ اسلام کے دو اصول اور کلمہ طیبہ کی
43	مشکل کشا، دافع البلاء اللہ ہے	23	حقیقت!
43	وہ طوفانوں میں صرف خدا کو پکارتے تھے	24	شرائطِ ایمان
48	ان کے دل ہیٹ جلالِ الہی سے معمور تھے	25	ایک عجیب حقیقت
48	وہ خدا سے دعا کرتے تھے	25	ایمان اور عمل
49	وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے	26	جنت میں داخلہ
	وہ عزت و ذلت اور مرض و شفا من جانب	27	ارکانِ اسلام کی اہمیت
51	اللہ سمجھتے تھے	29	تصدیق بالقلب
51	وہ اللہ کو واحد اور سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے	29	معصیت پر بھی دخولِ جنت کی بشارت
	ذات و صفات باری تعالیٰ سے متعلق	31	مؤحد کی مغفرت یقینی ہے
52	مشرکین عرب کے عقائد کا خلاصہ	33	شفاعت بھی مؤحد کا حق ہے

74	صاحبِ خلقِ عظیم پر سب دشتم کا الزام	53	شرکین عرب کے اعمال و وظائف
	دیوبندی ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ“	53	انہوں نے کعبہ تعمیر کیا
75	اور ”اولیاء اللہ کے منکر“ ہیں	53	وہ حج و عمرہ کرتے تھے
75	اسوہِ ظلیل، شرکین سے بغض و بیزاری	54	طواف کرتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے
76	اسوہِ صدیق، شرک بیٹے کے قتل پر آمادگی	54	بیت اللہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے
77	اسوہِ یعقوب و ابنائے یعقوب		نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے
78	وحدت الوہیت	55	خدا کی نذر منت مانتے تھے
78	مومنین و شرکین کا کفر و ایمان	56	بیت اللہ میں اعتکاف کرتے تھے
81	شرکین عرب کے معبودانِ باطل کا انجام	56	عبداللہ نام رکھتے تھے
82	معبود پیروں تلے روندے گئے	56	قسمیں اللہ کی کھاتے تھے
83	ہبل، لات، منات اور عزیٰ	57	نکاح کرتے تھے
	ایک عجیب نکتہ	58	خندہ، غسل جنابت وغیرہ خصائلِ فطرت پر کار بند تھے
84	پورے قرآن میں توحید کا لفظ نہیں		ذبح و نحر کرتے تھے
85	حضرات انبیاء کی بعثت کا مقصد	58	شرکین مکہ کے اخلاقِ عظیمہ
86	پہلے نفی پھر اثبات	58	وہ غیور و صاحبِ عزت و ناموس تھے
87	نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ توحید	59	بات کے دھنی، قول کے سچے اور عہد کے کئے تھے
88	④	59	لحجہ و فکر یہ
تا	شرک و توحید کی نفی و اثبات کے		دوا ہم نتیجے!
157	متعدد اسلوب و انداز	60	
88	انداز ۱..... مَا لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرُهُ	62	
89	جہالت و حماقت کی انتہا	63	
89	انداز ۲..... مَنْ آلِهِ غَيْرُ اللَّهِ	64	
90	غیر اللہ کے افراد	تا	
	ناخدا ترسی کا بدترین مظاہرہ اور ایک	87	⑤
91	ایمان سوز مغالطہ	64	توحید کی حقیقت
92	دیوبندی اگر وہابی ہیں تو ”حضرت صاحب“	65	شیطان لعین کی فریب کاری
93	توحید صحیح سمجھے نہ شرک!	66	شرکین و مسلمین میں نزاع و خلاف کی وجہ
93	ایک مثال		”بھی“ نہ! ”ہی“!!
95	انداز ۳..... لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا	69	ہر دور میں شرکین و وحدت الوہیت کے
97	احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	72	منکر و مخالف تھے اور تعددِ الہ کے قائل
			اسلام الہ واحد کی الوہیت کا علمبردار ہے

128	انداز ۱۵..... وَخَدَّةٌ لَا شَرِيكَ لَهٗ	101	عبرت و انتباہ
129	وظائف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	102	انداز ۴..... لَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا
131	عظیم و کثیر اجر و ثواب	103	انداز ۵..... إِلَهٌ كَمِ إِلَهٍ وَاحِدٍ
133	کلمہ توحید	105	انداز ۶..... وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
134	حقیقت ایمان	106	شرک کی حقیقت
135	انداز ۱۶..... أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ	107	لفظ شرک پر غور فرمائیے!
136	انداز ۱۷..... أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ	108	ایک اور باریک نکتہ
136	انداز ۱۸..... فَإِنِّي فَأَعْبُدُونَ	108	انداز ۷..... ءِ إِلَهٍ مَعَ اللَّهِ
137	انداز ۱۹..... فَأَعْبُدُونَ	109	انداز ۸..... فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
138	انداز ۲۰..... فَأَعْبُدْنِي	111	انداز ۹..... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
139	انداز ۲۱..... فَأَعْبُدُوهُ	112	احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
139	صراطِ مستقیم	113	افضل الذکر، اجر عظیم
141	انداز ۲۲..... وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ	114	جنت ملتی ہے
143	ایک مغالطہ	114	آخری کلام کلمہ ہو
	حضرات انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور	115	تلقین، جہنم سے نجات
143	ملائکہ اللہ پر مِنْ دُونِ اللَّهِ کا اطلاق	116	مدار شفاعت
145	مرقع عبرت و انتباہ	116	شفاعت گنہگار کے لیے ہے
	قیامت میں تمام معبودانِ باطل اپنے	117	انداز ۱۰..... لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
	عابدین کی عبادت سے بر ملا برأت و	118	انداز ۱۱..... لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
146	بیزاری کا اظہار کریں گے	118	انداز ۱۲..... لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
	حضرات انبیاء و اولیاء اور علماء و مشائخ	119	احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
147	سب مِنْ دُونِ اللَّهِ میں شامل ہیں	120	سید الاستغفار
149	الٰہی منطق	122	انداز ۱۳..... لَا إِلَهَ غَيْرُكَ
150	حقوق کی تقسیم	123	انداز ۱۴..... أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
151	محبت کا معیار، عشق و فسق	124	بناء اسلام، عین اسلام
151	اسلام ادا کیسے حقوق کا نام ہے	125	اولین دعوت اسلام
152	مشترک حقوق، منفرد حقوق	125	اجر و وزن
154	اللہ تعالیٰ کا خاص اور اخص حق عبادت ہے	126	القول الثابت
	انداز ۲۳..... حضرات انبیاء و اولیاء کی	127	کلید جنت
155	عبادت شرک ہے	128	آنٹھوں دروازے کھلے ہیں

175	انداز ۱۰..... اللہ اگلے پچھلے سب حالات جانتا ہے	156	خلاصہ: ۶۸ آیات اور ۱۰۲ احادیث میں ۲۳ انداز سے عبادت کو ذات پاک رب العزت کے لیے خاص کر کے ماسوی اللہ سے اس کی نفی کی گئی ہے
176	انداز ۱۱..... اللہ سب اعمال خیر کو جانتا ہے	158	④
176	انداز ۱۲..... اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں اور ان کے گناہوں کی خبر ہے	290	عبادت
177	انداز ۱۳..... اللہ تعالیٰ کو سب اعمال و افعال کا علم ہے	158	عبادت کے معنی
177	انداز ۱۴..... اللہ کو سب اعمال کی خبر ہے	160	تفسیر کبیر میں ایک نہایت عجیب نفیس بحث
178	انداز ۱۵..... اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال سے بے خبر نہیں	164	عبادت کی انواع و اقسام
178	انداز ۱۶.....	164	عبادت کی ہر نوع اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے
179	انداز ۱۷..... اللہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا	165	عبادت اور تعظیم میں فرق و امتیاز
179	انداز ۱۸..... قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں	166	علم غیب، حضور و شہود اور قدرت و اختیار
180	خلاصہ: قرآن کریم میں رب العزت نے ۱۸ مختلف اسلوب و انداز سے ۳۳۱ بار اپنے لیے علم غیب، علم کل اور علم محیط و بسیط کا اثبات فرمایا ہے	169	الوہیت کے لوازم و خصائص اور عبادت کے اصول و قواعد
180	تمام ماسوی اللہ سے علم غیب کی نفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں	169	۱- علم غیب
180	صرف پانچ باتوں کا نہیں، بلکہ غیب کی کسی بات کا کسی کو علم نہیں	169	انداز ۱..... علم غیب
183	اطلاع علی الغیب	170	انداز ۲..... علم کل
184	غیب کیا ہے اور کیا نہیں	170	انداز ۳..... علم محیط
185	سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب و علم کل کی نفی	171	انداز ۴..... علم وسیع و بسیط
188	فقہاء اسلام، غیر اللہ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے مدعی کو کافر کہتے ہیں	172	انداز ۵..... آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ سب جانتا ہے
192		173	انداز ۶..... متقین و ظالمین، مصلحین و مفسدین، مجتہدین و مصلحین اور شاکرین و معتمدین اللہ سب کو جانتے ہیں
		174	انداز ۷..... اللہ ہر شخص کو اور اس کی ہر حالت و کیفیت کو جانتا ہے
		174	انداز ۸..... اللہ دلوں کے راز جانتا ہے
		175	انداز ۹..... اللہ ظاہر و باطن، خفی و جلی، اور عیاں و نہاں سب جانتا ہے

194	قدرت و اختیار کی بنیاد پر عبادت الہی کا اثبات اور عدم قدرت کی بنا پر عبادت غیر اللہ کی نفی	194	کاہنوں اور انکی تصدیق کرنے والوں کا حکم غیر اللہ کے لیے علم غیب کا عقیدہ کہاں سے درآمد ہوا
219	قدرت کاملہ اور مکمل اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے	196	۲۔ حاضر و ناظر
224	خلاصہ: اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار اور غلبہ و اقتدار کا ۲۲۳ مقامات پر ذکر ہے اور کسی غیر اللہ کے اختیار کا ذکر پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں	198	اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و موجود ہیں
228	معبودانِ باطل نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے	199	اللہ ناظر و بصیر ہے
230	غیر اللہ کی پوجا پاٹ کا فلسفہ	201	اللہ سمیع و بصیر ہے
230	تمام ماسوی اللہ مطلق بے اختیار ہیں	201	اللہ سمیع و قریب ہے بلکہ اقرب ہے
233	علامہ آلوسی بغدادی کا عجیب بیان	202	اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہیں
235	تمام حضرات انبیاء و رسل مجبور و بے اختیار ہیں	202	اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں
237	سب حضرات نے مشکل کے وقت اللہ واحد کو پکارا	203	اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں اور قبول کرتے ہیں
239	حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے اختیاری	203	خلاصہ: قرآن کریم میں ۷ اسلوب و انداز سے ۸۴ بار اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ حاضر و موجود ہونے کا اثبات ہے
240	امام المرسلین کی بے اختیاری	203	سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اثبات ہر جگہ حاضر و ناظر، سمیع و بصیر اور عالم کُل ہونے کی وجہ و علت!
240	اقلیم بلاغ و ہدایت کے تاجدار کو ہدایت دینے کا اختیار بھی نہیں	204	مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمہ اصول
242	حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اللہ کے خزانوں کے مالک و مختار اور قاسم ہیں، نہ ہی آپ عالم الغیب ہیں، نہ ہی آپ فرشتے ہیں	206	کتاب و سنت میں اس اصول کی رعایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب یا حاضر و ناظر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟
243	سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک و اختیار کی نفی	209	اللہ کی شان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شانِ خَلْقِ و رِزْقِ
245	استخارہ	209	غیر رسول کے متعلق
247	اپنی موت و حیات پر اختیار نہیں	210	فقہائے اسلام کی طرف سے حضرات انبیاء و اولیاء کو حاضر ناظر ماننے والوں کی تکفیر
248	ایک قطرہ بارش پر اختیار نہیں	212	۳۔ قدرت و اختیار
248		212	
		215	
		216	
		218	
		219	

272	اللہ کریم مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض!	250	سب خزانوں کا مالک اللہ ہے، حضرت سائل ہیں
273	ہر حاجت کا سوال صرف اللہ سے کرو	250	علم و فقہ کا معطی اللہ ہے اور حضرت قاسم ہیں
275	قول مجاوراں، شرکانہ وظیفے اور نعرے	251	حضرت علیؓ کا فرمان: مجھے اللہ بچائے گا دعا درحقیقت اختیار کی نفی ہے
275	وفات یافتہ بزرگوں سے سوال کرنا کفر ہے	253	شفاعت، ملک و اختیار کی نفی کا نام ہے
277	محتاج کا محتاج سے طلب کرنا حماقت ہے	253	سنت رسولؐ سے کُل اختیار خاصہ خدا ہونے اور غیر اللہ کے اختیار کی مطلق نفی کا بیان
278	وسیلہ	254	حضرت علیؓ کے وظائف
278	۱۔ توسل بالاعمال والطاعات	254	لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
279	۲۔ توسل بالاسماء الحسنیٰ	256	ہر وقت کا وظیفہ
279	اسماء و صفات باری تعالیٰ	257	اللہ کے حکم کے خلاف ساری دنیا مل کر بھی نفع نقصان نہیں دے سکتی
280	عرفان ذات کا واحد ذریعہ صفات الہی ہیں	258	آثار صحابہؓ و اقوال سلفؓ
280	سنت رسولؐ علیہ السلام	259	حجر اسود سے حضرت عمرؓ کا خطاب
283	۳۔ توسل بکلمات اللہ	260	حضرت محبوبؓ سبحانی کا ارشاد
284	۴۔ توسل بذاتہ	260	کفار کا عقیدہ تھا کہ بت نفع نقصان کے مالک ہیں، مگر اسلام اس باطل عقیدہ کی نفی کرتا ہے
284	۵۔ توسل بصفاتہ	262	صحابہ کرامؓ کے نادر و حیرت انگیز واقعات اور ان کی ایمان افروز کرامات
285	وسیلہ بالذوات	263	یہ گندہ عقیدہ کہاں سے در آمد ہوا ذاتی نہ! بلکہ عطائی
288	بجاہ النبی، حرمتہ النبی	264	مشرکین اپنے معبودوں کو ذاتی طور پر مشکل کشا نہیں سمجھتے تھے بلکہ من جانب اللہ ان کی قدرت و اختیار پر یقین رکھتے تھے
289	درود شریف بہترین وسیلہ ہے	265	دعا
291	Ⓐ	269	دعا عبادت ہے، روح عبادت ہے
350	شرک	269	دعا صرف اللہ کا حق ہے
291	مشرک پر جنت حرام ہے	270	
292	مشرک کے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے		
293	شرک کے عوائل و محرکات		
293	شرک کی بنیاد، توحید و معرفت ربانی پر قائم ہے		
296	معبودان باطل کا خدائے واحد سے تعلق		
296	۱۔ نسبی تعلق		
297	شرک بالاصنام!		
297	بتوں کے نام، اسماء الہی سے مشتق ہیں		
298	شرک بالملائکہ، شرک بالجنات!		

324	شرک فی العبادت	299	شرک بالانبياء ^۴
325	سجدہ	300	۲۔ سکنی تعلق
327	سجدہ لغیر اللہ کا حکم	300	فتنہ حلول و اتحاد، فتنہ وحدت الوجود
328	قبر کا سجدہ		اکابر و عمائد تصوف کی طرف سے ان
	قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی	301	فتنوں کا سدباب
330	اجازت نہیں	304	۳۔ عبدی و قربی تعلق
330	نماز جنازہ	304	شرک بالعباد ^۵
331	مس قبر تک حرام ہے		بت مقصود نہ تھے، بلکہ بت صرف اولیاء و
331	قبر کو بوسہ دینا نصرانیوں کا شیوہ ہے	306	صلحاء کی عبادت کا قبلہ و ذریعہ تھے
332	مزار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم		آج قبریں و خانقاہیں اولیاء اللہ کی عبادت
335	اختیاء (جھکنے) کی بھی اجازت نہیں	308	کا ذریعہ ہیں
336	سلام کرتے وقت جھکنا حرام ہے		پھر اولیاء و صلحاء کی عبادت مقصود نہ تھی بلکہ
336	عبرت	309	قرب و وصل الہی کا ذریعہ تھی
337	نذر (منت)		ابتلاء عظیم، کلمہ گو مسلمان کفار و مشرکین
337	نذر اللہ کا حق ہے	310	کے نقش قدم پر
337	غیر اللہ کی بھینٹ چڑھانے پر عذاب جہنم		مشرکین سابقین اور موجودہ مسلمانوں
338	ذبح وغیرہ ہر عبادت اللہ کا حق ہے	312	کے فہم و فکر اور قول و منطق میں تطابق
339	ذبح و نحر	313	شرک کی تاریخ
	غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا کافر و	313	دنیا میں بت گری و بت پرستی کا آغاز
341	مرتد ہو جاتا ہے	314	اول معبود غیبی من ذون اللہ
	حاکم وغیرہ کی تعظیم کے لیے ذبح کرنا	317	شرک کی اقسام
344	حرام ہے	317	۱۔ شرک فی العلم
345	جنات کے لیے ذبح کرنا حرام ہے	318	۲۔ شرک فی التصرف
346	اولیاء و مشائخ کی نذر و منت	318	۳۔ شرک فی العبادت
	سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح و نذر	319	۴۔ شرک فی العادت
347	حرام ہے	320	۵۔ شرک فی الاطاعت
348	تنبیہ! حرام کو حلال جاننا کفر ہے	322	شرک فی الاطاعت کی حقیقت
349	عند القبر ذبح حرام ہے	322	اطاعت مستقلہ، اطاعت غیر مستقلہ

379	زیارت قبور والدین	348	۶۔ شرک خفی ریاہ
380	شرعی و مسنون زیارت قبر	350	۷۔ اتباع ہواد ہوس شرک عظیم
382	عرس	351	⑨
382	زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین	408	سید ذرائع شرک
383	دین کی مظلومی	351	بیشمار احتیاطی اقدامات کی ایک جھلک
383	صداقت نبوت کی ایک واضح دلیل	352	۱۔ تجاوز فی التعظیم
385	ایصالِ ثواب!	352	مدح و ستائش میں غلو و مبالغہ کی ممانعت
386	پہلے اپنے والدین	352	اسم الہی میں لفظی مساوات کی ممانعت
387	حضرت پیر پیران کی ”گیارہویں“	352	ضمیر تک میں شرکت کی اجازت نہیں
387	درود شریف	353	حضرت نے اپنے لیے قیام تک کی بھی
388	مقام محمود اور وسیلہ کی دعا	354	اجازت نہیں دی
390	۴۔ تصویرِ بت، قبر اور تصویر	355	محبت اور ہوس
393	۵۔ مشرکین کی مخالفت	355	بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہونے کی ممانعت
394	ظاہری شکل و صورت اور حجامت میں بھی فرق	356	جھکنے کی بھی اجازت نہیں
395	عبادت میں بھی مخالفت	357	اللہ تعالیٰ کے نام تک میں تسمیہ کی ممانعت
396	گرجوں میں نماز جائز نہیں	359	قبروں کے نزدیک نماز حرام ہے
397	۶۔ غیر اللہ پر اعتماد کی ممانعت	360	سترہ، نوزو کی تعظیم کفر ہے
397	اسباب سے اعراض	361	۲۔ حلف غیر اللہ کی قسم حرام ہے
398	جنتر، منتر، ٹونے ٹونے ٹونے ممنوع ہیں	363	۳۔ قبر اور فتنہ قبر
400	قرآنی آیات اور سورتوں سے تعوذ	366	قبر اقدس کو حجرہ صدیقہ میں بنانے کی وجہ
401	بدفالی لینا بھی حرام ہے	367	دعائے رسولؐ کی بدرجہ کمال قبولیت
402	اگر مگر شیطانی عمل ہے	368	حضرت دانیالؑ کی مزار چھپادی گئی
403	سوال کرنے سے منع فرما دیا	369	قبر چونے، سچ سے پختہ بنانا جائز نہیں
404	آثار و تبرکات سے بے اعتنائی	370	امام اعظمؒ اور امام شافعیؒ کا مذہب
404	حضرت عمرؓ نے شجرہ بیعت کٹوا دیا	370	ائمہ ثلاثہ کا مذہب
406	آثار اسلاف..... حد ہو گئی	371	اس سلسلہ میں علامہ آلوسیؒ کی عجیب بحث
407	فتنہ و طغیت	376	زیارت قبور
408	حرف آخر	376	مزارات اولیاء کی زیارت بالقصد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مری انتہائے نگارش یہی ہے
ترے نام سے ابتداء کر رہا ہوں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

افتتاح

①

کفر و ایمان کا دار و مدار عقیدہ پر ہے
اور عقیدہ کا ماخذ ہے، کتاب و سنت!



الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی!

اللہ رب العزت کا بے حد و بے شمار شکر ہے جس نے محض اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اپنے ایک نہایت عاجز و حقیر بندے کو اپنی توحید کی خدمت کی توفیق بخشی۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ حَمْدًا كَثِیْرًا۔

توحید دین اسلام کی اصل و اساس ہے۔ توحید پر ہماری دونوں جہاں کی فوز و فلاح کا دار و مدار ہے۔ توحید ہماری نجاتِ آخرت کی ضمانت ہے، عقیدہ توحید کی صحت کے بغیر انسان عذابِ جہنم سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی رحمت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔

توحید تو تمام عقائد کی جڑ ہے، اصل الاصول ہے، اس کا مقام تو بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ عظمتِ قدر و رفعتِ شان سے قطع نظر مطلق عقیدہ کی اہمیت ملاحظہ ہو۔

عقیدہ کی اہمیت: عقائد پر کفر و ایمان اور آخرت کی نجات و عذاب کا مدار ہے اور عقائد ہی اصل دین و ایمان ہیں، بلکہ ایمان کہتے ہی عقائد و تصورات کو ہیں، اعمالِ صالحہ کو عموماً اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آخرت کی نجات اور فوز و فلاح ایمان پر منحصر ہے نہ کہ اعمال پر۔

اعمالِ صالحہ دین کی فرع ہیں، اصل دین و اساس اسلام عقائد ہیں۔ درخت کی بقاء فروع سے نہیں اصول سے ہے۔ شاخوں اور پتوں سے درخت قائم نہیں رہتا، درخت اگر قائم رہتا ہے تو جڑوں سے۔ خود شاخوں، ٹہنیوں اور برگ و بار کی سرسبزی و تری جڑوں سے ہے۔ جڑیں کاٹ

دی جائیں تو سارے کا سارا اورخت گر جائے گا اور ایک بھی پتہ سبز و شاداب نہیں رہے گا۔ جیسے دل و دماغ انسان کی اصل ہے اور ہاتھ پاؤں، آنکھ، ناک، کان، زبان فروغ ہیں۔ ہاتھ کٹ جائے، آنکھ بے نور ہو جائے، کان بہرے ہو جائیں یا زبان گنگ ہو تو انسان مر نہیں جاتا زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر دل فیل ہو جائے تو فوراً مر جاتا ہے۔ اب زندگی کی کوئی صورت نہیں، زندگی نام ہی دل کی حرکت کا ہے۔

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے

کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے

خود آنکھ کا نور، زبان کا نطق، کان کا سماع، ہاتھ کی گرفت اور پاؤں کی رفتار یہ سب دل ہی کی حرکت و حرارت کا کرشمہ و ثمرہ ہے۔ اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو نہ آنکھ میں نور رہے نہ زبان میں گویائی، نہ کان سن سکیں، نہ ہاتھوں میں قوت گرفت اور پاؤں میں طاقت رفتار رہے۔ معلوم ہوا تمام اعضاء کی زندگی اور موت دل و دماغ کی زندگی سے عبارت ہے۔ ایک دل ختم، ہر شے خود بخود ختم! زندگی ختم!۔

تم گئے ساری کائنات گئی

دل گیا رونق حیات گئی

جس طرح دل انسان کی اصل ہے اور ہاتھ پاؤں وغیرہ فرع، اسی طرح دین کی اصل عقائد ہیں، اور اعمال صالحہ فرع۔ اعمال صالحہ کا صدور و ارتکاب خود صحیح عقائد کا نتیجہ و کرشمہ ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو تقویٰ و طہارت اور عمل صالح کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا، نام و نشان تک نہیں ملتا۔

اعمال و کردار کی صحت و سلامتی اور دین کی درستی و راستی کا دار و مدار عقائد و ایمان پر ہے۔

عقائد ہی اصل دین و اساس ایمان ہیں۔

عقیدہ کا ماخذ: ادھر تعلیمات دین کی اصل و اساس کتاب و سنت ہے، لہذا بمصداق ”الاصل بالاصل“ عقیدہ کتاب اللہ اور سنت متواترہ سے ثابت ہوگا۔

یہ آیات محکمات سے ماخوذ ہوگا، یا احادیث صریحہ متواترہ سے۔ خبر واحد (حدیث) گویا ہو، اثبات عقیدہ کے لیے کافی نہیں۔ حدیث صحیح سے عمل تو ثابت ہو سکتا ہے، عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ شرح عقائد وغیرہ عقائد کی مشہور کتابوں میں ہے کہ خبر واحد سے صرف ظن کا فائدہ ہو سکتا ہے، علم یقینی فقط حدیث متواترہ سے حاصل ہوتا ہے۔

افادة خبر الرسول للعلم اليقيني إنما يكون في المتواتر فقط وأما إذا كان منقولاً بالأحاد فلا يفيد إلا الظن كما تقرر في أصول الفقه^١ علم يقيني کا فائدہ فقط وہی حدیث رسول دے سکتی ہے جو متواتر ہو۔ رہی خبر واحد سو وہ صرف مفید ظن ہو سکتی ہے جیسا کہ اصول فقہ سے ثابت ہے۔
خبر واحد مفید للظن ہے، اس سے یقینی اور قطعی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ علامہ پرہاروی رقمطراز ہیں:

ومعرفة العقائد عن أدلتها... وقيد الجمهور الأدلة بالقطعية لأن اتباع الظن في العقائد مذموم.^٢

جن دلائل سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، جمہور نے قید لگا دی ہے کہ وہ دلائل قطعیات سے ہوں (کتاب اللہ یا احادیث متواترہ سے، نہ کہ خبر واحد سے جو مفید ظن ہے) کیونکہ عقائد کے بارے میں ظن کا اعتبار و اتباع مذموم ہے۔
شیخ الاسلام حافظ ابن حجر (متوفی ۸۵۲ھ) لکھتے ہیں:

الاحادیث إذا كانت في مسائل عملية يكفي في الاخذ بها بعد صحتها لإفادتها الظن أما إذا كانت في العقائد فلا يكفي فيها إلا ما يفيد القطع.^٣
اعمال کے بارے میں احادیث صحیحہ سے استدلال کافی ہے کیونکہ صحیح احادیث ظن کا فائدہ دیتی ہیں، لیکن عقائد کے بارے میں صرف وہی احادیث کافی ہوں گی جو قطعیت کا فائدہ دیں۔

شیخ الاسلام علامہ محی الدین نووی (المتوفی ۷۶۷ھ) شرح مسلم میں لکھتے ہیں:
فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء واصحاب الاصول^٤ أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم... و

١ شرح لشرح العقائد (نبراس) ص ۸۷۔ ٢ "نبراس" شرح لشرح العقائد ص ۲۲۔

٣ "فتح الباری" جلد ۸ ص ۳۳۱۔ ٤ اصول شاشی سے لے کر توضیح کوثر تک اصول فقہ نیز اصول حدیث کی کتابوں میں بھی بیان ہے کہ خبر واحد مفید ظن ہوتی ہے۔

أَمَّا مَنْ قَالَ يُوجِبُ الْعِلْمَ فَهُوَ مُكَابِرٌ لِلْحَسَنِ ۱

حضرات صحابہ و تابعین اور ان کے بعد محدثین و فقہاء اور اصولیوں جمہور مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خبر واحد صحیح شرعی دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس سے عمل واجب ہوتا ہے اور یہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، علم (یقینی) کا فائدہ نہیں دیتی، (لہذا اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا) جس نے یہ کہا کہ اس سے علم و عقیدہ واجب ہوتا ہے وہ ظاہر حقیقت کا مخالف و منکر ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ کتاب اللہ سے ماخوذ ہونا لازم ہے، یا پھر احادیث متواترہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کے ساتھ تعلیم دی ہو، بارہا تاکید فرمائی ہو اور ساری عمر اس کی تبلیغ فرماتے رہے ہوں۔

پھر آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد حضرات تابعین و تبع تابعین اور آئمہ مجتہدین رحمہم اللہ یعنی جمہور امت کا اس پر اتفاق و اجماع ہو۔

مگر آہ! کہاں عقائد میں خبر واحد کا اتباع مذموم اور خبر واحد سے عقیدہ ثابت کرنے کا مدعی ظاہر حقیقت اور امر محسوس کا مکار و منکر، اور کہاں آج خبر واحد، حدیث صحیح تو بجائے خود، ضعیف حدیث بھی کجا! موضوع روایات سے بلکہ قصوں کہانیوں، گیتوں، گانوں، ڈوہڑوں، کافیوں اور خوابوں خیالوں تک سے عقیدے ثابت کیے جاتے ہیں اور خرافات سے حقائق کا منہ چڑایا جاتا ہے، اقبالؒ نے سچ کہا ہے۔

حقیقت خرافات میں کھو گئی

یہ اُمت روایات میں کھو گئی

ہماری اس کتاب ”توحید اور شرک کی حقیقت“ کا موضوع عقیدہ و ایمان ہے۔ توحید دین حنیف کی اصل ہے، ”اصل الاصول“ ہے، اس لیے ہمارا ماخذ و مستدل کتاب اللہ ہوگی۔ ہمارا اولین استدلال قرآن پاک سے ہوگا۔ بعدہ احادیث صحیحہ مشہورہ سے۔ گویا ہمارا اصل ماخذ قرآن کریم ہوگا۔ پھر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تمسک کیا جائے گا۔ کہیں کہیں کتاب و سنت کے بعد اقوال سلف صالحین ارشادات صحابہ رضی اللہ عنہم و آئمہ بھی بطور تائید پیش کیے جائیں گے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

۱ شرح صحیح مسلم جلد اول ص ۴۲

جس ذات پاک رب العزت نے مجھے اس خدمت کی توفیق عطاء فرمائی ہے، اس کے فضل و کرم سے بعید نہیں کہ وہ ذات کریم و رحیم اسے قبول بھی فرمائیں، پھر اسے جہاں اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں، وہاں اپنے اس رُوسیاہ بندے کی نجاتِ آخرت کا وسیلہ بنا دیں۔

الہی! تجھے تیری ذات کا واسطہ اپنے اس گنہگار بندے کا خاتمہ عقیدہ توحید پر فرما، نہ صرف میرا بلکہ اپنے تمام مسلمان بندوں کا خاتمہ اپنی توحید پر فرما، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان و یقین پر فرما اور ایمان کامل پر فرما۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَيْكَ بِعَزِيزٍ. اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاِنَّكَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. وَصَلِّ عَلٰى حَبِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

ایک عاجز و حقیر بندہ

نور الحسن بخاری

قدیر آباد، ملتان شہر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(۲)

تمہید

نجاتِ آخرت و دخولِ جنت کا واحد ذریعہ

توحید و ایمان ہے!



اسلام کامل دین ہے، اس لیے یہ دارین کی فوز و فلاح اور سرخروئی و سرفرازی کا کفیل و ضامن ہے۔ دوسرے مذاہب اول تو سرے سے آخرت کے یقین و تصور سے بیگانہ و نا آشنا ہیں، یا پھر عالمِ آخرت میں نجات و فلاح کا قطعاً کوئی واضح لائحہ عمل پیش نہیں کرتے۔

اسلام نہ صرف آخرت کا یقین دلاتا ہے بلکہ صحیح معنوں میں بیت القرار، دارالبقاء، یعنی خلود و ہمیشگی کا گھر اور مستقر و مقامِ آخرت ہی کو قرار دیتا

ہے۔ دنیا تو اسلام کی نگاہ میں ایک رہ گزریا سفرِ آخرت کے دوران شبِ بسری کے لیے ایک سرائے یا پھر مزرعۃ الآخِرہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب اسلام اس رہگور، سرائے اور دارِ فانی میں اپنے حلقہ بگوشوں، بشرطیکہ وہ سچے مسلمان اور صحیح مردِ مومن ہوں، کو کامیابی و فائز المرامی کی بشارت و ضمانت دیتا ہے تو وہ عالمِ جاودانی کی فوز و فلاح سے کیسے صرف نظر کر سکتا ہے؟ اور نجاتِ آخرت سے حلقہ بگوشانِ اسلام کو کیوں کر محروم رکھ سکتا ہے؟

دنیا تو فانی اور گزر جانی ہے، اس میں اگر انسان کو آرام و سکون نصیب نہ ہو تو بھی یہ گزر جائے گی ع

بھلی اور بُری سب گزر جائے گی

لیکن اگر آخرت میں بھی چین نہ ملا، تو کیا ہوگا؟ وہ تو گزر جانے والی دنیا ہی نہیں، وہ تو خلود و ہمیشگی کی دنیا ہے، اگر وہاں راحت نصیب نہ ہوئی تو کوئی کیا کرے گا؟

دنیا میں انسان پریشان ہو تو آلام و مصائب سے گھبرا کر یہ کہتے ہوئے اپنے دل کو تسکین و تسلی دینے کی سعی و کوشش کرتا ہے کہ چار دن کی زندگی ہے، آخر گزر جائے گی۔ مر جائیں گے، غم

دنیا سے چھوٹ جائیں گے، لیکن..... خدا بچائے..... اگر آخرت میں بھی صورتِ حال یہی رہی،
مر کر بھی نہ چھوٹے تو پھر؟

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے

مَر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟

پھر آخرت کے عذاب کو دنیا کے دکھ درد پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، خدا محفوظ رکھے، عذابِ
جہنم! وہ عظیم و الیم عذاب ہے جس کی شدت و سختی اور دردناکی و الم انگیزی کا اندازہ بھی نہیں کیا جا
سکتا، خدائے رحیم آگ کی عقوبت و اذیت اور تعذیب و ہلاکت سے بچائے۔ اس کی جگر گدازی
و دل سوزی کا تصور کون کر سکتا ہے؟ پھر اس پر مستزاد اس کا خلود، اس کی ہمیشگی، اس کی بقا و
ابدیت، العیاذ باللہ! مسلسل اور غیر مختتم عذابِ جہنم! آدمی اس میں جسے گانہ مرے گا۔ لَا يَمُوتُ
فِيهَا وَلَا يَحْيِي.

دنیا میں لاکھ مصائب و شدائد سہی! مگر انسان مر گیا، سب ختم۔ مشکل تو یہ ہے کہ عذابِ
آخرت سے نجات کی کوئی شکل و صورت نہیں۔ انسان مَر بھی تو نہیں سکے گا، قیامت کے دن خود
موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جب موت ہی مرگئی تو اب کوئی کیسے مرے؟

عذابِ آخرت سے نجات کی واحد صورت: جس کو بھی اپنی جان سے

کچھ پیار ہے وہ اپنے

پیارے نفس و وجود کو اس عذابِ شدید و الیم سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اسلام اس عذاب
سے بچانے کی بشارت بلکہ ضمانت دیتا ہے اور اس سے نجات کی واحد صورت پیش کرتا ہے۔
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى
اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (متفق علیہ)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور کسی چیز کو بھی اس کا

۱ صحیح بخاری، صحیح مسلم ("مشکوٰۃ المصابیح" باب الحوض والشفاعة)

۲ واضح ہو کہ متفق علیہ سے وہ حدیث مراد ہوتی ہے جس کی روایت پر امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ دونوں متفق
ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں میں وہ حدیث موجود ہو۔

۳ "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب الایمان الفصل الاول۔

شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ جو کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے، وہ اس کو عذاب نہ دے۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم (اور ترمذی) نے روایت کیا ہے۔

۲۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حَقُّ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَحَقُّ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ. (رواہ احمد)

خدا کا حق لوگوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ جب لوگ ایسا کریں تو اللہ پر حق ہے کہ پھر انہیں عذاب نہ دے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔

حق العباد علی اللہ: اللہ تعالیٰ سب کا خالق و مالک اور رازق و پروردگار! بندہ، اس کا مخلوق و مملوک، محتاج و مرزوق! اس کا اپنے خالق و مالک پر کیا حق؟ اللہ رب العزت کی ذات پاک پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں خالق و مالک اور رب العالمین ہیں وہاں الرحمن اور الرحیم بھی ہیں، یہ ان کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اپنے مملوک و محتاج بندوں پر فضل و کرم اور جو دو احسان کی بارش کرتے ہیں اور پھر اس اہتمام سے کرتے ہیں کہ گویا یہ اس خالق و مالک اور آقا و مولیٰ پر اس کے عاجز بندوں کا واقعی حق ہے۔ اس حقیقت کو لسان رسالت نے حق العباد علی اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ ورنہ مخلوق کا خالق پر اور بندوں کا آقا و مولیٰ پر کیا حق؟ ان ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس درجہ صراحت سے یہ حقیقت بیان فرمادی گئی ہے کہ:

۱۔ جب بندے اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے۔

۲۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عذاب نہیں دیں گے۔

تو عذابِ آخرت سے نجات کی واحد صورت یہ ہے کہ:

بندہ اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں اللہ واحد کے سوا تمام معبودوں کی نفی کر کے اسی حقیقت کو ذہن نشین کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان بچہ جب پیدا

۱۔ "ترجمان السنۃ" (از حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی ثم مہاجر مدنی) جلد اول حدیث نمبر ۵۳۔

ہوتا ہے تو سب سے پہلی آواز جو اس کے کانوں کے راستے اس کے دماغ تک پہنچائی جاتی ہے وہ یہی کلمہ شہادت ہے **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** جس میں معبودِ واحد اللہ تعالیٰ کی معبودیت کے اقرار و اعلان سے پہلے غیر اللہ کی الوہیت کی نفی ہے۔ ایک غیر مسلم جب دائرہ اسلام و ایمان میں داخل ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا درس و سبق دیا جاتا ہے۔

جو بندہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہتا ہے وہ گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ واحد کے سوا کسی کو معبود تسلیم نہیں کرتا۔ میں اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ تو جو بھی صدق و خلوص کے ساتھ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پڑھ کر یہ اعلان کرتا ہے، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔

۳۔ حضرت عثمان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کہے گا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. (رواہ البخاری)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا مندی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے۔

جو شخص لوجہ اللہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہے گا جہاں اس پر نارِ جہنم حرام ہوگی، وہاں یہ شخص بھی نارِ جہنم پر حرام ہوگا۔

کلمہ اخلاص و کلمہ تقویٰ: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں۔

لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ. جسے جو بھی اللہ کا بندہ صدقِ دل سے کہے گا وہ دوزخ پر حرام کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں وہ کلمہ کیا ہے، وہ کلمہ اخلاص ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو عزت بخشی ہے۔ اور یہ وہی کلمہ تقویٰ ہے جسے قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کی وفات کے وقت اصرار کرتے رہے، وہ کلمہ ہے:

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس کی گواہی کہ معبود کوئی نہیں مگر اللہ۔

اسے امام احمدؒ نے روایت کیا ہے۔^۱

اللہ پاک کی وحدت و توحید کی شہادت کا کلمہ ہی کلمہ اخلاص و کلمہ تقویٰ ہے، اور اسی کلمہ پاک سے اہل اسلام کو دنیا میں عزت ملی اور اسی سے مومنین موحدین آخرت میں نارِ جہنم سے محفوظ رہیں گے۔

مدارِ نجات: انسان کی اخروی نجات کا انحصار اسی کلمہ شہادتِ توحید پر ہے۔

۵۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ہمارے دین میں مدارِ نجات کیا ہے؟ فرمایا: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهُوَ لَهُ نَجَاةٌ۔
اسے ابو یعلیٰ، عقیلی اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔^۲

۶۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْبَى رَسُولُ اللَّهِ، جو بندہ سچے دل کے ساتھ یہ دو شہادتیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی گرمی سے بچالے گا۔ اسے ابن راہویہ، عدنی، ابو یعلیٰ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔^۳

۷۔ حضرت عبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْبَى رَسُولُ اللَّهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ أَوْ تَطْعَمُهُ۔
(رواہ مسلم و بخاری مع تغایر)^۴

کوئی شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور اس کی گواہی دے کہ میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہوں (یہ نہیں ہو سکتا کہ) پھر وہ دوزخ میں داخل ہو، یا ارشاد فرمایا کہ دوزخ اسے جلا سکے۔

شہادتِ توحید و رسالت: اوپر کی دو احادیث میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت بھی

۱۔ "ترجمان النہ" جلد دوم حدیث نمبر ۲۹۶۔

۲۔ "ترجمان النہ" جلد دوم حدیث نمبر ۲۹۲۔

۳۔ ایضاً حدیث نمبر ۲۹۴۔

۴۔ "ترجمان النہ" جلد دوم حدیث نمبر ۳۹۱۔

مذکور ہے۔ اسی طرح متعدد احادیث میں دونوں شہادتوں کا ذکر ملاحظہ ہو۔

۸۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ (حضرت) معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، آپ نے تین بار یا معاذ کہہ کر (معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف متوجہ کر کے) فرمایا:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

(متفق علیہ)

جو شخص بھی سچے دل سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ اسے جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

۹۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَشْهَدُ أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کی آواز سن کر فرمایا: میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں وَأَشْهَدُ أَنْ لَا يَشْهَدُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَرِيٌّ مِنَ الشِّرْكِ. (رواہ احمد والطبرانی)

اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص بھی یہ گواہی دے وہ شرک سے بری ہوا۔

۱۰۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں سنا مؤذن نے کہا اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو فرمایا: نارِ جَهَنَّمَ سے بچ گیا۔ (رواہ البزار)

مدارِ نجات ایمان باللہ و ایمان بالرسول ہے:

نجاتِ آخرت کا دار و مدار ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول پر ہے۔ جن آیات و احادیث میں صرف توحید کو مدارِ نجات فرمایا گیا ہے، اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ نجاتِ آخرت کے لیے صرف توحید کافی ہے، بلکہ نجات کے لیے توحید کے ساتھ رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے۔

چونکہ اللہ کی توحید پر صحیح ایمان، رسول پر ایمان لائے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا، ایمان بالرسول ہی درحقیقت ایمان باللہ کا ذریعہ ہے، اس لیے اس ظاہر ذریعہ اور وسیلہ کا ذکر بعض جگہ ضروری نہیں سمجھا گیا، اور غائب و غیر مرئی محسوس ذات پاک باری تعالیٰ ہی پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔

۱۔ "مکتوٰۃ" کتاب الایمان الفصل الاوّل۔

۲۔ "ترجمان السنۃ" جلد دوم، حدیث نمبر ۱۲۹۱ الف۔

۳۔ ایضاً۔

152306

جو احادیث صحیحہ نہایت اعلیٰ درجہ کی ہیں اور ان میں شہادت کا ذکر موجود ہے ان میں عموماً توحید کی شہادت کے ساتھ شہادت رسالت کا ذکر بھی ہے، اور جن احادیث میں صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مذکور ہے وہاں رسالت کا ذکر محذوف ہے، ورنہ توحید کے ساتھ ایمان بالرسول لازمی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ (المتوفی ۷۲۸ھ) کیا خوب فرماتے ہیں:

أَنَّ التَّوْحِيدَ وَالْإِيمَانَ بِالرُّسُلِ مُتَلَازِمَانِ وَكُلُّ أُمَّةٍ لَا تُصَدِّقُ الرَّسُولَ فَلَا تَكُونُ إِلَّا مُشْرِكَةً وَكُلُّ مُشْرِكٍ فَإِنَّهُ يُكَذِّبُ الرَّسُولَ ۚ

توحید اور رسولوں پر ایمان لانا دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جو لوگ رسولوں پر ایمان نہیں لاتے وہ مشرک ہوتے ہیں، اور ہر مشرک بالیقین رسولوں کی تکذیب کرتا

ہے۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ
ایک اور مقام پر اس

دین اسلام کے دو اصول اور کلمہ طیبہ کی حقیقت:

حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں:

فَدِينُ الْإِسْلَامِ مَبْنِي عَلَى أَصْلَيْنِ مَنْ خَرَجَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا عَمَلَ لَهُ وَلَا دِينَ أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَعَلَى أَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا شَرَعَ لَا بِالْحَوَادِثِ وَالْبِدَعِ وَهُوَ حَقِيقَةُ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ

دین اسلام کے دو اصول ہیں، جو شخص ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے نہ اس کا کوئی عمل معتبر ہے نہ دین، ایک یہ کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، دوسرا یہ کہ اس کی عبادت شریعت کے مطابق کریں، نہ کہ بدعت اور اپنے ایجاد کردہ طریقوں کے مطابق، اور یہی کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی حقیقت ہے۔

تو توحید کے ساتھ رسالت پر ایمان لازمی ہے۔ صرف خدائے واحد کی عبادت ہو اور رسول خدا کے فرمان کے مطابق، یہ دین اسلام ہے۔ جہاں غیر اللہ کی عبادت شرک ہے وہاں رسول خدا کی

۱۔ کتاب الرذی علی البکری ص ۲۶۶ ("ترجمان السنۃ" جلد دوم صفحہ ۴۴)

۲۔ کتاب الرذی علی البکری ص ۵۳ ("ترجمان السنۃ" جلد دوم صفحہ ۴۴ و ۴۵)

سنت کے خلاف بدعات و حوادث کے مطابق خدائے واحد کی عبادت بھی رسالت کا کفر ہے۔ دین اسلام کے دو اصول ہیں، توحید اور رسالت۔ اگر کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا تو وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَا وُضوءَ لَهُ وَلَا وُضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِبِيٍّ وَلَا يُؤْمِنُ بِبِيٍّ مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ.

(رواہ احمد والدارقطنی)

جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں اور جو (شروع میں) خدا کا ذکر نہ کرے (یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے) اس کا وضو نہیں اور جو مجھ پر ایمان نہ لائے اس کا خدا پر بھی ایمان نہیں اور جو انصار سے محبت نہ کرے، اس کا میرے ساتھ ایمان نہیں۔

(اس حدیث کو امام احمد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے)

شرائطِ ایمان: پھر صرف شہادت توحید و رسالت ہی تک ایمان محدود نہیں، ایمان کے شرائط کچھ اور بھی ہیں، جب تک ان تمام پر ایمان نہ ہو، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تک بندہ چار باتوں پر ایمان نہ لائے، ایماندار نہیں ہو سکتا۔

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ.

(رواہ الترمذی وابن ماجہ)

اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور موت پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان رکھتا ہو۔

شہادت توحید و رسالت کے بعد موت و بعث بعد الموت (قیامت) اور تقدیر الہی پر ایمان لازمی ہے، اسی طرح ملائکہ اور کتب اور جمیع رسل پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ علیہم السلام۔

ایمان مفصل: اَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. یعنی میں ایمان لایا اللہ

۱ "ترجمان السنۃ" جلد اول حدیث نمبر ۶۳۔

۲ "مشکوٰۃ المصابیح" باب الایمان بالقدر۔

پر اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور آخری دن (قیامت) پر اور تقدیر پر بھلی اور بُری سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔

عنوان ایمان: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَا كَلِمَةَ طَيْبَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

درحقیقت ایمانیات کا عنوان ہے۔ اس کے تحت بعث بعد الموت،

قیامت، جنت، دوزخ، کتب، ملائکہ اور رُسل وغیرہم تمام مومن بہا امور داخل ہیں۔ ان چیزوں پر جو غائب ہیں اور عقول انسانی کی دسترس سے باہر، عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی، ایمان لانا لازمی ہے۔ ان پر ایمان، رسول پر ایمان لائے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ایمان کا عنوان ہے۔ ورنہ نجات کے لیے ایمانِ کامل کی ضرورت ہے۔ ایمان کی تمام شرطوں پر قلبی یقین ہوگا، توحید کے ساتھ نبی کریم اور دوسرے جمیع حضرات انبیاء علیہم السلام کی رسالت پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، قیامت پر، بعث بعد الموت پر ایمان ہوگا تو انسان جہنم سے بچ سکے گا۔

ایک عجیب حقیقت: یہاں ایک عجیب حقیقت سمجھ لینی چاہئے کہ گونجات کے لیے ان تمام شرائط ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر خود یہ تمام

شرائط ایمان توحید کے متعلقات ہیں۔ اصل نجات توحید ہے۔ رسول کے بغیر چونکہ صحیح توحید نصیب نہیں ہو سکتی، رسالت ہی دراصل وسیلہ توحید ہے، اس لیے رسالت پر ایمان ضروری ہوا۔ پھر رسول توحید کا سبق نہیں پڑھا تا جب تک اس پر فرشتہ (جبریل امین) نازل نہ ہو، لہذا ملائکہ پر ایمان لازمی ہے۔ پھر فرشتہ نہیں آتا جب تک پیغام الہی ساتھ نہ لائے، لہذا کتب پر ایمان ضروری ہوا۔ پھر توحید کے نتیجہ نکلنے کا دن، بعث بعد الموت ہے، زلث آؤٹ ہونے کی تاریخ قیامت ہے، لہذا اس پر بھی ایمان بہر حال لانا ہے۔ تو یہ تمام متعلقات توحید ہیں۔ اصل نجات، مدار نجات، توحید ہے۔

ایسا رہ اور عمل: گو ایمان مطلق تصدیق قلبی کا نام ہے، مگر ایسی خشک تصدیق نہ، جس میں عمل صالح کے برگ و بار قطعاً نہ ہوں، بلکہ ایسی سرسبز اور سدا بہار

تصدیق جس پر اعمالِ حسنہ کی بیسیوں شاخیں اور ٹہنیاں پھوٹیں، سینکڑوں رنگارنگ پھول کھلیں، ایمان ایک ایسا شجرہ طیبہ ہے، جس کی اعمالِ صالحہ کی شاخیں اور فروع سدا بہار اور فی السما ہوں،

اور جو عبادات و حسنات کے پھولوں اور پھلوں سے ہر آن لدا پھنڈا رہے۔ گشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء توتی اکلہا کل حین یاذن ربہا (۱۳۔ ابراہیم) یعنی پاکیزہ درخت کی طرح جس کی جڑ محکم ہے اور شاخیں بلند و بالا اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔

چنانچہ حدیث پاک میں ایمان کی ستر سے اوپر شاخیں بیان فرمائی گئی ہیں، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم

الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. (متفق علیہ)۔
ایمان کی ستر سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنیٰ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز (کاشا وغیرہ کو) ہٹا دینا ہے، اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

جہاں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ شجر ایمان کا افضل شعبہ و شاخ ہے، اصل ایمان ہے، وہاں حیاء اس کی ایک عظیم شاخ ہے اور راستے سے اینٹ، روڑا، پتھر، کاشا وغیرہ ہٹا دینا بھی ایمان کی علامت ہے۔ کلمہ توحید اسلام کے پورے مضمون کا عنوان ہے، سرنوشت ہے۔ کلمہ اجمال ہے، اسلام اس کی تفصیل ہے۔ کلمہ بیج ہے، اسلام درخت۔ جس طرح ایک چھوٹے سے بیج میں بڑے سے بڑا درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح اس مختصر سے چار لفظی کلمے میں پورا اسلام مستور و مخفی ہے۔

جنت میں داخلہ: اگر بندہ شرک کی نجاست سے آلودہ و ملوث نہیں ہوا، اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو نہ صرف اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطاء فرمائیں گے، اور وہ ابد الابد راحت و آرام سے رہے گا۔ البتہ مشرک پر جنت حرام ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ قولہ تعالیٰ: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (مائدہ، ۱۰ع)

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا: مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں جب اسے کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ ”مخلوۃ الصالح“ کتاب الایمان۔

تَعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ.... (متفق علیہ)^۱

تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز ادا کر، زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس شخص نے کہا: اس ذات ک قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نہ اس پر زیادہ کروں گا، نہ اس میں کمی کروں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جسے جنتی شخص کو دیکھنا منظور ہو وہ اسے دیکھ لے۔“

۲۔ حضرت رفاعہ جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَدَقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يَسُدُّ إِلَّا سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ.

میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ بھی سچے دل سے گواہی دیتا ہو امرے گا کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں اور میں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا رسول ہوں، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ (اسے احمد، طبرانی، بغوی، ماروردی، ابن قانع اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے)^۲

۳۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے

جنت میں داخل کر دے اور نار (جہنم) سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے امر عظیم سے متعلق سوال کیا، فرمایا: تَعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمِ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ... (رواہ احمد والترمذی و ابن ماجہ)^۳

بعض ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز، روزہ، حج، اور زکوٰۃ ارکان دین کو ان کی دین میں اہمیت کے پیش نظر

بیان فرمایا گیا ہے۔ ورنہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلہ کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

۴۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا:

۱۔ ”مکلوٰۃ الصالح“ کتاب الایمان الفصل الاوّل۔

۲۔ ”ترجمان السنۃ“ جلد دوم، حدیث نمبر ۲۹۵۔

۳۔ ”مکلوٰۃ الصالح“ کتاب الایمان الفصل الثانی۔

اتانی جبریل علیہ السلام فبشرنی انه من مات من مات من أمّتك لا یشرک
باللہ شیئاً دخل الجنة. (رواہ الشیخان والترمذی^۱)

جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، اور مجھے بشارت دی کہ تیری امت میں سے
جو (اس حال میں) مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں
داخل ہوگا۔ (اس حدیث کو بخاری، مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے)۔

انسان امت رسول میں سے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے کافر نہ ہو پھر اگر اس
نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔

ذیل کی حدیث میں صراحت کے ساتھ شرک کو موجب جہنم اور عدم شرک کو باعث جنت
فرمایا گیا ہے:

۵۔ بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: صلی اللہ علیہ وسلم

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ
شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواہ مسلم)^۲

جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر مرا، وہ جہنم میں داخل ہوا، اور جو (اس
حال میں) مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اسے
امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے باب الدلیل علی ان من مات لا یشرک باللہ...
میں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس مضمون کی متعدد روایات کی ہیں۔

۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: جو تجھے
ملے (اور وہ) دلی یقین کے ساتھ

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَقِينًا بِهَا قَلْبَهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. (رواہ مسلم)^۳

یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تو اسے جنت کی بشارت دے دے۔

۱۔ ائمہ حدیث میں شیخین سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں۔

۲۔ ترجمان السنۃ "جلد اول حدیث نمبر ۱۹۶۔

۳۔ "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب الایمان الفصل الثالث۔

۴۔ ایضاً۔

تصدیق بالقلب: پہلے ایک ارشادِ پاک میں صدقاً من قلبہ کے الفاظ مبارک اور اس حدیث شریف میں مستیقناً بہا قلبہ کے ارشادِ کریمہ سے یہ

حقیقت واضح ہو گئی کہ مطلق زبان سے رکی طور پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ دینا کافی نہیں بلکہ توحید باری تعالیٰ کا یقینی علم اور قلبی ایمان نجاتِ جہنم اور دخولِ جنت کے لیے ضروری ہے۔ تصدیق قلبی کے بغیر اقرارِ لسانی کی کوئی قیمت نہیں، اصل چیز دلی علم و یقین اور قلبی ایمان و تصدیق ہے۔

معصیت پر بھی دخولِ جنت کی بشارت: بندے کی معصیت و گنہگاری کی کوئی نہ کوئی حد ہے، اللہ غفور

رحیم کی رحمت کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ فسق و عصیان سے بندے کا دامن کتنا ہی ترتر اور آلودہ کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت اسے غفورِ گزر کے پانی سے دھو ڈالتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بندہ باغی نہ ہو، یعنی شرک کی لعنت میں ملوث نہ ہو، چنانچہ بروایت سلمہ بن نعیم ارشاد فرمایا: **مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ مَرَقَ.**

(رواہ احمد والطبرانی)

جو اللہ سے (اس حال میں) ملے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ جنت میں جائے گا اگرچہ زنا اور چوری کا مرتکب ہوا ہو۔ (اس حدیث کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے)۔

۲۔ بروایت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: جبریل میرے پاس آیا اور مجھے بشارت دی کہ: **أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ مَرَقَ وَإِنْ زَنَى.**

جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ میں نے کہا اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔ کہا: اگرچہ چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ گناہ کی ترغیب دی جا رہی ہے، معاذ اللہ۔ یہ تو محض ایک حقیقت کا بیان ہے اور رحمتِ الہی کی وسعت و بکیرانی کا اظہار! ورنہ اسلام تو گناہ کی بیخ کنی کرتا ہے۔ کتاب و

۱۔ "ترجمان السنۃ" جلد اول حدیث نمبر ۱۹۷۔

۲۔ "صحیح بخاری" کتاب التوحید باب کلام الرب مع جبرئیل۔

سنت میں فسق و فجور سے اجتناب کی بصراحت و شدت تعلیم دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کبار کا ارتکاب نہ کرنے کی بیعت لیتے تھے۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آس پاس بیٹھی ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت سے فرمایا:

بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا... فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

(متفق علیہ)

تم میری بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے... پس ہم نے ان باتوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔

اسلام کو گناہ سے گھن آتی ہے۔ اللہ کی کتاب پاک اور اللہ کا محبوب رسول جو مسلم معاشرہ تیار کرتے ہیں، اس میں فسق و فجور اور جرم و عصیان کی گنجائش کہاں؟ مسلم معاشرہ میں چور کے ہاتھ قلم کر دیئے جاتے ہیں، اور زانی کو تو کوڑے یا پتھر مار مار کر مار ہی دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں سرقہ و زنا کی ترغیب کہاں؟

لیکن یہ حقیقت ہے کہ زنا اور چوری وغیرہ کبیرہ گناہ ہیں، گناہ خدا کی نافرمانی تو ہے، پر بغاوت نہیں، شرک بغاوت ہے۔ گناہ معاف کیے جاسکتے ہیں، بغاوت معاف نہیں کی جاسکتی۔ مرد مسلم موحّد کے اعمال سببہ محمود معاف کر دیئے جائیں گے، اگر اس کا عقیدہ توحید درست ہے۔ اگر اس کا ایمان کامل ہے تو اسے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمادیں گے خواہ اس میں عملی کمزوریاں کیوں نہ ہوں۔

۳۔ بروایت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: صلی اللہ علیہ وسلم

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَوْ يَرِيهِ (حضرت) عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول اور اپنی ماں (حضرت مریم) کے بیٹے اور اللہ کا کلمہ (یعنی حکم) ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے (حضرت) مریم پر القافر فرمایا تھا، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک روح ہیں اور جنت اور دوزخ حق ہیں:

أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. (متفق علیہ)

تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا (خواہ) وہ کسی عمل پر ہو۔

۱۔ ”مکذوبات الصالح“ کتاب الایمان والفصل الاوّل ۲۔ ”مکذوبات الصالح“ کتاب الایمان والفصل الاوّل۔

اس ارشادِ پاک میں توحیدِ باری تعالیٰ کے ساتھ ایمان کی چند دوسری شرطوں کا مثلاً رسالت اور آخرت کا بھی ذکر ہے، اور دخولِ جنت کو انہی ایمانیات پر منحصر فرمایا گیا ہے، خواہ عمل نیک ہو یا بد، کثیر ہو یا قلیل! عَلَيَّ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔
عمل صالح شریعتِ محمدی میں مطلوب و ممدوح اور محمود و مستحسن تو ہے، لیکن دخولِ جنت کا دار و مدار اور نجاتِ ابدی کا انحصار ایمان و عقائد پر ہے۔

اگر مسلمان مَؤَحد ہے، لیکن گنہگار ہے، تو اللہ تعالیٰ **مَؤَحد کی مغفرت یقینی ہے:** اپنی رحمت سے اس کے گناہ بخش دیں گے۔ اگر مسلمان مشرک نہیں تو اس کی مغفرت یقینی ہے۔ کتاب اللہ میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔

(پارہ ۵۔ نساء، رکوع ۱۸)

بیشک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں، جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے۔

۱۔ بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بیشک اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے گناہ بخش دے گا، جب تک (اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بندہ کے درمیان) پردہ نہیں پڑ جاتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ پردہ کیا ہے؟ فرمایا: "أَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ۔" وہ پردہ یہ ہے کہ کوئی مشرک ہو کر مرے۔ (رواہ البیہقی) امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ ("زجاجۃ الصالح" جلد ۲ ص ۶۰)۔ بندہ مشرک ہو کر نہ مرے تو اللہ کی رحمت اس کے تمام گناہ معاف کر دے گی، خواہ وہ گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔

۲۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ جِبَالِ ذُنُوبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔
(رواہ البیہقی)

جو شخص اللہ کو اس حال میں ملے کہ دنیا میں کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے خواہ اس کے گناہ پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر ایمان کامل ہے، مسلمان سچا مَؤَحد ہے، تو خواہ کتنے ہی بڑے اور

۱۔ "ترجمان السنۃ" جلد دوم حدیث نمبر ۶۰۸۔ ۲۔ ایضاً حدیث نمبر ۶۰۹۔

جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، سب رحمتِ الہی سے معاف کر دیئے جائیں گے۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ لَقِيَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا لَمْ تَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ وَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ لَمْ تَنْفَعُهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ.

(رواہ احمد و الطبرانی)

جو شخص اس حالت پر مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو تو اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو تو کوئی نیکی اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ (احمد، طبرانی)

جس طرح مسلمان موحّد کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کی

برکت سے اپنی رحمت کے ساتھ سب گناہ بخش کر اپنے موحّد بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اسی طرح مشرک بے ایمان کو کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی، عقیدہ شرک کی شامت و محسوست سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمالِ حسنہ کا لہدم فرما دیں گے۔ اور قیامت کے دن سرے سے ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

(پارہ ۱۶۔ آخر کتب)

موحّد رحمتِ الہی سے بہرہ اندوز ہوگا: اگر انسان اپنے اعمالِ بد کی پاداش میں جہنم کے اندر ڈال بھی دیا گیا، تو

توحید کے باعث اللہ رب العزت اپنی رحمتِ خاصہ سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم

جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے فیصلہ سے فارغ ہو جائیں گے، اور ارادہ فرمائیں گے کہ اپنی رحمت سے اہل نار میں سے (بعض کو) نکالیں، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. تو ملائکہ کو حکم دیں گے کہ:

أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا.

جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا تھا، اسے دوزخ سے نکال لیں۔

چنانچہ فرشتے اسے دوزخ سے نکال لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتِ خاصہ صرف موحّد کا حق ہے

۱۔ "ترجمان السنۃ" جلد دوم حدیث نمبر ۶۳۷۔

۲۔ "صحیح بخاری" کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ: وَجُودَ يَوْمَئِذٍ نَاطِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ.

نبی کریم ﷺ کی شفاعت اہل سنت کے
شفاعت بھی موحّد کا حق ہے: نزدیک حق ہے مگر یہ بھی موحّد کا حق ہے،
 شرک کی شفاعت نہیں ہوگی۔

۱۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا ﷺ!

ہر نبی کے لیے ایک (خاص) دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا میں عجلت کی
 اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت کے لیے موخر کر رکھی ہے، یہ انشاء
 اللہ اس شخص کو نصیب ہوگی۔

مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. (رواہ مسلم) ۱

جو میری اُمت سے اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔

۲۔ بروایت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا:

اللہ کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھے اختیار دیا کہ (اگر میں
 چاہوں تو) میری آدھی اُمت جنت میں داخل کی جائے یا (میں چاہوں تو اُمت کے لیے)
 شفاعت کروں، میں نے شفاعت کو چنا۔

وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. (ترمذی، ابن ماجہ) ۲

اور یہ اس کے لیے ہے جو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔

تو شفاعت رسول ﷺ کے استحقاق کی پہلی شرط اُمت رسول کا فرد ہونا ہے۔ اگر کوئی نبی
 کریم ﷺ کی اُمت سے خارج ہے، یعنی کافر ہے، تو اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ پھر
 شفاعت کی دوسری شرط توحید ہے، یعنی شفاعت اس مومن کا حق ہے جس نے اللہ کے ساتھ کبھی
 کسی کو شریک نہیں کیا۔ اگر کوئی اُمت رسول ﷺ کا فرد نہیں یعنی کافر ہے یا پھر مسلمان مومن
 ہو کر شرک ہے تو اس کے لیے شفاعت نہیں ہے۔

ابراہیم خلیل اللہ کے باپ اور نوح صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور احادیث نبوی
 سے صاف ثابت ہے کہ
کے بیٹے کے لیے شفاعت نہیں! حضرت نوح علیہ السلام کا کافر

وشرک بیٹا طوفان میں ڈوب مرا اور اولوالعزم نبی، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ الہی میں اس کی نجات کے

۱۔ "مکتوٰۃ الصالح" کتاب الدعوات الفصل الاوّل۔ ۲۔ ایضاً باب الخوض والشفاعۃ۔

لیے دعا و سفارش دنیا میں قبول نہ ہوئی۔ صحیح بخاری میں ارشاد رسول ﷺ ہے کہ آخرت میں جد الانبیاء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کی نجات کے لیے بارگاہِ خداوندی میں شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

إِنِّي حَرَمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ. میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔
پھر کہا جائے گا: اے ابراہیم تیرے پاؤں میں کیا پڑا ہے؟ (حضرت) ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے۔

فَإِذَا هُوَ بِذِيحٍ مُتَلَطِّحٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ.^۱
تو وہ بجو ہوگا مٹی کو برد غیرہ میں لتھڑا ہوا۔ اسے چاروں پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

دوسرے سب کفار و مشرکین انسانی شکل و صورت میں داخل جہنم ہوں گے، مگر آذر کو ایک بد صورت، بد شکل، غلیظ جانور بجو کی شکل میں جو خاک و خون یا لید گوہر پیشاب وغیرہ میں آلودہ ہوگا جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلبِ اقدس کو صدمہ نہ ہو۔
جب ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء علیہ السلام کی شفاعت اپنے باپ آذر کے بارے میں قبول نہ ہوئی اور اسے جہنم میں ڈال دیا گیا تو اور کسی کی شفاعت کسی کے متعلق کیا قبول ہوگی؟
بہر حال اللہ کی رحمت ہو یا نبی کی شفاعت! یہ مومن موحّد کا حق ہے، مسلمان ہو اور مشرک نہ ہو تو آخر جنت میں داخل ہوگا، لیکن کافر مشرک اور منافق کے لیے نہ اللہ کی رحمت ہوگی نہ نبی کی شفاعت، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اُمتِ رسول کا فرد خواہ وہ کبار کا مرتکب کیوں نہ ہو بشرطیکہ مشرک نہ ہو، یہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر جہنم میں گیا بھی تو اللہ کی رحمت یا نبی کی شفاعت سے آخر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔

۳۔ بروایت جابر رضی اللہ عنہ حضرت ﷺ کا ارشاد صریح ہے: إِنَّ شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي. (رواہ الحاکم فی التفسیر) بیشک میری شفاعت میری اُمت کے لیے ہے، جن سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا۔

ایک ایمان والا بھی مشرک ہو سکتا ہے: یہ ایک حقیقت ہے، جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں، اس لیے

۱ صحیح بخاری کتاب بدأ الخلق باب قول اللہ تعالیٰ وَتَخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ۲ "ترجمان السنۃ" جلد دوم حدیث ۳۴۱

اس حقیقت کو بخوبی سمجھ لینا چاہئے کہ اُمتِ رسول کا فرد، ایک صاحبِ ایمان، مردِ مومن بھی مشرک ہو سکتا ہے، بلکہ کتاب اللہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے، ارشاد فرمایا:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. (پ ۱۳ آخر یوسف)

اور اکثر لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر وہ شرک بھی کرتے ہیں۔

تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کا فرد ہو، اور پھر بھی مشرک ہو، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آج یہ ممکن ہی نہیں بلکہ اکثر ہے، عام مسلمان کلمہ گو شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطاء فرمائے۔

(۳)

اللہ کی معرفت و توحید

بندے کی فطرت ہے



اللہ رب العزت کی معرفت و عبادت بندے کی فطرت ہے۔ کتے جیسا ناپاک اور ذلیل جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ دوسرا کوئی آئے، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا سب کو بھونکتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اگر اپنا مالک آجائے تو ڈم ہلاتا ہے، قدموں میں لوٹتا ہے۔ یہ اسے کسی نے پڑھایا سکھایا نہیں، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔

کتا فطرتاً آقا شناس ہے اور آدمی فطرتاً مولا شناس! جب کتے کی فطرت مالک شناسی ہے تو انسان اپنے آقا اور مولا کو کیسے نہ جانے؟ اللہ رب العزت کی معرفت اور اس محسن حقیقی کی عبادت بندے کی فطرت ہے۔ اگر اسے دین کی صحیح تعلیم نہ بھی مل سکے تو یہ فطرت کے تقاضے سے خدا کو جانے گا، مانے گا۔ اور پھر اس کے احسانات و انعامات کا شکر بھی ادا کرے گا۔

انسان بتقاضائے فطرت خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ جس طرح غلہ، پھل، میوے، سبزی ترکاری کھانا انسان کی فطرت ہے۔ یہ بھوک کے مارے مر تو جائے گا گھاس، چارہ اور بھوسہ نہیں کھائے گا۔ گیہوں، چاول، چاہے پندرہ بیس روپے من ہو، چاہے تیس، چالیس یا پچاس روپے من، کھائے گا، روٹی، چاول، دال، بھات کھائے گا، لیکن مرتا مر جائے گا مگر ڈیڑھ دو روپے من کا چارہ یا تین چار روپے من کا بھوسہ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ فطرت سے مجبور ہے! یہ فاتوں مر تو سکتا ہے، مگر گھاس پھر نہیں سکتا، چارہ کھا نہیں سکتا، اسی طرح انسان فطرتاً مجبور ہے، اپنے خالق، مالک، رب العزت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نے خدا کو مانا ہے، اور اگر کسی سرکش و طاغی فرعون نے بظاہر مانا نہیں تو اسے جانا ضرور ہے۔ سید اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے۔

آویزہ ہے ہر گوش میں لٹکا تیرا کاشا ہے ہر اک قلب میں اٹکا تیرا
مانا نہیں جس نے تجھے، جانا ہے ضرور ہر بھٹکے ہوئے دل میں ہے کھٹکا تیرا

بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم!

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانِيَةً أَوْ
يُمَجَّسَانِيَةً ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمُ (متفق علیہ)

ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا
دیتے ہیں، پھر آپ نے (بطور استشہاد اللہ کا قرآن) پڑھا۔ فطرة اللہ... یعنی اللہ
کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (اختیار کیے رہو) اللہ کی خلقت
میں تبدیلی (روا) نہیں، پس یہی سیدھا دین ہے۔

فطرت اللہ سے معرفت الہی کی وہ استعداد و صلاحیت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر
ہر شخص کے اندر ودیعت کی ہے، اور جو ہر انسان کی جبلت میں پائی جاتی ہے۔

خدائے رحیم نے ابتدائے آفرینش سے اپنی معرفت کا ایک اجمالی نقش و تصور ہر انسان
کے دل میں بطور اصل ہدایت مثبت کر دیا ہے، اپنی توحید کی ایک چنگاری ہر آشکدہ قلب میں دبا
دی ہے جسے اگر تعلیم و ماحول کے پیپے پھونکوں سے بجھانہ دیا جائے تو یہ شعلہ بن کر خرمن کفر و
شرک کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالتی ہے۔ اگر انسان کو اس کی فطرت پر آزاد چھوڑ دیا جائے، اس
کے اخلاق و کردار کی تعمیر و تشکیل میں غلط تعلیم و تربیت یا غلیظ و متعفن ماحول کے گندے اثرات
کی مداخلت نہ ہو اور انسان قدرت کی عطا کردہ اس جبلی استعداد و طبعی قابلیت سے کام لے تو حق
سمجھ میں آ سکتا ہے اور اس کا میلان دین حق، دین قسیم کی طرف ہو سکتا ہے۔ لیکن والدین و
اساتذہ کی مشرکانہ تعلیم و تربیت، گرد و پیش کے حالات اور گندی صحبت کے بُرے اثرات سے
متاثر ہو کر انسان شرک و کفر کی اتھاہ اور عمیق ظلمتوں اور ضلالتوں میں کھو جاتا ہے۔

تو اللہ رب العزت کی معرفت و عبادت انسان کی فطرت ہے، اور ہر آدمی نے.....
بشرطیکہ آدمی ہو گدھانہ ہو..... خدا کو جانا اور مانا ہے، اس کی ان گنت و بی شمار نعمتوں کا شکر بھی ادا
کیا ہے اور اپنے ڈھنگ سے اس کی عبادت بھی کی ہے۔

مندر میں کسی نے راگ گایا تیرا
دہریہ نے دہر سے کیا تعبیر تجھے
مسجد میں کسی نے جلوہ پایا تیرا
انکار کسی سے بن نہ آیا تیرا!!

(اکبر الہ آبادی)

توحید ربانی انسانی فطرت ہے: نہ صرف اللہ کی معرفت و عبادت بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید

بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، ہر انسان پیدائشی طور پر خدائے واحد کی وحدت و وحدانیت اور توحید کا قائل ہے، اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات واحد کے سوا کوئی مالک و متصرف نہیں، چنانچہ رئیس المفسرین، جبر امت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دَعْوُ اللّٰہِ مُخْلِصِينَ لَهُ السَّيِّئِينَ کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ (مشرکین مکہ) شرک نہ کرتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔

لِرُجُوعِهِمْ مِنْ هِدَّةِ الْخَوْفِ إِلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي جَبَلَ عَلَيْهَا كُلُّ أَحَدٍ مِنَ التَّوْحِيدِ وَأَنَّهُ لَا مُتَصَرِفٍ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُرَكَّزُ فِي طِبَاعِ الْعَالَمِ ۱
شدتِ خوف سے فطرت کی طرف ان کے رجوع کے باعث! جس فطرت پر ہر فرد بشر پیدا کیا گیا ہے یعنی توحید اور یہ حقیقت! کہ سوائے اللہ سبحانہ کے کوئی صاحب اختیار نہیں، اور یہ حقیقت ساری دنیا کے طبائع میں مرکوز و موجود ہے۔

۲۔ حضرت ابو العالیہؒ سے امام ابن جریر وغیرہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے کہ:

كُلُّ اَدَمِي اَقْرَّ عَلٰی نَفْسِهِ بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی رَبِّيْ وَاَنَا عَبْدُهُ ۲
ہر آدمی نے دل ہی میں اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔

اسی تقاضائے فطرت اور داعیہ جبلت سے مجبور ہو کر مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم و عرفان اور احساس و ادراک رکھتے تھے، عالم اضطراب میں وہ خدا کی توحید کے بھی قائل و معترف تھے، نامساعد حالات اور مصائب و مشکلات میں وہ خالص اللہ رب العزت ہی کو پکارتے تھے، لیکن حوادث و آفات سے نجات پا کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے تھے۔

۱ "روح المعانی" جلد ۱ ص ۷۹ تفسیر: بیت (دَعْوُ اللّٰہِ مُخْلِصِينَ لَهُ السَّيِّئِينَ).

۲ ایضاً جلد ۳ صفحہ ۲۱۴ تفسیر: بیت (وَلَمَّا سَأَلْنَا مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا "روح المعانی" علامہ محمود؛ لوسی بغدادی کی شہرہ: فاق و جلیل القدر تفسیر ہے۔ علامہ: لوسی رحمہ اللہ تیرہویں صدی ہجری کے اعظم و اکابر علماء اسلام کے سرخیل ہیں۔ سن وفات ۱۲۷۰ھ ہے۔

(۴)

ذات و صفاتِ باری تعالیٰ سے متعلق مشرکین مکہ و کفارِ قریش کے عقائد و تصورات



توحید کا عوامی تصور: آج عامۃ المسلمین یہ سمجھتے ہیں یا انہیں یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ خدا کی ہستی کا اقرار اور ذاتِ پاک باری تعالیٰ کا اعتراف ہی

توحید ہے۔ ہم خدا کو مانتے ہیں لہذا ہم سچے مسلمان اور بچے موحّد ہیں۔ مشرک تو مکے کے قریش تھے، جو اللہ ربّ العزت کی ہستی کے منکر تھے اور وجودِ باری تعالیٰ کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔

یہ ایک مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ، یہ فریب خوردگی ہے، بے حد خطرناک فریب خوردگی۔ اس مغالطہ و فریب خوردگی کے سولہ آنے خلاف حقیقت یہ ہے کہ قریش مکہ نہ صرف ذاتِ باری تعالیٰ کے قائل و معترف تھے، صفاتِ ربّانی پر بھی ایمان رکھتے تھے، بلکہ اللہ واحد کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم، احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اور سیرت و تاریخ کی مستند صحیح روایات ملاحظہ ہوں:

کتاب اللہ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق مشرکین مکہ کے درج ذیل عقائد و نظریات معلوم ہوتے ہیں:

۱۔ انسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے: اللہ ربّ العزت اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں:

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. (پارہ ۲۵۔ سورہ زخرف، رکوع آخر)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے!

۲۔ ارض و سماء کا خالق اللہ ہے: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.

(پارہ ۲۱، سورہ لقمان، رکوع ۳ و پارہ ۲۲، سورہ زمر، ع ۴)

اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔

تو معلوم ہوا کہ مشرکین عرب، کفار قریش زمین و آسمان اور انس و جن کا خالق ذات پاک باری تعالیٰ کو مانتے تھے، اسی طرح مالک و رازق، مہی و ممیت اور مدبر امور بھی اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے۔

۳۔ رازق اللہ ہے۔ ۴۔ مالک اللہ ہے۔ ۵۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ۶۔ مدبر امور اللہ ہے۔

ارشاد فرمایا:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
(پارہ ۱۱، سورہ یونس، ۴۷)

آپ (ان مشرکین سے) پوچھئے کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ یا (تمہارے) کانوں اور (تمہاری) آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور مردہ سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ اور تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے سو وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ!.....

۷۔ زمین و آسمان، عرش و فرش سب کا مالک اور رب اللہ ہے:

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
(پارہ ۱۸۔ سورہ مومن، ۵۷)

آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو (تو بتلاؤ) یہ زمین اور جو کچھ اس پر (موجود) ہیں سب کس کے ہیں؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ کہئے پھر تم سوچتے (کیوں) نہیں؟ آپ کہئے کہ (اچھا یہ بتلاؤ) ان سات آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی (سب) اللہ کا ہے، آپ کہئے کہ پھر تم (اس سے کیوں) نہیں ڈرتے؟

۸۔ شہنشاہِ کُل اللہ ہے۔ ۹۔ صاحبِ اختیار و اقتدارِ اعلیٰ اللہ ہے

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝ (۱۸۔ مومنون، ع ۵)

آپ (ان سے) پوچھئے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم جانتے ہو۔ وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ (یہ سب صفتیں) اللہ ہی کی ہیں، آپ کہئے کہ پھر تم کہاں سے جادو کیے جاتے ہو؟..... یعنی مسحور و مدہوش ہو کر (ان تمام مقدمات کو ماننے کے بعد) حقیقت توحید کو نہیں سمجھتے۔

۱۰۔ قادرِ مطلق اللہ ہے:

ان کا ایمان تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم اور اس کی رضاء و مشیت سے ہوتا ہے، چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہ شرک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اگر وہ نہ چاہتے تو ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے۔

۱. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

(پارہ ۱۳۔ نحل، رکوع ۵)

اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو خدا کے سوا کسی چیز کی نہ ہم عبادت کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم سوائے اس کے (حکم کے) کسی چیز کو حرام کر ڈالتے، اسی طرح ان سے پہلے (کافر) لوگوں نے کیا۔ (یعنی ایسا ہی کہا تھا)

۲. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ.

(پارہ ۸، انعام، رکوع ۱۸)

یہ مشرک لوگ یوں کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔

۱۱۔ مُتَّصِرِفٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ اللہ ہے:

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَنَسِيَ الْيَوْمَ كَيْفَ يَكُونُ.
(پارہ ۲۱، سورہ عنکبوت، ۶۷)
اور اگر آپ ان (مشرکین) مکہ سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا
اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے! پھر کدھر اُٹے
چلے جا رہے ہیں؟

۱۲۔ بارش برسانے والا اللہ ہے

۱۳۔ زمین سے نباتات اگانے والا اللہ ہے

وَلَيَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا.
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ.
(پارہ ۲۱، سورہ عنکبوت، ۶۷)

اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا
پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا تو بہر حال کہیں گے کہ وہ اللہ ہے۔

۱۴۔ العزیز اور العظیم اللہ ہی ہے: کفار قریش اللہ تعالیٰ کو العزیز اور العظیم
بھی مانتے تھے، اور اس کے غلبہ و زور

اور علمِ کل کے قائل و معترف تھے، ارشاد ہوتا ہے:

وَلَيَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ.
(پارہ ۲۵، سورہ زخرف، ۷۱)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور
کہیں گے کہ ان کو غالب، علم والے (خدا) نے پیدا کیا ہے۔

تو مشرکین مکہ نہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کو مانتے تھے بلکہ اس ذاتِ پاک کی
صفاتِ قدسیہ کو بھی جانتے تھے۔ چنانچہ اللہ کی صفتِ رحمت کو بھی مانتے تھے۔

۱۵۔ الرحمن اللہ ہے: رحمن بھی اللہ کو جانتے اور مانتے تھے۔

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاكُمْ ط
(۲۵۔ زخرف، ۲۷)

اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمن چاہتا تو ہم ان (ملائکہ) کی عبادت نہ کرتے۔

۱۶۔ مصائب سے نجات دینے والا، مشکل کشا و دافع البلاء اللہ ہے

کفار قریش و مشرکین مکہ شدا ند و مصائب سے نجات دینے والا، کاشف عذاب، مشکل کشا اور دافع بلا اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے۔ چنانچہ دُکھ، درد، تکلیف اور مصیبت کے وقت وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو صراحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے:

۱. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. (۱۱۔ یونس، ۱۲ع)

اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے!

۲. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ (۲۱۔ روم۔ ۲۴ع)

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں، اسی کی طرف رجوع ہو کر۔

۳. وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ (۲۳۔ زمر، ۱۴ع)

اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف پکارنے لگ جاتا ہے اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر۔

طوفان و تلام میں صرف خدائے واحد کو پکارتے تھے:

جب وہ دریاؤں میں سفر کرتے، باد و باراں کے ہلاکت خیز طوفان اٹھتے، کشتیوں کو غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا تو اُس وقت غیر اللہ کو بھول کر خالص ایک الہ واحد کو پکارتے۔ ارشاد ہوتا ہے:

۱. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. (۲۱۔ عنکبوت۔ ۷ع)

پس جب (مشرکین مکہ) کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ پر خالص اعتقاد کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب ان کو (طوفان وغیرہ سے) نجات دے کر اللہ خشکی پر لے آتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔

۲. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالضَّلَالِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. (۲۱۔ لقمان)

اور جب ان کو موجیں سائبانوں کی طرح گھیر لیتی ہیں تو وہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے اسے پکارتے ہیں۔

۳. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

(۱۱۔ یونس، ۳۷)

اور کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں۔ اور لوگ ان (کی رفتار) سے خوش ہوتے ہیں کہ (دفعۃً مخالف اور تیز دشت) ہوا کشتیوں کو آلتی ہے اور ہر طرف سے ان کو موجیں گھیر لیتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (بڑی طرح) گھر گئے (اس وقت) سب اللہ ہی کے لیے عبادت خالص کر کے اسے پکارتے ہیں۔

اس موقع پر شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

اس آیت میں ان مدعیان اسلام کے لیے بڑی عبرت ہے جو جہاز (یا کشتی) کے طوفان میں گھر جانے کے وقت بھی خدائے واحد کو چھوڑ کر غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا بیٹا عکرمہ مسلمان نہ ہوا تھا۔ مکہ سے بھاگ کر بحری سفر اختیار کیا۔ تھوڑی دُور جا کر کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ ناخدانے مسافروں سے کہا کہ ایک خدا کو پکارو، یہاں تمہارے معبود کچھ کام نہ دیں گے۔ عکرمہ نے کہا کہ یہ ہی تو وہ خدا ہے جس کی طرف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم کو بلا تے ہیں۔ اگر دریا میں رب محمد کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی اس کی دستگیری اور اعانت کے بغیر نجات پانا محال ہے۔ اے خدا! اگر تو نے اس مصیبت سے نکال دیا تو میں واپس ہو کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، مجھے اُمید ہے کہ وہ اپنے اخلاقِ کریمہ سے میری تقصیرات کو معاف فرمائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے، رضی اللہ عنہ۔

خاتم المفسرین حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی (المتوفی ۱۲۷۰ھ) تفسیر روح المعانی میں مندرجہ بالا حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے متعلق روایت بروایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابوداؤد اور نسائی وغیرہما کے حوالہ سے نقل کرنے کے بعد رقمطراز ہیں کہ ”اور ابن سعد میں

۱۔ حاشیہ قرآن کریم از شیخ الاسلام رحمہ اللہ۔

حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عکرمہ کشتی میں سوار ہوا اور اسے طوفانِ بادل نے آیا
فَجَعَلُوا يَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيُوحِدُونَهُ قَالَ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا مَكَانٌ
لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ: فَهَذَا لَهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الَّذِي يَدْعُونَا إِلَيْهِ فَارْجِعُونَا. فَرَجَعَ وَاسْلَمَ.
تو اہل کشتی صرف ایک الہ واحد کو پکارنے لگے، عکرمہ نے کہا: یہ کیا؟ انہوں نے کہا:
اس موقع پر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ (اس پر) عکرمہ نے کہا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہم کو اسی طرف بلا رہے تھے، ہمیں واپس لے چلو۔ چنانچہ وہ
واپس لوٹ آئے اور اسلام لے آئے۔

اس کے بعد علامہ موصوف نہایت وسوزی کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں:

وَأَيُّهَا كَانَ فَالْأَيَّةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَشْرُكِينَ لَا يَدْعُونَ غَيْرَهُ تَعَالَى فِي
تِلْكَ الْحَالِ وَأَنْتَ خَيْرٌ بَانَ النَّاسِ الْيَوْمَ إِذَا اعْتَرَاهُمْ أَمْرٌ خَطِيرٌ
وَخَطْبٌ جَسِيمٌ بِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ دَعَا مِنْ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ وَلَا يَرَى وَلَا
يَسْمَعُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُوا الْخَضِرَ وَالْيَاسَ وَمِنْهُمْ مَنْ ينادِي أَبَا
الْخَمِيسِ وَالْعَبَّاسَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَفِيثُ بِأَحَدِ الْأَيْمَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ
يَضْرَعُ إِلَى شَيْخٍ مِنَ الْمَشَائِخِ الْأَيْمَةِ وَلَا تَرَى فِيهِمْ أَحَدًا يَخْصُ مَوْلَاهُ
بِتَضَرُّعِهِ وَدَعَائِهِ وَلَا يَكَادِ يَمُرُّ لَهُ بِبَالٍ إِنَّهُ لَوْ دَعَا اللَّهَ تَعَالَى وَحْدَهُ
يَنْجُو مِنْ هَاتِيكَ الْأَهْوَالِ فَبِاللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ قَل لِي أَيْ الْفَرِيقَيْنِ
مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ أَهْدَى سَبِيلًا وَأَيُّ الدَّاعِينَ أَقْوَمُ قَبِيلًا؟ وَاللَّهُ
تَعَالَى الْمَشْتَكِي مِنْ زَمَانٍ عَصَفَتْ فِيهِ رِيحُ الْجَهَالَةِ وَتَلَاطَمَتْ أَمْوَاجُ
الضَّلَالَةِ وَخَرَقَتْ سَفِينَةَ الشَّرِيعَةِ وَأَتَّخَذَتْ الْإِسْتِغَاثَةَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى
لِلنَّجَاةِ ذَرِيعَةً وَتَعَذَّرَ عَلَى الْعَارِفِينَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَحَالَاتِ دُونَ
النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ صَنُوفُ الْحَتُوفِ ۱

وہ بھی دن تھے چنانچہ آیت دلالت کرتی ہے کہ مشرکین (مکہ) مصیبت کے وقت
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے اور اس حقیقت سے تو باخبر ہے کہ آج

۱ "روح المعانی" جلد ۱۱ ص ۹۸ تفسیر آیت (جاءَ نهاراً ريحٌ عاصِفٌ....)

لوگوں کو زمین پر یا سمندر میں جب کوئی بہت بڑا مہلک واقعہ اور سخت خطرناک حالت پیش آ جاتی ہے تو وہ ان کو پکارنے لگتے ہیں جو نہ نفع و نقصان پر قادر ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، بعض تو خضر اور الیاس کو پکارتے ہیں اور بعض ابوالخمیس اور عباس کو ندادیتے ہیں اور بعض کسی امام سے مدد طلب کرتے ہیں اور بعض اُمت کے کسی بزرگ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور ان میں سے آپ کسی کو خاص اپنے خدا کے سامنے گڑگڑا کر دعا کرتے نہ دیکھیں گے اور ان کے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ اگر اس نے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا تو وہ ان خوفناک مصائب سے نجات پا جائے گا۔ پس تجھے خدا کی قسم! مجھے بتلائیے کہ ان دونوں (مشرکین مکہ اور مسلمین عہد حاضر) میں سے کون راہ ہدایت پر ہے اور ان پکارنے والوں میں سے کون سیدھی صحیح بات کرتا ہے؟ اور عہد حاضر کی شکایت اللہ ہی کی بارگاہ میں ہے جس میں جہالت کی آندھی چل رہی ہے، اور گمراہی کی موجوں میں طوفان و تلاطم ہے، شریعت کی کشتی میں شکاف پڑ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو مدد کے لیے پکارنا نجات کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے اور اہل علم و عرفان کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی راہ میں انواع و اقسام کی ہلاکتیں حائل ہو گئی ہیں۔

ایک خاص نوعیت کے عذاب یعنی قحط شدید کا ذکر
کاشف عذاب اللہ ہے: فرماتے ہیں، کفار قریش نے اس موقع پر اور تمام
 معبودوں کو چھوڑ کر خدائے واحد کی بارگاہ میں گڑگڑا کر خود بھی دعا کی اور حضرت علیؑ سے بھی
 دعا کرائی۔ قولہ تعالیٰ:

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ، اِنِّي لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ
 رَسُوْلٌ مِّنْ نَّبِيِّنَا لَوْ كَانُوا يَلْقَوْنَكَ وَرَأَوْا كَرِيْمًا
 قَلِيْلًا اِنْكُمْ عَائِدُوْنَ.
 (بارہ ۲۵۔ سورہ دخان)

اے ہمارے رب! ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں
 گے۔ ان کو (اس سے) کب نصیحت ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس رسول مبین آ
 چکا، پھر بھی یہ اس سے پھر گئے اور کہنے لگے (یہ تو کسی دوسرے کا) سکھلایا ہوا ہے،

دیوانہ ہے۔ (اچھا) ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ عذاب ہٹا دیتے ہیں (مگر) تم پھر وہی کرو گے۔

صحیح بخاری میں ان آیات کی تفسیر میں مختلف سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جب قریش نے آپ کی تکذیب اور مخالفت کی تو آپ نے ان کے خلاف قحط کی دعا کی، چنانچہ (ایسا) قحط پڑا کہ قریش نے ہڈیاں، چمڑے اور مردار کھائے۔ (آخر قریش کا سردار) ابوسفیان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم (بھوکوں) مر گئی، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ ان سے قحط دور کرے، فادع اللہ ان یکشف عنہم، چنانچہ آپ نے دعا کی، قریش نے خود بھی دعا کی رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ، کہا: اے ہمارے پروردگار! ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان سے قحط کا عذاب ٹال دیا۔ جب وہ خوشحال ہو گئے تو اپنے پہلے حال پر لوٹ گئے یعنی پھر پہلے کی طرح کفر و شرک کرنے لگے۔

اس مضمون کی روایت مسند احمد، ترمذی اور نسائی وغیرہ میں متعدد سندوں سے مروی ہے، جس سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آگئی کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رب، مشکل کشا اور دافع البلاء جانتے مانتے تھے، اور ابتلاء و مصیبت کے وقت اللہ رب العزت ہی کو پکارتے تھے۔ کتاب اللہ کے بعد اب حدیث، سیرت اور تاریخ کی مشہور و معتبر کتب سے مشرکین عرب، قریش مکہ کے عقائد و نظریات ملاحظہ ہوں:

۱۹۔ اپنا رب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس^{۳۵} سال کی تھی کہ قریش نے کعبۃ اللہ کو

پھر سے بنانے کا ارادہ کیا تو:

قَالُوا لَوْ بَنَيْنَا بَيْتَ رَبِّنَا.

کہنے لگے کاش! ہم اپنے رب کا گھر بناتے۔

۱۔ ”صحیح بخاری“ کتاب تفسیر القرآن، تفسیر سورہ الدخان۔ ۲۔ ”طبقات ابن سعد“ جلد اول ص ۱۴۵ ”الطبقات الکبریٰ“ امام ابن سعد کی مشہور و معروف کتاب ہے، حضرات صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم کے حالات و سوانح پر اس سے بہتر کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے، آٹھ جلدوں پر مشتمل بڑی مفصل کتاب ہے۔ امام محمد بن سعد رحمہ اللہ بڑے بلند پایا امام ہیں۔ سن وفات ۲۴۰ھ ہے۔

۲۰۔ ان کے دل ہیبت و جلال الہی سے لبریز و معمور تھے:

قریش کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی پرانی عمارت کو گراتے ہوئے ڈرتے تھے۔

ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ هَابُوا هَذِمَهَا وَقَزَعُوا مِنْهُ ۖ

لوگ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور اس کے تصور سے گھبرا اٹھے۔

ولید بن مغیرہ کے ابتداء کرنے پر بھی اس دن لوگ رکے رہے، کہنے لگے، دیکھتے ہیں اگر ولید کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ہم قطعاً نہیں گرائیں گے اور اسے اسی حال پر رہنے دیں گے،

وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ، فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ صُنْعَنَا فَهَدِمْنَا....

اور اگر اسے کوئی گزند نہ پہنچا تو ہم سمجھیں گے کہ اللہ ہماری کارروائی سے خوش ہے، پھر ہم بھی گرائیں گے۔

چنانچہ جب صبح کو ولید بھلا چنگا پھر اپنے کام میں لگا نظر آیا تو لوگوں نے اس کے ساتھ گرانے شروع کر دیا۔

۲۱۔ خدا سے دعا کرتے تھے:

جب لوگ کعبۃ اللہ کو منہدم کرتے تھے تو ولید بن مغیرہ نے کہا: اَنَا أَبَدُّكُمْ فِي اس کی ابتداء کرتا

ہوں، چنانچہ اس نے پہل کرتے ہوئے رب العزت سے دعا کی:

اللَّهُمَّ لَا تُرْعِ إِنَّمَا نُرِيدُ الْخَيْرَ ۖ

اے اللہ! ہم خوف زدہ نہ ہوں، تو ہماری ہمت بندھا، کیونکہ ہمارا ارادہ نیکی ہی کا ہے

۱۔ ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول ص ۲۰۷۔ ۲۔ ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول ص ۲۰۷، ”سیرت ابن ہشام“ حضرت علیؑ کی سیرت طیبہ پر سب سے قدیم اور بڑی ضخیم کتاب ہے، چار جلدوں پر مشتمل ہے، مصنف کتاب ابو محمد عبدالملک بن ہشام بڑے جلیل القدر امام ہیں، سن وفات ۲۱۵ھ ہے۔ ۳۔ ”طبقات ابن سعد“ جلد اول ص ۱۴۵ و ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول ص ۲۰۷۔

۲۲۔ قریش کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا حد درجہ لحاظ اور پاس تھا:

مشرکین مکہ و عمائد قریش کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اس درجہ پاس اور احساس تھا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے وقت کہنے لگے:

۱. لَا تَدْخِلُوا فِي بَنَائِهَا مِنْ كَسْبِكُمْ إِلَّا طَيِّبًا لَمْ تَقْطَعُوا فِيهِ رِحْمًا وَلَمْ تَظْلَمُوا فِيهِ أَحَدًا^۱

لوگو! بیت اللہ کی تعمیر میں صرف پاک کمائی خرچ کرو۔ قطع رحم کر کے یا کسی پر ظلم کر کے جو روپیہ کمایا ہو وہ یہاں نہ لگاؤ۔

۲۔ سیرت ابن ہشام رحمہ اللہ میں ہے کہ ابو وہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا ماموں تھا اور قریش کا سردار تھا اس نے کہا اور لوگوں کا خیال ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا: يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبًا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا، ولا مظلمة احد من الناس.^۲

اے قریش! بیت اللہ کی تعمیر میں پاک کمائی ہی لگاؤ، کوئی اس میں زنا کی کمائی، سود کی رقم یا کسی کا ظلم سے مارا ہوا مال نہ لگانے پائے۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے: عام قریش اللہ تعالیٰ سے کس درجہ خوف کھاتے ہوں گے جبکہ امیہ بن خلف جیسا شقی القلب بھی خدا سے

ڈرتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مظالم و شدائد کے شکنجے میں بے طرح کسے ہوئے دیکھا تو ظالم امیہ بن خلف وغیرہ سے فرمایا:

أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذَا الْمَسْكِينِ؟ تو اس غریب کو ہدف تعذیب بنا کر خدا سے نہیں ڈرتا؟ امیہ نے جواب دیا: آپ ہی نے اسے خراب کیا ہے لہذا آپ ہی اسے اس عذاب سے چھڑائیں۔

چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ”آپ ہی نے

۱۔ ”طبقات“ جلد اول ص ۱۳۵۔ ۲۔ ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول ص ۲۰۶ حدیث بیان کعبہ۔

۳۔ ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول ص ۳۳۰۔

اسے خراب کیا ہے“ کے الفاظ سے یہ حقیقت بھی آشکارا ہو رہی ہے کہ حضرت بلالؓ حضرت ابو بکرؓ ہی کی سعی و تبلیغ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔

عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے: قریش مکہ کا یہ بھی عقیدہ و یقین تھا کہ عزت ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔

چنانچہ امام ابن ہشام رحمہ اللہ لکھتے ہیں؟

فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، (حضرت) بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے انہیں اذان کا حکم دیا، حضرت بلالؓ نے اذان کہی تو عتاب بن اسید کہنے لگے: لَقَدْ اَكْرَمَ اللّٰهُ اَسِيْدًا اَنْ لَا يَكُوْنَ سَمِيْعَ هٰذَا فَيَسْمَعُ مِنْهُ مَا يَغِيْظُهُ...! اللہ تعالیٰ نے (میرے باپ) اسید کی عزت رکھ لی، (وہ پہلے مر گیا اور) اس نے یہ آواز نہ سنی جو وہ بلالؓ سے سنتا تو سخت غضب ناک ہوتا۔ بعد میں حضرت عتاب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے۔

۲۵۔ جزا سزا دینے والا اللہ ہے: مشرکین مکہ جزا سزا دینے والا بھی اللہ ہی کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب قریش نے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے خلاف معاہدہ کیا تو بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب کے وہ افراد بھی جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے محض قرابت داری کی بناء پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں جمع ہو گئے۔ بنی ہاشم میں سے صرف ابولہب نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اس نے قریش کا ساتھ دیا، وہ ہند بنت عتبہ سے ملا تو کہا، اے عتبہ کی بیٹی! کیا میں نے لات و عزیٰ کی مدد کی؟ جنہوں نے انہیں چھوڑا میں نے انہیں چھوڑ دیا، تو ہند نے کہا:

نَعَمْ، فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا يَا اَبَا عْتَبَةَ!

ہاں! ابولہب! اللہ تجھے جزائے خیر دے۔

۲۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو صبح سویرے ابو جہل کے گھر پہنچے۔ ابو جہل نے کہا، مَرَحَبًا وَاَهْلًا کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں خبر دینے آیا ہوں کہ میں خدا اور رسول خدا پر ایمان لے آیا ہوں۔ اس پر ابو جہل نے دروازہ میرے منہ پر مارا اور کہا:

قَبْحَكَ اللّٰهُ وَ قَبِيْحَ مَا جِئْتَ بِهٖ.

اللہ تیرا بُرا کرے اور جو خبر آپ لائے ہیں اس کا بھی!

۱۔ "سیرت ابن ہشام" مطبوعہ مصر جلد ۲ صفحہ ۵۶۔ ۲۔ "سیرت ابن ہشام" جلد اول ص ۳۷۶۔ ۳۔ ایضاً صفحہ ۳۷۵۔

شفا دینے والا اللہ ہے: مشرکین مکہ مرض و شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں جانتے تھے۔ چنانچہ جھاڑ پھونک کرنے والے ضناد نے، جبکہ وہ کافر تھا، سنا کہ مکہ کے بیوقوف کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجنون ہو گئے ہیں تو کہنے لگا: کاش اگر میں اس شخص (محمدؐ) کو دیکھ لیتا۔

لَعَلَّ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلِيٌّ يَدِيَّ. (رواہ مسلم)^۱

تو شاید اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے آپ کو شفا دے دیتا۔

۲۷۔ اللہ واحد ہے اور سب سے اعلیٰ: حد ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانتے تھے۔ مشرکین مکہ کو غیر اللہ

کی پرستش کرتے تھے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ الہ واحد مانتے تھے، اور اپنے تمام معبودانِ باطل کو اسفل (فی الارض) اور اللہ واحد کو ان سب سے افضل و اعلیٰ (فی السماء) جانتے تھے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا سے فرمایا: اے حصین! تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ میرے والد نے جواب دیا: سات کی! سِتًّا فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ قَالَ فَأَيُّهُمْ تَعُدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. (رواہ الترمذی)^۲

چھ زمین میں ہیں اور ایک آسمان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: تو اپنی محبت اور خوف کے لیے تم نے کس کو بنا رکھا ہے؟ (میرے والد نے) جواب دیا: آسمان والے کو!

تو مشرکین مکہ کو متعدد خداؤں کی پوجا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ ایک مانتے اور سب سے بلند جانتے تھے، اور محبت اور خوف کا علاقہ صرف خدائے واحد الہ آسمانی سے رکھتے تھے۔

^۱ "مکلوۃ الصالح" باب علامات النبوة۔ ج "مکلوۃ الصالح" باب الاستعاذہ۔

ذات و صفاتِ باری تعالیٰ سے متعلق مشرکین عرب کے عقائد کا خلاصہ!

ذات پاک واجب الوجود اللہ جل جلالہ سے متعلق مشرکین مکہ، کفارِ قریش کے عقائد و تصورات تفصیل و تطویل سے بیان کر دیئے گئے ہیں، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کا خلاصہ پیش کر دیا جائے۔

ان کا ایمان و عقیدہ تھا کہ:

- ۱۔ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔
- ۲۔ ساری مخلوق کا رازق اللہ ہے۔
- ۳۔ سب کا مالک اللہ ہے۔
- ۴۔ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
- ۵۔ مدبر امور اللہ ہے۔
- ۶۔ زمین و آسمان، عرش و فرش سب کا مالک اور رب اللہ ہے۔
- ۷۔ شہنشاہِ کل اللہ تعالیٰ ہے۔
- ۸۔ صاحب اختیار و اقدارِ اعلیٰ اللہ ہے۔
- ۹۔ قادرِ مطلق اللہ ہے۔
- ۱۰۔ منحصرِ علی الاطلاق اللہ ہے۔
- ۱۱۔ بارش برسانے والا اللہ ہے۔
- ۱۲۔ زمین سے نباتات اُگانے والا اللہ ہے۔
- ۱۳۔ العزیز، العليم اور الرحمن اللہ ہے۔
- ۱۴۔ مشکل کشا و دافع البلاء اللہ ہے۔
- ۱۵۔ مصائب و شدائد سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔
- ۱۶۔ کاشف العذاب صرف اللہ ہے۔
- ۱۷۔ عزت، ذلت، جزاء، سزا، مرض، شفا دینے والا اللہ ہے۔

۵۹۔ ۱۸۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔

۱۹۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔

۲۰۔ دکھ، درد اور مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے۔

۲۱۔ ان کے دل جلال و ہیبت الہی سے لبریز و معمور تھے۔

۲۲۔ ان کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی کا بے حد پاس تھا۔

۲۳۔ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد اور سب سے اعلیٰ و بالا مانتے تھے۔

مشرکین عرب کے اعمال و وظائف

عقائد و تصورات کے بعد اب کفار قریش کے اعمال و وظائف کا حال ملاحظہ ہو:

۱۔ تعمیر کعبہ: جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو کعبہ تھا، اس کی تعمیر مشرکین مکہ نے مل کر کی تھی۔

۲۔ حج کرتے تھے: ۹ھ تک کفار برابرج کرتے رہے۔ ۹ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر

فرمایا، ان کے حکم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ نے قربانی کے دن منیٰ کے مقام پر لوگوں میں اعلان کر دیا کہ:

أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا ۱

خبردار! اس سال کے بعد مشرک حج نہ کریں۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

شعائر اللہ کی تعظیم کرتے تھے:

وَأَمَّا حَجَّ بَيْتِ اللَّهِ وَتَعْظِيمَ شَعَائِرِهِ وَالْأَشْهُرِ الْحَرَامِ فَامْرَهُ أَظْهَرَ أَنَّ يَنْخَفِي ۲

۱۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم ("مکتوٰۃ المصاحح" باب دخول مکة والطواف) صحیح بخاری، کتاب المغازی و کتاب التفسیر وغیرہ میں قریباً نصف درجن روایات اس مضمون کی ہیں۔ ۲۔ "حجۃ اللہ البالغہ" جلد اول باب بیان مساکن علیہ حال اہل الجاہلیہ۔ "حجۃ اللہ البالغہ" امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق و عظیم تالیف ہے، بے نظیر کتاب ہے، گویا معارف اسلامی کا ایک خزانہ ہے، حضرت رحمہ اللہ کا مقام مشاہیر علماء ہند میں بہت بلند و بالا بلکہ اعلیٰ ہے۔ مسلمانان ہند و ہندوپاک پر آپ کا اور آپ کے خاندان کا عظیم احسان ہے۔ سن وفات ۱۱۰۱ھ ہے۔

بیت اللہ کا حج، شعائر اللہ اور ذی حرمت مہینوں کی تعظیم ایسے امور ہیں جو ظاہر و غیر مخفی ہیں۔

۴۔ حج و عمرہ، طوافِ کعبہ کرتے اور تلبیہ پڑھتے تھے:

امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے:

بنی اسمعیل (قریش) نے حضرت ابراہیمؑ و اسمعیلؑ کا دین بدل کر بتوں کی پرستش شروع کر دی اور گمراہ اُمم سابقہ کے نقش قدم پر چلنے لگے، اس کے باوجود ان میں عہدِ ابراہیمؑ کی کچھ عبادتیں باقی رہ گئیں، مثلاً بیت اللہ کی تعظیم، اور اس کا طواف، حج و عمرہ، عرفہ و مزدلفہ میں ٹھہرنا، جانوروں کی قربانی اور حج و عمرہ میں اہلال یعنی تلبیہ، گو اس میں ایسی باتیں بھی داخل کر دی تھیں جو اس میں نہیں تھیں۔ کنانہ و قریش جب تلبیہ کہتے تو:

قَالُوا "لَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ، لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكُنَا هُوَ لَكَ تَمَلُّكُهُ وَمَا مَلَكَ"۔

کہتے، اے اللہ! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو آپ ہی کی ملک ہے۔ آپ ہی اس کے مالک ہیں اور اس کی مملوکات کے مالک بھی آپ ہیں۔

۵۔ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے

مشرکین مکہ مسجد الحرام کعبۃ اللہ کی آبادی، تعمیر، مرمت، صفائی، روشنی پر

۶۔ اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے!

پلانے، کھانا کھلانے پر فخر و ناز کرتے تھے، ان کی ان خدمات کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ.....

(بارہ، ۱۰، توبہ، رکوع ۳)

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے برابر کر دیا جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا۔

آخر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مسجد الحرام کی ان خدمات بلکہ کعبۃ اللہ کے قریب آنے تک

۱۔ "سیرت ابن ہشام" جلد اول صفحہ ۸۰، تلبیہ کا بیان "صحیح مسلم" میں بھی ہے۔

سے منع فرما دیا۔ ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا.

(توبہ، رکوع ۴)

اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں، سو یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے
قریب نہ آنے پائیں۔

۷۔ نماز پڑھتے تھے: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ رقمطراز
ہیں:

وَكَانَتْ فِيهِمُ الصَّلَاةُ وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَكَانَ قَيْسُ بْنُ سَاعِدَةَ
الْإِيَادِيُّ يُصَلِّي ۱

ان میں نماز بھی تھی، چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہونے سے تین سال پہلے نماز پڑھا کرتے تھے اور قیس بن ساعدہ الایادی بھی نماز
پڑھا کرتے تھے۔

فقہ صحیح مسلم میں بھی ہے کہ عہد جاہلیت میں حضرت ابو ذر عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ۲

روزہ رکھتے تھے: اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

إِنَّ قَرِيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ۳
قریش عہد جاہلیت میں عاشورا کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔

۹۔ زکوٰۃ دیتے تھے: کتاب اللہ سے ثابت ہے کہ مشرکین عرب زمین کی پیداوار
اور جانوروں میں سے اللہ کا حصہ دیتے تھے، قولہ تعالیٰ:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ
وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا.

(پارہ ۸، سورہ انعام، رکوع ۱۶)

۱ "حجۃ اللہ البالغہ" جلد اول باب بیان ما کان علیہ حال اہل الجاہلیۃ.

۲ صحیح مسلم باب فضائل ابی ذر۔ ۳ صحیح بخاری کتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان وموطا امام مالک کتاب
الصیام باب صیام یوم عاشوراء۔

اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان (مشرکین) نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا پھر بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔

۱۰۔ غلام آزاد کرتے تھے: عاص بن وائل نے مرتے وقت اپنے لڑکے (حضرت) ہشام رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ (میری طرف سے) غلام آزاد کرنا، چنانچہ انہوں نے پچاس غلام آزاد کیے۔

۱۱۔ نذر منت خدا کی مانتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا: ۱۲۔ بیت اللہ میں اعتکاف کرتے تھے یا رسول اللہ!

إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْفِ نَذْرَكَ فَاعْتَكِفَ لَيْلَةً.^۱
میں نے عہد جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام (بیت اللہ) میں اعتکاف کروں گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اپنی نذر پوری کرو، چنانچہ انہوں نے ایک رات اعتکاف کیا۔

۱۳۔ عبد اللہ نام رکھتے تھے: کفار و مشرکین میں عبد اللہ نام رکھنے کا عام رواج تھا، چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت ابو جندل بن سہیل کا نام عہد جاہلیت میں عبد اللہ رکھا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد اور رئیس المنافقین ابن ابی کانام عبد اللہ تھا۔

۱۴۔ تحریر کا آغاز اسم الہی سے کرتے تھے: مشرکین مکہ کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت شان و جلالت قدر اس درجہ تھی کہ وہ اپنی اہم دستاویزات کی تحریر و تسوید کا آغاز اللہ ہی کے نام سے کرتے تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے خلاف جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ ”باسمک اللہم“ سے شروع کیا گیا نیز اس میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کا اسم و ذکر موجود تھا۔

۱۔ ابوداؤد، وجہ اللہ البالغہ جلد اول باب بیان ما کان علیہ حال ... ۲۔ صحیح بخاری کتاب الصوم باب من لم یبر علیہ صوما ... صحیح مسلم کتاب الایمان باب نذرا کافر ... وجامع ترمذی باب فی وفاء النذر، و ابوداؤد باب نذرا جاہلیتہ ...

امام ابن سعد رحمہ اللہ اپنی سندوں کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ:
حضور ملی شہید اور بنو ہاشم تین سال شعب ابی طالب میں محصور رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول ملی شہید کو ان کے معاہدہ سے متعلق اطلاع دی کہ:

ان الأَرْضَةَ قَدْ أَكَلَتْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ جُورٍ وَظُلْمٍ وَبَقِيَ مَا كَانَ فِيهَا
مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

اس معاہدہ میں ظلم و جور سے متعلق تحریر کو دیمک نے چاٹ کھایا ہے اور اس میں اللہ
عزوجل کا جو ذکر تھا وہ باقی ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ:

فَارْسَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الصَّحِيفَةِ ذَابَّةً فَأَكَلَتْ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اسْمَ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ.

اللہ تعالیٰ نے دیمک بھیج دی، اس معاہدہ میں لکھی ہوئی ہر بات کو کھا گئی، مگر اللہ
عزوجل کا اسم! (وہ باقی رہا)

تیسری اور چوتھی روایت میں ہے:

أَكَلَ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ فِي الصَّحِيفَةِ إِلَّا بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ!

اس صحیفہ کی ہر بات کھائی گئی مگر باسمک اللہم (یعنی اے اللہ ہم تیرے نام
سے شروع کرتے ہیں) یہ الفاظ باقی رہے۔

۱۵۔ قسمیں بھی اللہ کی کھاتے تھے: مشرکین مکہ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کی اس
قدر عظمت و کبریائی تھی کہ وہ قسمیں بھی

خدا کی کھاتے تھے اور بڑے زور سے خدا کی قسمیں کھاتے تھے۔

قرآن کریم میں کئی مقامات پر مثلاً پارہ ۸، سورہ انعام، رکوع ۱۳، پارہ ۱۲، سورہ نحل،
رکوع ۵، پارہ ۲۲، سورہ فاطر، رکوع آخر میں آیا ہے: **وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ** اور ان
(مشرکین مکہ) نے بڑا زور لگا کر قسمیں کھائیں۔

اس اجمال قرآنی کی تفصیل بڑی طویل اور دلچسپ ہے۔ حدیث اور سیرت کی مشہور و معتبر
کتابوں صحیح بخاری، طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ،

۱۔ ”طبقات ابن سعد“ جلد اول ص ۲۰۹ ذکر حضرت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بنی ہاشم۔

ابو جہل، ابولہب، عاص بن وائل اور ابوایحہ (جو قریش کا بزرگ عبدمناف کا پڑپوتا تھا) وغیرہم اکابر و اعظم رؤساء قریش سے خدا کی قسمیں کھانا مذکور و مروی ہے۔ عمائد قریش بڑی بے تکلفی کے ساتھ بات بات پر خدائے واحد کی قسمیں کھاتے تھے۔ جس سے یہ حقیقت بھی نقاب ہو جاتی ہے کہ مشرکین قریش کے قلوب رب العزت کے جلال و جبروت اور خدائے واحد کی عظمت و کبریائی کے احساسات و جذبات سے لبریز و معمور تھے اور وہ گاہ و بے گاہ، بے تامل و بے تکلف اللہ کی قسمیں، تاکیدیں قسمیں کھاتے تھے اور ایک ایک مجلس میں بات بات پر کئی کئی بار ”واللہ“ کا تکرار کرتے تھے۔

۱۶۔ نکاح کرتے تھے: اسلام سے پہلے عہد جاہلیت میں صحیح نکاح کا بھی رواج تھا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جاہلیت میں چار قسم کا نکاح ہوتا تھا، فنکاح منها نکاح الناس الیوم، ان میں سے ایک نکاح اس زمانہ کے مسلمانوں کا سا نکاح تھا۔^۱

۱۷۔ ختنہ، غسل جنابت وغیرہ تمام خصائل فطرت پر کار بند تھے:

ان میں ختنہ کا عام رواج تھا اور غسل جنابت وغیرہ خصائل فطرت پر ان کا عمل تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: وَمَا زَالَ الْغَسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سُنَّةً مَعْمُولَةً عِنْدَهُمْ وَكَذَلِكَ الْخِتَانُ وَمَا زَالَ الْغَسْلُ مِنَ الْفِطْرَةِ.^۲

۱۸۔ ذبح و نحر کرتے تھے: کفار قریش جھٹکے وغیرہ پر عامل نہیں تھے، ان میں صحیح ذبح اور نحر کا رواج تھا۔

وَلَمْ تَزَلْ سُنَّتُهُمُ الذَّبْحُ وَالنَّحْرُ فِي الْحَلْقِ وَالنَّحْرُ فِي الرِّقْبَةِ مَا كَانُوا يَنْخَنُقُونَ^۳
حلق کا ذبح کرنا اور گردن میں زخم لگا کر ذبح کرنا ان کا طور طریقہ تھا، وہ جانور کا گلہ نہیں گھونٹتے تھے۔

۱۹۔ استغفار کرتے تھے: قوله تعالى: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. (انفال، ع ۴)

^۱ صحیح بخاری کتاب النکاح باب من قال لا نکاح الا بولی. ج ۳ ”حجۃ اللہ البالغہ“ باب بیان ما کان علیہ حال اهل الجاهلیة.... ج ۳ ”حجۃ اللہ البالغہ“ جلد اول ایضاً۔

خلاصہ: کفار عرب مشرکین مکہ کے اعمال و کردار کا خلاصہ ملاحظہ ہو:

- ۱۔ اللہ کا گھر بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا تھا۔
- ۲۔ وہ حج کرتے تھے۔ ۳۔ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے تھے۔
- ۴۔ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے۔ ۵۔ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔
- ۶۔ عمرہ اور طواف کعبہ کرتے اور تلبیہ پڑھتے تھے۔
- ۷۔ نماز ادا کرتے تھے۔ ۸۔ روزہ رکھتے تھے۔
- ۹۔ زکوٰۃ دیتے تھے۔ ۱۰۔ غلام آزاد کرتے تھے۔
- ۱۱۔ اللہ کی نذر منت مانتے تھے۔ ۱۲۔ اعتکاف کرتے تھے۔
- ۱۳۔ عبد اللہ نام رکھتے تھے۔ ۱۴۔ اپنی اہم دستاویزات کا آغاز اسم الہی سے کرتے تھے۔
- ۱۵۔ قسمیں بھی خدا کی کھاتے تھے۔ ۱۶۔ نکاح کرتے تھے۔
- ۱۷۔ ختنہ وغیرہ جمیع خصائل فطرت پر کار بند تھے۔
- ۱۸۔ ذبح و نحر کرتے تھے۔
- ۱۹۔ استغفار کرتے تھے۔

اخلاقِ عظیمہ و صفاتِ حمیدہ!

اللہ رب العزت سے متعلق عقائد و تصورات، دینی اعمال و فطرتی کردار کے بعد اب ذرا مشرکین مکہ کے اخلاق و صفات کا حال ملاحظہ ہو:

۱۔ **غیور و صاحبِ عزت و ناموس تھے:** ان کی غیرت اور عزت و ناموس کی حفاظت کے جذباتِ عالیہ و

احساساتِ عظیمہ کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگا لیجئے کہ عمائد کفر و منادید قریش کی پوی جماعت ہجرت کی ساری رات قصرِ نبوت کے دروازہ پر جھک مارتی رہی، سارے لوگ شب بھر خاک بسر، صبح ہونے کے منتظر رہے، لیکن کاشائے رسالت کے اندر داخل ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک پر محض اس لیے حملہ آور نہ ہوئے کہ حریمِ نبوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بناتِ مطہرہ موجود تھیں، رضی اللہ عنہن۔

سیرت کے مشہور امام سہیل رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قریش نے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَسُبَّةٌ فِي الْعَرَبِ.

پھر وہ آپس میں کہنے لگے: خدا کی قسم! یہ تو عرب میں عار کی بات ہے۔

کہ ہمارے متعلق یہ کہا جائے کہ ہم دیوار پھلانگ کر (بنات العم) اپنی بہنوں پر داخل ہوئے اور اپنے حرم کی ہتک ستر کی۔ دیوار کی پستی کی وجہ سے ان کے لیے دیوار پھلانگ جانا ممکن بھی تھا۔

لَكِنَّهُمْ خَافُوا السُّبَّةَ وَالْعَارَ!

لیکن انہوں نے عار و بے عزتی کے خوف سے ایسا نہ کیا۔

اللہ اللہ! کفار ہیں، مشرکین ہیں، دشمن خدا اور رسول ہیں، مگر شخصی کردار اور قومی روایات کا کمال ملاحظہ ہو کہ گھر کے اندر مستورات ہیں تو وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے۔

ناموس نسواں اور آبروئے اثاث کا جو لحاظ، احترام اور پاس کل کفار و مشرکین میں تھا، کیا آج مسلمانوں میں اس کا شائبہ بھی موجود ہے؟

۲۔ صفاتِ کریمہ کے مالک اور قدردان تھے

۳۔ بات کے دھنی، قول کے سچے اور عہد کے پکے تھے

صرف ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ مشرکین مکہ محتاجوں، بیکسوں اور بے نواؤں کی مدد و سنگیری، مہمان نوازی، صلہ رحمی اور حمایتِ حق کی صفاتِ حمیدہ سے متصف اور ان اخلاقِ عالیہ کے کس درجہ مداح و قدردان تھے، نیز اسی واقعہ سے واضح ہو جائے گا کہ ان میں ایفائے عہد و پیمان کا کس حد تک احساس و احترام تھا، وہ اپنی بات کے دھنی، قول کے سچے اور وعدہ کے پکے تھے، وہ کسی حالت میں بھی بے وفائی و عہد شکنی کے طعن سے مطعون ہونے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، اب وہ واقعہ ملاحظہ ہو:

اُمّ المؤمنین سیدہ صدیقہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (ہجرتِ مدینہ سے پہلے قریش کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت) ابو بکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کے ارادہ سے نکلے، برک الغماد تک پہنچے تھے کہ (مکہ کے ایک بڑے قبیلہ) قارہ کے سردار ابن الدغنه آپ رضی اللہ

۱ "السيرة النبوية" بر حاشیہ "سیرت حلبیہ" جلد اول ص ۳۲۵۔

سے ملے اور پوچھا: ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ (حضرت) ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میری قوم نے مجھے (وطن عزیز سے) نکال دیا ہے، چاہتا ہوں کہ کسی اور ملک میں جا کر (آزادی سے) خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنے نے کہا:

فَإِنْ مَثَلَكَ يَا ابُو بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ وَلَا يَخْرُجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ..

ابوبکر! آپ جیسا شخص جلا وطن نہیں کیا جاسکتا، ہرگز نہیں نکالا جاسکتا (کیونکہ) تم مفلسوں کی دستگیری کرتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، بیکسوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، اور مصائب میں حق کی اعانت کرتے ہو، میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں، آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ پس آپ رضی اللہ عنہ واپس لوٹے۔ ابن الدغنے بھی آپ کے ساتھ تھا، اور اسی دن شام کو اشراف قریش میں پھر کران سے کہا: اِنَّ ابابکر لا يَخْرُجُ مَثَلَهُ، ابوبکر جیسا آدمی وطن سے نہیں نکالا جاسکتا، تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو محتاجوں کی خبرگیری کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، بے نواؤں کی مدد کرتا ہے، مہمان نواز ہے اور مصیبت میں حق کی حمایت کرتا ہے۔ قریش نے ابن الدغنے کی پناہ کو تسلیم کر لیا اور ابن الدغنے سے کہا: آپ ابوبکر سے کہہ دیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، گھر میں نماز ادا کریں اور جو چاہیں پڑھیں، لیکن وہ اس سے ہمیں ایذا نہ دیں، علانیہ نہ پڑھیں، کیونکہ ہمیں خوف ہے اس سے کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ ابن الدغنے نے (حضرت) ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ سب کہہ دیا۔ پس (حضرت) ابوبکر اسی طرح چند دن اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہے، نہ نماز میں آواز بلند کرتے، نہ اپنے گھر کے سوا قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، پھر آپ نے اپنے گھر کے مکن میں ایک مسجد بنالی، اس میں نماز پڑھتے تو بے اختیار روتے، مشرکین کی عورتیں اور بچے آپ کے گرد جمع ہو جاتے، آپ کو اس حال میں دیکھتے اور تعجب کرتے۔ اس سے رؤساء قریش پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ابن الدغنے کو بلا کر کہا: ہم نے آپ کی ذمہ داری پر ابوبکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، مگر انہوں نے اس سے تجاوز کیا، اپنے گھر کے مکن میں مسجد بنا ڈالی، اب وہ اس میں باواز بلند نماز و قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے اہل و عیال فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں (یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز، تلاوت قرآن اور گریہ و بکا سے متاثر ہو کر اسلام قبول نہ کریں) پس آپ انہیں روکیں، اگر وہ چاہیں کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت پر قناعت کریں تو (شوق

سے) کریں اور اگر وہ انکار کریں اور علانیہ عبادت اور قرآن خوانی پر مصر ہوں تو آپ ان سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کی ذمہ داری آپ کو واپس کر دیں۔ فانا قد کرہنا ان نخفرک۔ بیشک ہم اس بات کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ سے عہد شکنی کریں۔ چنانچہ ابن الدغنه (حضرت) ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا: جس شرط پر میں نے آپ سے (حفاظت کا) عہد کیا ہے یا تو آپ اس پر قائم رہیں یا مجھے بری الذمہ کر دیں۔

فَإِنِّي لَا أَحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ إِنِّي أَخْفَرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ.
میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عرب میں مشہور ہو کہ میں نے کسی شخص کے ساتھ
عہد و پیمانہ باندھ کر بد عہدی کی۔

(حضرت) ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کرتا ہوں (مجھے اس کی حاجت نہیں) میں اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔

اللہ اکبر! ہیں تو مشرک و کافر، مگر عہد و قول کا یہ پاس و احترام! کیا آج عامۃ المسلمین میں
قول و قرار کا اس درجہ پاس موجود ہے؟

لمحہ فکر یہ: ذرا کفار عرب و مشرکین قریش کے عقائد و ایمان، اعمال و کردار اور اخلاق و صفات کی ان تفصیلات پر ایک اجمالی نگاہ ڈال لیجئے، اخلاق ہیں تو عظیمہ، صفات ہیں تو کریمہ، اعمال ہیں تو حسنہ، کردار ہے تو عالیہ، مکارم اخلاق و محاسن اعمال سے قطع نظر، عقائد و تصورات پر نظر کرو، تو اللہ رب العزت کو خالقِ کل، رزاقِ مطلق، مالک الملک، مدبّر امور، مُخَيِّ و مُمَيِّتٌ وہ مانیں، متصرف علی الاطلاق، عَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مشکل کشا، حاجت روا اور واحد خدا وہ جانیں، ان کا ایمان و یقین یہ تھا کہ مصائب و شدائد سے نجات دینے والا اور کاشف العذاب اللہ واحد کے سوا اور کوئی نہیں، چنانچہ وہ طوفان و تلاطم اور قحط کے عذاب میں مبتلا ہوتے تو صرف اللہ کو، خالص ایک اللہ کو پکارتے (مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) پھر ان کے قلوب و اذہان میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت و عظمت اور جلال و کبریائی کا وہ عمیق و فقید المثال اثر و احساس تھا کہ انسان اس کا تصور کرتا ہے تو بحر حیرت میں ڈوب ڈوب جاتا ہے۔ اگر قرآن کریم، احادیث پاک اور سیرت و تاریخ کی مستند مشہور روایات سے یہ حقائق معلوم و منکشف نہ ہوتے تو ان پر اعتبار و یقین مشکل ہو جاتا، اب ہم یہ سارے احوال و کوائف دل سے مانتے ہیں، مگر تحریر

صحیح بخاری باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الی المدینہ.

و تعجب اور حیرت و استعجاب کی انتہا ہے کہ ہوں تو کافر و مشرک مگر معرفت ربانی، توحید باری تعالیٰ اور قدرت و تصرف الہی پر یہ ایمان و یقین! عظمت و جلال خداوندی کا یہ احساس و ادراک! شخصی کردار و وظائف حیات کی یہ بلندی و رفعت اور قومی اخلاق و عادات و ملی اطوار و روایات کی یہ پاکیزگی و طہارت!

دوا ہم نتیجے! اس مفصل و مطول بحث سے دو مجمل و مختصر نتیجے برآمد ہوتے ہیں جو ہر مسلمان کے ہمیشہ پیش نظر و ذہن نشین رہنے چاہئیں:

اول: یہ کہ ان اخلاق و اعمال کا بایں مکارم و محاسن کچھ بھی وزن نہیں، اور قیامت کے دن یہ سب غبارِ راہ کی طرح اُڑ جائیں گے۔

دوم: یہ کہ ذات و صفات باری تعالیٰ سے متعلق یہ ایمان و عقائد رکھنے کے باوجود وہ حقیقی توحید کونہ پاسکے، مشرک جیسے مشرک مرے اور اللہ تعالیٰ کو واحد اور مصلحت و مشکلات میں نجات دہندہ و مشکل کشا، قادر و قدیر اور مالکِ کل و غالبِ علیٰ کل مان کر اور جان کر بھی وہ مشرک کے مشرک ہی رہے، جادو توحید پر گامزن نہ ہو سکے۔

ایک سبق: ان دو نتائج سے ہر صاحب عقل و ایمان کو ایک سبق یاد کر لینا چاہئے، وہ یہ کہ صرف اعمال و کردار کے حسن و کمال پر فریب نہیں کھا جانا چاہئے، اگر عقیدہ و ایمان صحیح نہیں تو اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔

ایک قابل غور امر: دوسرے اس امر پر غور کرنا چاہئے کہ ذات و صفات ربانی سے متعلق کفار و مشرکین عرب کے عقائد و تصورات سے ماوراء وہ کون سا عقیدہ ہے، جس کے بغیر انسان شرک کی لعنت سے نہیں نکل سکتا اور موحّد نہیں ہو سکتا، یعنی انتہائی احتیاط کے ساتھ اس حقیقت کا پتہ لگانا چاہئے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے۔ جس سے قریش مکہ محروم رہ کر واصل جہنم ہوئے۔

(۵)

توحید کی حقیقت



قرآن کریم، احادیث صحیحہ، اور سیرت و تاریخ میں صراحت و تفصیل اور اعادہ و تکرار کے ساتھ ارشاد و بیان ہے کہ مشرکین مکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی اور وحدت کے قائل تھے بلکہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ صفات ربانی کے بھی معترف تھے، پھر اللہ واحد کی معرفت اور صفات باری تعالیٰ کے عرفان و ادراک کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، مگر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بایں ہمہ عرفان الہی و عبادت ربانی وہ مشرک تھے اور آخرت میں نارِ جہنم کا ایندھن بنے۔

آج کے عام مسلمان: آج علامتہ المسلمین کا بھی بالعموم یہی حال ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کو مانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے

رکھتے ہیں، حج و زیارت بھی کرتے ہیں، بعض بعض تسبیح و تہجد کے بھی پابند ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، دیگیں پکا پکا کر غریبوں، فقیروں کو کھلاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم مؤحد ہیں، اور آخرت میں جنت کے حقدار، حالانکہ اگر مطلق اللہ کی معرفت و عبادت اور نیکی و صالحیت کا نام توحید ہے تو پھر دنیا میں کبھی کوئی مشرک پیدا ہی نہیں ہوا۔ پھر تو ابو جہل و ابولہب تک مؤحد ہیں اور ولید و عتبہ تک جنت کے مستحق! آخر جب مسجد میں تعمیر کرنے والے مؤحد ہیں تو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے والے کیوں مؤحد نہیں؟ اور اگر روضہ رسول کی زیارت کرنے والے جنت کے مستحق ہیں تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام، رات دن دیکھنے والے جہنم کا ایندھن کیوں؟ بلکہ خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابولہب اور اس کی گھر والی واصل جہنم کیوں؟ سَبَّحْنِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ شَيْطَانُ مَرْدُودٍ، ابلیس لعین آدمی کا دشمن ہے،

شیطان لعین کی فریب کاری:

چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالا گیا، اس لیے اس کی بھرپور کوشش اور جہد مسلسل یہی ہے کہ اولادِ آدم کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ توحید چونکہ جہنم سے نجات کا واحد ذریعہ اور شرک

دخولِ جہنم کا راستہ ہے، اس لیے اس مردودِ ازیلی نے لوگوں کو توحید کی حقیقت سمجھنے ہی نہیں دی۔ ہمیشہ سے آدمی شرک کر کے بھی توحید کا مدعی بنا پھرتا ہے، اور ایمان لا کر بھی مشرک کا مشرک رہتا ہے۔

توحید کو سمجھنے میں انسانیت نے ہمیشہ یہ ٹھوک رکھائی ہے کہ لوگ اللہ کی معرفت و عبادت یا اللہ تعالیٰ کو واحد جاننے کو توحید سمجھتے رہے ہیں، حالانکہ نہ تو اللہ کی معرفت توحید ہے اور نہ ہی اللہ واحد کی عبادت توحید، یہ تو انسانی فطرت کے لازمی تقاضے ہیں، جنہیں انسان نے ہر دور میں پورا کیا ہے۔ اللہ کا انکار بندے کے بس کی بات نہیں، لہذا عام کفار و مشرکین ہی نہیں بلکہ تاریخ کے ہر دور میں بڑے بڑے ائمہ الکفر نے بھی اللہ کی ذاتِ واحد بلکہ صفات تک کا اقرار کیا ہے، اور عبادتِ الہی کے مراسم بھی بجلائے ہیں۔

وجہ نزاع و خلاف: نجاتِ آخرت کی واحد صورت توحید ہے۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان پہلے توحید کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لے۔

توحید کی حقیقت سمجھنے کے لیے اس حقیقت کا سراغ لگانا ضروری ہے کہ جب کفارِ قریش ذات و صفاتِ باری تعالیٰ کے معترف و معتقد تھے اور اللہ تعالیٰ کو واحد جان کر اس کی عبادت بھی کرتے تھے تو پھر قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتِ توحید سے کیوں چڑتے تھے؟ آخر کس اختلاف و خلاف کی بنا پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابِ رسول سے لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دردناک مظالم و لرزہ انگیز شداہد کا ہدف و نشانہ بن کر، آگ میں جل بھن کر، خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر، وطنِ عزیز سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آنا پڑا۔ اس پر بھی ان کی آتشِ بغض و عناد ٹھنڈی نہ ہوئی، یہاں بھی اہل حق کو سکھ اور چین سے نہ بیٹھنے دیا، جنگ و جدال اور حرب و ضرب کا بازار گرم کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں پروانگانِ شمعِ توحید و رسالت نے شہادت پائی اور خود صنادیدِ قریش کتوں کی موت مرے۔ صرف ایک دن، غزوہ بدر میں ابو جہل سمیت ستر عمائد و ساء مکہ و اصلِ جہنم ہوئے۔ لعنہم اللہ تعالیٰ۔

نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مشرکینِ عرب نے یہ سلوک کیا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین تک ہر نبی اور رسول اور ان کے صحابہ و رفقا کے ساتھ ہر امت کے مترفین و اثرار نے یہی رویہ اختیار کیا۔ قرآن کریم اور ارشاداتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کے مطابق بعض حضرات کو قتل کیا گیا، بعض کو آگ میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا

گیا، بے طرح مظالم و شدائد کے شکنجے میں کسا گیا، حتیٰ کہ یہود مردود نے ایک ایک دن میں ستر ستر حضرات انبیاء کو شہید کر دیا۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام

سوال یہ ہے کہ جب یہ کفار اشرار اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، واحد مانتے تھے تو آخر وہ وجہ نزاع، اصل خلاف، بنا و عناد اور اساسِ فتنہ و فساد کیا تھی؟ جہاں تک مسئلہ کے مثبت پہلو کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ اہل حق و اہل باطل کے مابین کوئی خاص فرق نہ تھا اور نہ ہی کوئی خاص وجہ نزاع و خلاف نظر آتی ہے۔ اہل توحید و اہل شرک میں جو شدید و بعید اختلاف تھا، محض منفی پہلو سے تھا۔

بھی نہ! ہی! مشرکین خدا کو بھی مانتے تھے، اور خدا کی بھی عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام حضرات انبیاء علیہم السلام نے خدا ہی کی عبادت کی دعوت دی۔ اسلام خدائے واحد کے سوا ہر معبود کی نفی کرتا ہے اور انسانیت کو صرف الہ واحد کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، لیکن مشرکین کو اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسرے معبودانِ باطل کی عبادت پر بھی اصرار تھا، سارا خلاف اسی ”بھی“ اور ”ہی“ کا تھا۔

کتاب اللہ اور احادیثِ نبویہ سے اسی وجہ خلاف کا ثبوت ملتا ہے۔ عہدِ آخر کے مجرمین معذبین کے متعلق ارشاد فرمایا:

۱. اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا لَتَارِكُوْا اِلٰهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ.

(پارہ ۲۳، الصفحہ ۲۴)

بیشک وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر دیوانہ کی وجہ سے چھوڑ دیں گے؟

مشرکین اللہ رب العزت کی الوہیت بلکہ اس کی وحدت کا اقرار تو کرتے تھے، انہیں انکار و غرور تھا تو اللہ تعالیٰ کی وحدتِ الوہیت پر! جب داعیِ توحید صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی ضرب سے غیر اللہ کی معبودیت و الوہیت کی نفی کرتے اور معبودانِ باطل کو پاش پاش فرماتے تھے تو قریش مکہ نہ صرف انکار و استکبار کرتے اور ناک بھوں چڑھاتے تھے بلکہ آپ سے باہر ہو کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدفِ سب و شتم بناتے اور شانِ اقدس و اطہر میں گستاخیاں کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ (معاذ اللہ) اس شاعر اور دیوانے کے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو تھوڑا چھوڑ دیں گے۔ ہم اللہ کے ساتھ ان کی پرستش برابر کرتے رہیں گے، ہم انہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔

اگلی سورت میں اسی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ مشرکین سے متعلق ارشاد فرمایا:
 ۲. وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سِحْرٌ كَذٰبٌ ۝ اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْهٰا وَّاحِدًا اِنَّ
 هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝ وَاَنْطَلَقَ الْمَلٰٓئِمُهُمْ اَنْ اَمْشُوْا وَاَصْبِرُوْا عَلٰى
 اِلٰهِيَّتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرٰٓدُ ۝ (پارہ ۲۳- شروع سورہ ص)

اور کافروں نے کہا (معاذ اللہ) یہ جادو گر ہے۔ جھوٹا۔ کیا اس نے اتنے معبودوں
 (کی جگہ) ایک ہی معبود بنا دیا۔ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے اور ان میں سے سردار
 (یہ کہتے ہوئے) چل کھڑے ہوئے کہ چلو! اور اپنے معبودوں (کی عبادت) پر
 جمے رہو۔ بیشک اس بات میں کوئی نہ کوئی غرض ہے۔

مشرکین مکہ صرف ایک معبود کے تصور ہی سے بیگانہ تھے، خدائے واحد کو معبودِ واحد ماننے
 میں انہیں نہ صرف تامل و تردد بلکہ سخت تعجب تھا۔ محض خدائے واحد کی الوہیت و عبادت کی دعوت
 پر حضرت علیؑ کونشانہ جو رو جفا اور ہدفِ سب و شتم بنایا گیا۔ کبھی شاعر و مجنون کہا گیا تو کبھی
 ساحر و کذاب یعنی جادو گر اور جھوٹا۔ نیز یہ بہتان بھی باندھا گیا کہ اس میں آپ کی کوئی ذاتی
 غرض پوشیدہ ہے، حکومت و بادشاہی کا کوئی منصوبہ ہے۔ (معاذ اللہ) بارگاہِ رسالت میں یہ
 گستاخیاں محض اس وجہ سے تھیں کہ آپ ہمارے معبودوں کی نفی کر کے خدائے واحد کی عبادت
 کی دعوت کیوں دیتے ہیں۔ یہ بات ناقابلِ فہم و قبول اور باعثِ حیرت و استعجاب ہے۔
 عمائدینِ کفر اور رؤساءِ قریش اس بات پر طیش میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور کہنے لگے: اگر آپ
 ہمارے معبودوں کی جڑیں کاٹنے پر اڑے ہوئے ہیں تو صبر و تحمل سے ہم بھی اپنے معبودوں کی
 حمایت و عبادت پر ڈٹے رہیں گے۔ تو ان اشرار کا سارا جوش، غصہ، ملال اور اشتعال محض لا الہ
 الا اللہ پر تھا۔ غیر اللہ کی عبادت کی نفی پر وہ مشتعل ہو جاتے تھے اور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے
 خلاف غیظ و غضب اور بغض و عداوت کی آگ میں جل مرتے تھے۔

قرآن کریم کی تیسری شہادت ملاحظہ ہو:

۳. وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِی الْقُرْاٰنِ وَحَدَّهُ وَاَلُوْا عَلٰى اَذْبَارِهِمْ نَفُوْرًا ۝

(پارہ ۱۵، بنی اسرائیل رکوع ۵)

اور جب آپ قرآن میں اکیلا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت کرتے ہوئے
 پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔

یوں تو وہ خود خدا کا ذکر کرتے تھے، دکھ درد میں خدا کو پکارتے تھے، لیکن جب حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خدائے واحد کا ذکر کرتا دیکھتے تھے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے، و فوراً نفرت سے
مجبور ہو کر اُلٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔

چوتھی جگہ ارشاد فرمایا:

۴. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا
ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝

(پارہ ۲۴، زمر، ۵۷)

اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں جو
آخرت کا یقین نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس
وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

مشرکین کا حال ملاحظہ ہو کہ جب اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت و کراہت
اور غم و غصہ سے بھر جاتے ہیں، توحید الہی سے ناگواری کے باعث ان کے رونگٹے کھڑے ہو
جاتے ہیں، دل گھٹ گھٹ جاتے ہیں، اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ ملا یا جائے تو مارے خوشی کے
ان کی باچھیں کھل جاتی ہیں، باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور ارشاد ملاحظہ ہو:

۵. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ.

(پارہ ۲۴، مومن، ۲۷)

یہ اس واسطے ہے کہ جب اکیلا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور اگر اس
کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے، پس یہ خدائے علی و کبیر کا فیصلہ
ہے۔

مشرکین جہنم میں اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت پوچھیں
گے۔ رب العزت کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ یہ دردناک ہمیشگی کا عذاب محض اس وجہ
سے ہے کہ تم خدائے واحد کی وحدانیت کا کفر و انکار کرتے تھے اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو
شریک بنایا جاتا تھا تو فوراً ایمان و یقین لے آتے تھے۔ اس پر خدائے علی و عظیم کا فیصلہ یہی ہے

۱۔ اِشْمَأَزَّتْ، اِشْمِيزَاذٌ سے ماضی کا صیغہ۔ لغت میں اِشْمِيزَاذٌ کے معنی ہیں کراہت سے رونگٹے کھڑے ہونا، بکروہ
جاننا، منقبض ہونا، کراہت کی وجہ سے نفرت کرنا (المنجد) اِشْمِيزَاذٌ کے معنی ہیں غم و غصہ سے اس طرح بھر جانا کہ چہرے
سے رکاوٹ اور نفرت کا اظہار ہونے لگے۔ (لغات القرآن)

کہ تم جہنم میں ہمیشہ جلتے رہو۔

حقیقت صاف صاف اور واضح طور پر سامنے آگئی کہ اللہ کی پکار کے وہ منکر و مخالف نہ تھے، ان کا کفر و انکار صرف اللہ واحد کی پکار پر تھا۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر کے پکارا جاتا تو وہ اس کو مانتے تھے، سارا خلاف، سارا کفر ایک اللہ کی عبادت پر تھا، وہ منکر تھے تو وحدت الوہیت و وحدت عبادت کے! وہ مخالف تھے تو توحید باری تعالیٰ کے! وہ تعدد الہ و کثرت الوہیت کے نہ صرف مقرر و معترف تھے بلکہ اس پر سخت مصر تھے۔

مشرکین سابقین: قرآن کریم سے صاف و صریح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کفار قریش اپنے اس طرز عمل میں مفرد نہ تھے، بلکہ انسانیت کی پوری تاریخ میں ہر دور کے مشرکین کا یہی حال رہا ہے۔ قوم نوح سے لے کر مشرکین مکہ تک تمام مشرک قوموں کے حالات کا ذکر ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

۶. اَلَمْ يَاتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ
م بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ جَاآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ .

کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ (یعنی قوم نوح، عاد (قوم ہوڈ) اور ثمود (قوم صالح) کی، اور جو ان کے بعد ہوئے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے پیغمبران کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو ان تمام مشرک اقوام نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی دلائل واضحہ پر مشتمل دعوت توحید کا کفر و انکار کرتے ہوئے کہا:

قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا
فَاَنْتُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(بارہ ۱۳، ابراہیم، ۲۴)

انہوں نے کہا تم تو ہماری طرح محض ایک آدمی ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ہمارے آباء (واجداد) جس چیز کی عبادت کرتے تھے اس سے ہم کو روک دو۔ سو کوئی صاف معجزہ دکھاؤ۔

ان تمام مشرکین سابقین کا کفر و انکار محض اس بنا پر تھا کہ حضرات انبیاء و رسل ان کو اللہ کے سوا دوسرے تمام معبودوں کی عبادت سے روکتے تھے۔

اس اجمال کی تفصیل: اس اجمال قرآنی کی تفصیل بھی قرآن ہی سے ملاحظہ ہو:

قوم نوح: حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی صفات اور اس کے انعامات و احسانات کا ذکر کر کے قوم کو لیل و نہاد دعوتِ توحید دی، جس کے جواب میں اکابر قوم نے اپنے تابعین سے کہا:

۷. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝

(نوح . ۲۹)

اور کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا (بالخصوص) نہ وڈ کو اور نہ سواع کو اور نہ یغوث یعوق اور نسر کو چھوڑنا۔

قوم عاد: قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوتِ توحید کا یہی جواب دیا تھا:

۸. قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

(ہارہ ۸۰ . اعراف ۹۷)

انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تو وہ قائل تھے، البتہ وحدتِ عبادت کے منکر تھے۔ صرف اللہ واحد کی عبادت کی دعوت ان کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ان کے لیے اللہ کے نبی برحق کی یہ دعوت کہ دوسرے تمام معبودوں کو چھوڑ کر خدائے واحد کی پرستش کرو، ناقابلِ قبول، ناقابلِ یقین بلکہ باعثِ حیرت و استعجاب تھی۔

دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں:

۹. قَالُوا أَجِئْنَا لِنُؤْفِكَنَا عَنِ آلِهَتِنَا

(ہارہ ۲۶ . احقاف، ۳۷)

کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو بالآخر نبی کی دعوتِ حق کا انہوں نے یہ جواب دیا:

۱۰. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا

(ہارہ ۱۲ . ہود، ۵۷)

نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝

کہا اے ہود! آپ نے ہمارے سامنے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اور ہم آپ کے کہنے سے اپنے معبودوں (کی عبادت) کو چھوڑنے والے نہیں۔ اور ہم آپ پر یقین کرنے والے نہیں

تو سارا جھگڑا، اختلاف اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت پر تھا۔ اللہ کے نبی اس کی اجازت قطعاً نہیں دے سکتے تھے اور کفار مشرکین انہیں چھوڑ نہیں سکتے تھے۔

قوم شمود: حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم شمود کو غیر اللہ کی پرستش سے روکا تو ان کی قوم نے ان کو جواب دیا:

۱۱. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ

أَبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ (پارہ ۱۲، ہود، ۶۷)

ان لوگوں نے کہا اے صالح ہمیں تو اس سے پہلے آپ سے بڑی امیدیں تھیں کیا تم ہم کو ان کی عبادت سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ (دادا) کرتے آئے ہیں اور تو ہم کو جس دین کی طرف بلا رہا ہے بیشک ہم تو اس بارے میں شک میں ہیں جس نے ہم کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔

اہل مدین: حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوتِ توحید کا اہل مدین نے جواب دیا:

۱۲. قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلُوكُ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا.

(۱۲، ہود، ۸۷)

کہا اے شعیب! کیا تیری نماز تم کو حکم کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں (کی پرستش) کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ (دادا) عبادت کرتے تھے۔

۱۳. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ۝

(پارہ ۲۳، آخر سورہ مومن)

پھر اور انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے اب ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں کے ہم منکر ہوئے جن کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے۔

اقوامِ دُائمہ سابقہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے حضراتِ انبیاء و رُسُل کی دعوتِ حق کا بخول

اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ جب عذاب الہی سامنے آیا تو ہوش ٹھکانے آیا۔ اس وقت خدائے واحد پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ یعنی خدا کے ساتھ دوسرے معبودوں کا انکار کر کے ایک خدا کی الوہیت و معبودیت پر ایمان لانے کی سوچھی۔ مگر اب توبہ و انابت کا کیا فائدہ؟ توبہ و ایمان بحالت اختیار مقبول ہے، حالت اضطرار میں قبول نہیں، اب وقت گزر گیا۔

وقت پر قطرہ ہے بہتر ایر خوش ہنگام کا!

جل گیا جب کھیت مینہ برسا تو پھر کس کام کا؟

خلاصہ: قرآن کریم کی ان تصریحات و تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر زمانے اور ہر دور کے مشرکین وحدت الوہیت اور توحید الہی کے منکر و مخالف تھے، اور تعدد الہ و کثرت الوہیت کے قائل! نہ صرف قائل و مقرر بلکہ اس پر مصر تھے، شدید مصر!

ادھر اسلام: ادھر اسلام الہ واحد کی الوہیت کا علمبردار ہے اور توحید کا داعی، یہ اللہ تعالیٰ کے بعد متعدد اور بے شمار الہ تو کجا! کسی دوسرے الہ کے تصور تک کا تحمل نہیں کرتا۔ اللہ کے ہر نبی اور رسول نے خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی۔ تفصیل ملاحظہ ہو:

خاتم النبیین ﷺ

۱. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَةٌ اٰخَرٰی ط قُلْ لَا اَشْهَدُ قُلْ اِنَّمَا هُوَ

اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنِّیْۤ اَبْرَیۡءٌ مِّمَّا تُشْرِکُوْنَ ۝ (بارہ ۷۰. سورہ انعام، ۲۴)

کیا تم (سچ سچ) یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں آپ

کہہ دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس وہ ایک ہی معبود ہے اور

پیشک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔

امام المرسلین علیہم السلام نہ صرف الہ واحد کی وحدت و توحید کے داعی و مدعی ہیں بلکہ اللہ واحد

کے سوا دوسرے تمام معبودان باطل سے بری و بیزار ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

۲. وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوا الْاٰلِهَيْنِ الْاٰثِنِيْنَ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاٰتَاىَ فَاَرْهَبُوْنَ ۝

(بارہ ۱۳. نحل، ۷۴)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم دو معبود مت بناؤ معبود تو بس وہی ایک ہے۔ پس مجھ

ہی سے ڈرو۔

دین اسلام میں دعوت محمدی میں دوسرے متعدد معبودوں کی گنجائش کہاں؟ یہاں تو اللہ کے بعد کسی ایک معبود کی بھی جگہ نہیں۔ یہاں اللہ واحد کو تسلیم کرنے کا حکم ہے۔ مسلمان عبادت کرے گا تو ایک اللہ کی، اور ڈرے گا تو ایک اللہ سے! یہاں توحید کا ڈنکا بجاتا ہے، یہاں وحدت عبادت کا علم لہراتا ہے، یہاں کثرت کہاں؟ یہاں تو دوئی کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں۔ یہاں شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

تو مشرکین اور اہل اسلام کے درمیان وجہ نزاع و خلاف، خدا تعالیٰ کی معرفت و عبادت نہیں بلکہ باعث عناد و فساد یہ ہے کہ اسلام وحدت عبادت توحید الہی کا علمبردار ہے۔ یہاں عبادت والوہیت میں دوئی اور شرک، کفر ہے۔ ادھر مشرکین کو وحدت الوہیت و توحید ربانی سے جڑ ہے۔ اسلام وحدت عبادت کا داعی ہے اور دوسرے سب معبودوں کی مطلق نفی کرتا ہے، جسے اہل شرک برداشت نہیں کر سکتے، چنانچہ داعی توحید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں، جس پر روستاء مشرکین مشتعل ہو جاتے ہیں۔

امام احمد حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ دہلی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے عہد جاہلیت میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار ذوالحجاز میں فرماتے تھے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِحُوا.

لوگو! لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے!

آپ کا چچا ابولہب آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اور کہتا، انہ صابی کاذب (معاذ اللہ) یہ بے دین اور جھوٹا ہے۔ بیہتی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ نیز بیہتی کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ابولہب کہہ رہا تھا، لوگو! یہ تم کو تمہارے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ نہ کر دے، یہ روایت ابو نعیم نے بھی دلائل میں وارد کی ہے۔

پھر بیہتی نے کنانہ کے ایک شخص سے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار ذوالحجاز میں فرماتے تھے: ”لوگو! لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔“ ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے آپ پر مٹی پھینکتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، لوگو! یہ تم کو تمہارے دین کے بارے میں دھوکا نہ دے دے، یہ چاہتا ہے کہ تم لات وعزئی کی عبادت چھوڑ دو۔“

یہ شتی ازلی یہ بد بخت و لعین ابولہب و ابو جہل محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس درجہ آتش زیر پا کیوں ہیں، جب کہ یہ خود اللہ رب العزت کو مانتے ہیں، واحد مانتے ہیں اور اس کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ یہ سارا اشتعال، یہ سارا غم و غصہ، یہ ساری بدزبانی و بے حیائی، رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں یہ گستاخی و بدتمیزی، یہ مظاہرہٴ رذالت و کمینگی یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ”یہ چاہتا ہے کہ تم لات و عزئی کی عبادت چھوڑ دو“ یہ توحید کا علمبردار یہ جمیع حضرات انبیاء و رسل کا سید و سردار اللہ کے سوا دوسرے سب معبودوں کی نفی کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی عبادت تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ ہمارے معبودوں کی عبادت سے کیوں روکتا ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے طور طریقوں سے ہمیں برگشتہ کرنے کی کوشش میں ہمہ تن مصروف و منہمک کیوں ہے؟

رحمتِ عالم کا استہزاء: اسی ”جرم“ کی پاداش میں کفار ناہنجار رحمتِ عالم کو ہدفِ تضحیک و نشاۃ استہزاء بناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت

کا انکار کرتے تھے، ارشاد ہوتا ہے:

۱. وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَخْلُوكَ الْأَهْزُوطَ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الْهَيْتَا لَوْ لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا (۱۹ فرقان، ۴۷)

اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے استہزاء و تمسخر کرنے لگتے ہیں، (اور کہتے ہیں کہ) کیا یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، بیشک قریب تھا کہ یہ ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا اگر ہم ان پر (مضبوطی سے) قائم نہ رہتے۔

۲. وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ

عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ (۲۲. براء، ۵۷)

اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) محض ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں (کی عبادت) سے باز رکھے جن کو تمہارے آباء (واجداد) پوجتے تھے۔

صاحبِ خلقِ عظیم پرست و شتم کا الزام: اللہ واحد کی وحدانیت اور غیر اللہ کی الوہیت و معبودیت کی

نفی کے ”جرمِ عظیم“ کی بناء پر کفار قریش و اشراہ مکہ اس ذاتِ پاک پرست و شتم کا ناپاک اور

کمینہ الزام عائد کرتے تھے۔ جس ذات پاک کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام قدیم، قرآن کریم میں ”اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ“ سے خطاب فرمایا ہے۔

ابو جہل لعین ہمیشہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے آزار رہتا تھا تو اسی بناء پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واحد کے سوا دوسرے معبودانِ باطل کی نفی فرماتے تھے، چنانچہ ایک دن اس شقی ازلی نے کہا: اے قریش! اِنَّ مُسْحَمًا... شَتَمَ الْهَتَا بلاشبہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کل ایک بڑا پتھر جسے میں اٹھا سکوں گالے کر بیٹھوں گا، جس وقت آپ سجدہ میں ہوں گے اس پتھر سے آپ (کے دشمنوں) کا سر پھوڑ دوں گا۔^۱

بروایت امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ امام البرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی تو عتبہ و شیبہ ابنائے ربیعہ، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہم اشراف قریش نے مل کر ابوطالب سے کہا:

اِنَّ ابْنَ اَخِيْكَ قَدْ سَبَّ الْهَتَا...^۲

تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے....

دیوبندی ”نبی کریم کے گستاخ“ اور ”اولیاء اللہ کے منکر“ ہیں:

گالی دینا نبی کریم، صاحب خلق عظیم کی شانِ اقدس و اطہر سے قطعاً بعید ہی نہیں بلکہ یکسر خلاف ہے۔ گو مشرکین مکہ کے بت ہی سہی، مگر ان کو بھی آپ کے گالی دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں آپ ان کے معبودانِ باطل کی نفی ضرور فرماتے تھے۔ اور وہ بدنہاد اسی کو سب و شتم سے تعبیر کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح آج علماء حق جب غیر اللہ کی الوہیت اور حضرات انبیاء و اولیاء کی معبودیت کی نفی کرتے ہیں تو علماء سوا اور جاہل صوفی اور مشرک پیر سب یہی کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں (معاذ اللہ) اور اولیاء اللہ کے منکر و دشمن ہیں (ثم معاذ اللہ)۔

اَسْوَةٌ خَلِيْلٌ: اَسْوَةٌ حَبِيْبٌ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعْدَ اَسْوَةِ خَلِيْلٍ مَلَا حِظَّهُ هُوَ:

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم بھی اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی

۱۔ ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول صفحہ ۳۱۹۔ ۲۔ ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول صفحہ ۲۸۲۔

پرستش کرتی تھی۔ حضرت خلیلؑ نے انہیں وحدت الوہیت کی دعوت دی اور خدائے واحد کی توحید پر ایمان لانے کے لیے فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ

(بارہ ۲۸، ممتحنہ، رکوع اول)

بیشک تمہارے لیے ابراہیمؑ اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک عمدہ نمونہ ہے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔

جب تک تم صرف خدائے واحد کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی بھی پرستش کرتے ہو، ہم تم سے بری و بیزار ہیں، ہمارے تمہارے درمیان محبت و الفت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، ہماری تمہاری کھلی دشمنی ہے، ہم تم سے بر ملا بغض و عداوت رکھتے ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں اور تمہارے معبودانِ باطل کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم ان سے بھی بری و بیزار ہیں معلوم ہوا اہل توحید اور اہل شرک میں رسم و راہِ محبت و اخوت غلط ہے۔ موحدین و مشرکین میں باہم بغض و عداوت لازم ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوۂ حسنہ معمول و دستور اور طور طریقہ تھا۔ اور ہمیں اسی کی اتباع و تقلید کا حکم دیا گیا ہے۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ

مگر آہ! آج عجیب زمانہ ہے کہ موحد مسلمانوں کے مشرکین کے ساتھ نہ صرف دوستی و محبت کے روابط و تعلقات ہیں، بلکہ باہم عقد و مناکحت تک کے رشتے قائم ہیں۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ باہمی محبت کی بنیاد تو توحید ہے، اللہ واحد پر ایمان ہے، جب تک یہ بنیاد موجود نہ ہو، محبت کیسی؟

غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالرحمن مشرکین مکہ کے ساتھ ہو کر اہل توحید سے برسرِ پیکار تھے۔ جنگ کے بڑی مدت بعد ایک دن حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت صدیق اکبر

رہنما سے ذکر کیا کہ غزوہ بدر کے دوران آپ میری تلوار کی زد پر آگئے تھے مگر میں نے آپ کے باپ ہونے کا لحاظ کرتے ہوئے وار نہ کیا۔

پاسِ ناموسِ حقوقِ پدری نے روکا
دوسری سمت کو رخ اپنا لیا میں نے بدل
سن کے یہ حضرت صدیقؑ نے ارشاد کیا
راہِ حق میں نہیں رشتے کی رعایت کا محل
تو مری زد پہ جو آتا تو نہ بچ کر جاتا
پہ مری تیغ بھی تیرے لیے پیغامِ اجل
دشمنِ دین سے مسلمان کی قرابت کیسی؟
اس کا رشتہ ہے فقط حبِ خدا عَزَّ وَ جَلَّ

(شبلی نعمانیؒ)

محبت و الفت اور قرابت و یگانگت کا رشتہ توحید ہے، خدا اور رسول کی محبت ہے، شرک سے مسلمان کی محبت و اخوت کے کیا معنی؟ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

أَسْوَةٌ لِّعُقُوبٍ وَابْنَائِ لِّعُقُوبٍ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو خدائے واحد ہی کی عبادت کی تعلیم دی اور اپنی وفات کے وقت بھی اس کا امتحان کر کے انہوں نے اپنی تسلی کر لی کہ میرے بعد میری اولاد الہ واحد ہی کی عبادت کرے گی۔ ارشاد ہوتا ہے:

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

(پارہ اول آخری رکوع)
کیا تم موجود تھے جس وقت یعقوب (علیہ السلام) کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے (بالاتفاق) جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آباء (واجداد حضرات) ابراہیم و اسمعیل و اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے (یعنی اسی کی) جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔

وحدت الوہیت: حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ، خلیل اللہ علیہ السلام نے حَتَّىٰ تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحَدُّهُ اور اِنَّمَا يَلْعَنُ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَام نے إِلَهًا وَاحِدًا کے الفاظ سے اللہ واحد کی الوہیت کا اعلان فرمایا ہے، نہ صرف ان حضرات علیہم السلام نے بلکہ اللہ کے ہر نبی نے وحدت الوہیت اور توحید الہی کی دنیا کو دعوت دی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں غیر اللہ کی عبادت کی صراحت اور شدت سے نہی فرمائی ہے۔ مثلاً

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

(پارہ ۱۲، سورہ نحل، رکوع ۵۴)

ہم ہر امت میں (اس بات کی تعلیم کے لیے) پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم (خاص) اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچتے رہو۔

امام مالکؒ، امام ابو اسحاقؒ، امام ابن جریر طبریؒ، امام راغب اصفہانیؒ وغیر ہم اجلہ ائمہ دین کے نزدیک طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے، جس کی خدا کے سوا عبادت کی جائے۔

امام طبریؒ لکھتے ہیں کہ خدا کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔

إِنْسَانًا كَانَ ذَلِكَ الْمَعْبُودُ أَوْ شَيْطَانًا أَوْ وَثَنًا أَوْ صَنَمًا أَوْ كَائِنًا مَا كَانَ

مِنْ شَيْءٍ۔ (تفسیر ابن جریر طبری جلد ۳ ص ۱۲)

خواہ وہ معبود انسان ہو یا شیطان، بت ہو یا مورتی، یا کوئی سی چیز ہو۔

تو اللہ کے ہر رسول نے اپنی اپنی امت کو توحید کی دعوت دی، اللہ واحد کی عبادت کا حکم دیا

اور غیر اللہ کی پرستش سے روکا۔

مومنین و مشرکین کا کفر و ایمان!

مشرکین اللہ وحدہ کی وحدت، عبادت کے منکر و کافر تھے، اور معبودانِ باطل پر ان کا ایمان

تھا۔ مسلمان اللہ واحد کی وحدت و توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور معبودانِ باطل کے کافر و منکر

ہیں۔ چنانچہ سابقہ معذب و معتوب قوموں نے جب عذاب الہی میں اپنے آپ کو مبتلا و گرفتار پایا

تَوَّامِنًا بِاللّٰهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (نعرہ لگایا) (آخسورہ مومن)۔ تو مشرکین

۱۔ ہم خدائے واحد پر ایمان لائے اور دوسرے سب باطل معبودوں کا ہم نے کفر کیا۔

و مسلمین دونوں کفر و ایمان دونوں صفات کے حامل ہیں۔ مسلمان خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں یعنی وحدت الہی پر ان کا ایمان و یقین ہے اور دوسرے سب باطل معبودوں کے یہ کافر و منکر ہیں، یعنی عبادت کا حق یہ کسی کو نہیں دیتے، اور مشرکین وحدت الوہیت کے کافر و منکر ہیں اور دوسرے معبودوں کی عبادت و الوہیت پر ان کا ایمان ہے۔

ذیل کی روایت سے یہ حقیقت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے:
امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ:

جب دو پہر شعلہ جوالہ بن جاتی تو اُمیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو شہر سے نکال کر مکہ کی ریتلی اور کنکریالی زمین پر لے جاتا، جلتی ریت پر لٹا دیتا۔

ثُمَّ يَأْمُرُ بِالصَّخْرَةِ الْعَظِيمَةِ فَتُوضَعُ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ، لَا وَاللَّهِ لَا تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، وَتَعْبُدُ اللَّاتَ وَالْعِزَّى فَيَقُولُ وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْبَلَاءِ.

پھر حکم دیتا اور پتھر کی چٹان ان کے سینہ پر رکھ دی جاتی (تاکہ جنبش نہ کر سکیں) پھر ان سے کہتا، خدا کی قسم! تو اسی حال میں مر جائے گا یا تو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا انکار کر دے، اور لات و عزی کی پرستش کرے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسی عالم ابتلاء و آزمائش میں فرماتے، اِحْدَا احْدَا!

اس روایت سے مشرکین مکہ اور اصحاب رسول کے عقیدہ و تصور اور ایمان و یقین کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور دونوں کا فرق کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ:

کفار قریش، مشرکین مکہ خدا کو مانتے ہوئے، اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت لات و عزی کی پرستش کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آنے والا شمع توحید کا پروانہ بلال صرف خدائے واحد کی عبادت کا اعلان کرتا ہے۔ اِحْدَا احْدَا کہہ کر غیر اللہ کی نفی کرتا ہے۔ وہ موت تو قبول کر سکتا ہے مگر خدائے واحد کی عبادت سے ہٹ کر لات و عزی کی عبادت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

اسی حقیقت کا انکشاف ایک اور روایت سے ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن حجر رحمہ اللہ (المتوفی ۸۵۲ھ) زبیرہ رضی اللہ عنہما کے حالات میں رقمطراز ہیں:

۱۔ "سیرت ابن ہشام" جلد اول صفحہ ۲۳۹، ۲۴۰ و "طبقات ابن سعد" جلد ۳ ص ۲۳۲۔

وہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں اور ان صحابہؓ میں سے تھیں جو اللہ کی راہ میں جتلانے عذاب ہوئے۔ ابو جہل (لعین) آپ کو تعذیب و تکلیف دیا کرتا تھا اور آپ ان سات اشخاص میں سے ہیں جنہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر عذاب سے چھڑایا۔

فاکھی اور ابن مندہ (رحمہما اللہ) نے اپنی اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ:

حضرت زبیرہ رضی اللہ عنہما رومیہ تھیں، اسلام لائیں تو ان کی بینائی جاتی رہی۔

فَقَالَ الْمَشْرُكُونَ اَعْمَتَهَا اللَّاتُ وَالْعِزَّى، فَقَالَتْ اِنِّي كَفَرْتُ بِاللَّاتِ وَالْعِزَّى، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهَا بَصَرَهَا^۱

مشرکین کہنے لگے کہ انہیں لات و عزئی نے نابینا کر دیا ہے، حضرت زبیرہ نے فرمایا: میں لات و عزئی کا انکار کرتی ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت پھر بحال کر دی (اور وہ بینا ہو گئیں)

علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے امام ابن اسحاق رحمہ اللہ سے حضرت عروہ (بن زبیرہ) کی جو روایات نقل کی ہے اس میں ہے:

فَقَالَ الْمَشْرُكُونَ اَعْمَتَهَا اللَّاتُ وَالْعِزَّى لِكْفَرِهَا بِاللَّاتِ وَالْعِزَّى^۲۔
مشرکین نے کہا کہ چونکہ اس نے لات و عزئی کا کفر کیا ہے لہذا لات و عزئی نے اسے نابینا کر دیا ہے۔

تو اسلام توحید باری تعالیٰ کا اثبات اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی کا نام ہے۔ جب ایک شخص اسلام قبول کرتا اور نور ایمان سے منور ہوتا ہے تو خدائے واحد پر ایمان لانے کے ساتھ معبودانِ باطل کا کفر و انکار کرتا ہے، اس کے بغیر خدائے واحد پر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، چنانچہ مشرکین اس حقیقت کو خوب جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدائے محمد پر ایمان لانا لات و عزئی کا انکار کرنا ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ (حضرت) زبیرہ، ہمارے معبودوں لات و عزئی کا کفر و انکار کرتی ہے۔ قریش مکہ اس حقیقت سے اچھی طرح باخبر تھے کہ دعوتِ محمدی پر ایمان لانے کے بعد لات و عزئی وغیرہ معبودانِ باطل کی پوجا پاٹ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے تو وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کرتے تھے کہ محمد (کریم) کا کفر و انکار کرو اور لات و عزئی کی

۱ "اصابہ" مطبوعہ مصر جلد ۲ صفحہ ۳۰۵ ترجمہ حضرت زبیرہ۔

۲ "استیعاب" ترجمہ حضرت زبیرہ۔

عبادت کرو۔ مگر وہ شیخ توحید و نبوت کا پروانہ زہرہ گداز و جانگسل مصائب کو انتہائی صبر و ثبات سے برداشت کرتا اور زبان سے احد، احد کہتا تھا۔

تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو معبودانِ باطل کا کفر لازم ہے۔ اگر دعوتِ محمدی پر صحیح ایمان و یقین ہے تو ہر غیر اللہ کی الوہیت و معبودیت کا انکار کرنا ہوگا۔
ارشاد ہوتا ہے:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَأَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(بارہ، ۳، بقرہ، رکوع ۳۴)

سو جو شخص شیطان کا کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو بلاشبہ اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جو (کبھی) ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔

بہر حال شرک واللہ واحد کی وحدتِ عبادت و وحدتِ الوہیت سے کفر و انکار کا نام ہے اور اسلام خدائے واحد کے سوا تمام معبودانِ باطل کے کفر و انکار سے عبارت ہے۔ یہی مشرکین جب تک کافر و مشرک تھے صرف خدائے واحد کی عبادت کے مخالف و معاند تھے، اور ماسوی اللہ اپنے معبودوں کی عبادت پر انہیں شدید اصرار تھا، صرف ایک خدا کے ذکر یا اللہ واحد کی عبادت پر چراغ پا اور کف بدہن ہو جاتے تھے، مگر یہی لوگ جب نورِ ایمان سے منور و مستنیر ہوئے تو اپنے انہی معبودانِ باطل کو گرایا، جلایا، گندی نالیوں میں بہایا، پاؤں تلے روند اور کچلا۔

مشرکین عرب کے معبودانِ باطل کا انجام! قریش کے باطل معبودوں کی جو درگت خود قریش

کے ہاتھوں بنی، ذرا اس کی تفصیل ملاحظہ ہو:

- ۱۔ فتح مکہ کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بت نصب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے بتوں کو ضرب لگاتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
- ۲۔ سیرت کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی کی کمان تھی۔ آپ جس بت کے

صحیح بخاری باب فزود الفتح، صحیح مسلم باب فتح مکہ (ترمذی، ہنسائی اور عبدالرزاق نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

(ابن کثیر)

پاس سے گزرتے اسی کمان سے اس بت کی طرف اشارہ فرماتے اور فرماتے، جَاءَ الْحَقُّ.. اور بت منہ کے بل گر جاتا، ہر بت کا یہی حال ہوا۔^۱

ہہبل: ہہل اعظم الاصنام تھا۔ حضرت ابوسفیانؓ نے جنگِ اُحد کے موقع پر اسی کی بے پکاری تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کمان کے سرے سے اس کی آنکھوں میں کچو کے دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے اسے توڑ دیا گیا۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان سے فرمایا: غزوة اُحد میں جس ہہل پر تجھ کو فخر و غرور تھا اور تیرا زعم باطل تھا کہ اس نے تمہارے اوپر فضل کیا، وہ ہہل آج توڑ دیا گیا۔ حضرت ابوسفیانؓ نے کہا: اے ابن العوام! ان باتوں کو جانے دیجئے۔

فقد اری لو کان مع الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر لکان غیر ما کان۔^۲
اب یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الہ واحد کے سوا اور کوئی معبود ہوتا تو آج یہ معاملہ نہ ہوتا۔

معبود پیروں تلے کچلے گئے: فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادنی کر دی گئی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت

پر، وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ رہنے دے بلکہ اسے توڑ دے، فلا یدع فی بیتہ صنماً الا کسره۔ اور جب (ابوسفیانؓ کی اہلیہ) حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں تو اپنے بت کے پاس آئیں جو ان کے گھر میں تھا۔

وَجَعَلْتُ نَضْرِبُهُ بِالْقَدُومِ وَتَقُولُ كُنَّا مِنْكَ فِي غُرُورٍ.^۳
اور اسے اپنے پاؤں تلے کچلنے لگیں اور کہتی جاتی تھیں، ہم تیری وجہ سے بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔

لا ت: اب ذرالات کا حال ملاحظہ ہو جو طائف میں بنو ثقیف کا مشہور بت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیانؓ اور مغیرہ بن شعبہ کو حضرت خالد بن ولید کی زیرِ سیادت لا ت کو توڑنے اور مندر کو ڈھا دینے پر مامور فرمایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جا کر بت کو توڑ کر

۱ "طبقات ابن سعد" جلد ۲ صفحہ ۱۳۶، "سیرت ابن ہشام" جلد ۲ ص ۵۹۔

۲ "سیرت حلبیہ" جلد ثانی صفحہ ۲۱۰، ۲۱۱، مطبوعہ مصر۔ ۳ ایضاً صفحہ ۲۷۷۔

مندر کو ڈھا دیا، اور آگ لگا دی۔ شداد بن عارض جشمی شاعر نے قبیلہ ثقیف کو لات کی دوبارہ پرستش سے روکتے ہوئے کہا:

لَا تَنْصُرُوا اللَّاتَ إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهَا وَكَيْفَ نَصَرَكُمْ مَنْ لَيْسَ يَنْتَصِرُ، إِنَّ
الَّتِي حُرِّقَتْ بِالنَّارِ فَاشْتَعَلَتْ وَلَمْ تَقَابِلْ لَدَىٰ أَحْجَارِهَا هَدْرًا ۱
لات کی حمایت نہ کرو، حقیقت میں اللہ اس کو غارت کرنے والا ہے، جو خود اپنی مدد
نہیں کر سکتا وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو آگ میں جلا دیا گیا اور آگ
بھڑک اٹھی اور وہ اپنے پتھروں کے پاس نہ لڑ سکا، اس کی بربادی ناقابل معاوضہ
ہے۔ ۱

ابن ہشام کی روایت ہے کہ لات کو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کدال کی پیہم ضربوں سے پیوند
زمین کر دیا۔ ۲

کل تک جولات ان کے زعم باطل میں ان کی حفاظت اور مدد کرتا تھا اور پوجا جاتا تھا آج
کدال کی پیہم ضربوں سے توڑ پھوڑ کر نذر آتش کر دیا گیا۔ آگ کے شعلوں نے اسے جلا کر
خاک سیاہ کر دیا۔

منات: اب منات کا حشر ملاحظہ ہو، جو عرب کے سارے قبائل کا معبود تھا۔ خصوصاً اوس و
خزرج (انصار) اس کی عبادت و پرستش میں اشد تھے۔ انصار، ازد اور غسان اس
کاج کرتے تھے، بروایت امّ لمومنین سیدہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا انصار اور غسان منات پر مراسم
ج ادا کرتے تھے۔ ۳

فتح مکہ ہی کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زید الشہلی رضی اللہ عنہ کو بیس سواروں
کے ساتھ اسے پیوند خاک کرنے کے لیے بھیجا، انہوں نے جا کر بت کو منہدم کر دیا۔ ۴
یہ منات کا انجام ہوا، جو انصار و غیر انصار سب کا معبود تھا۔ آج اسے منہدم کر کے خاک
میں ملا دیا گیا۔

عزری: اب عزری کا انجام ملاحظہ ہو، جو قریش کا بہت مشہور اور سب سے بڑا بت تھا۔ حضرت
ابوسفیان نے غزوہ احد میں اسی پر فخر و ناز کرتے ہوئے کہا تھا، لَنَا الْعُزْرَىٰ وَلَا عُزْرَىٰ

۱ "لغات القرآن" جلد پنجم صفحہ ۱۹۸، ۱۹۹۔ ۲ "سیرت ابن ہشام" مطبوعہ مصر جلد ۲ صفحہ ۱۸۶۔

۳ صحیح بخاری کتاب الحج و کتاب التفسیر (سورہ النجم)۔ ۴ "طبقات ابن سعد" جلد ۲ صفحہ ۱۳۷۔

لَكُمْ. فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اسے منہدم کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ تیس سواریوں کے ساتھ ۲۵ رمضان ۸ھ کو روانہ ہوئے۔^۱

امام ابن کثیر اور علامہ علی بن برہان الدین الجلیلی لکھتے ہیں:

حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جا کر عزیٰ کو گرا دیا، گراتے وقت آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

يَا عَزَى كُفْرَانِكِ، لَا سُبْحَانَكَ، إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ أَهَانَكَ.

اے عزیٰ! میں تیرا انکار کرتا ہوں، تیری پاکی نہیں، بلاشبہ میں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا۔

کل غزوة أحد کے موقع پر جس کی بے پکاری جا رہی تھی، آج اسی عزیٰ کو ڈھا کر خاک میں ملا دیا گیا، اور انہی اکابر قریش کے ہاتھوں، آج اس کا کفر و انکار کیا جا رہا ہے اور انہی عمائدین کفر و رساء قریش کی زبان سے!

تو جب تک معبودان باطل، غیر اللہ کی معبودیت والوہیت کا کفر و انکار نہ کیا جائے اللہ کی توحید اور ایمان و اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اسلام نام ہی اللہ واحد پر ایمان لانے اور معبودان غیر اللہ کے کفر و انکار کرنے کا ہے، قولہ تعالیٰ:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
لَا انْفِصَامَ لَهَا.

خلاصہ: توحید اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نام نہیں، توحید اللہ ہی کی عبادت کا نام ہے، اسلام اللہ واحد کے سوا ہر معبود کی نفی کرتا ہے، اور توحید کی حقیقت شرک کی نفی ہے۔

ایک عجیب نکتہ: پورے قرآن میں توحید کا لفظ نہیں ہے، جس توحید کے لیے قرآن نازل ہوا، بلکہ تمام کتب ساویہ نازل ہوئیں، قرآن کریم میں اس توحید کا لفظ بھی نہیں ہے

بہار میرے لیے اور میں تہی دامن

اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عموماً توحید کا لفظ نہیں۔ جس توحید کے لیے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریفین خون اطہر سے تر ہونیں،

۱ "طبقات" جلد ۲ ص ۱۳۵۔ ۲ "لغات القرآن" جلد ۲ صفحہ ۲۹۶ بحوالہ تفسیر ابن کثیر طبع مصر جلد ۲ صفحہ ۲۵۳۔

۳ "سیرت حلبیہ" مطبوعہ مصر جلد ۲۔

دندان مبارک ٹوٹے، چہرہ اقدس زخمی ہوا اور پورا وجود پاک لہو میں نہا گیا، اُحد کی سر زمین لالہ زار بن گئی، ساری عمر آپ کی زبان پاک پر اس ”توحید“ کا لفظ نہیں آیا۔ پوری انسانیت کو نبی اُمی نے آخر دم تک اللہ کی توحید کا درس دیا مگر لسانِ نبوت عموماً توحید کے لفظ سے آشنا نہ ہوئی۔

اس عجیب نکتہ میں توحید کی حقیقت کا سارا راز مستور و مخفی ہے۔ کتاب اللہ اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز و اسلوب سے اس حقیقت کی غمازی ہوتی ہے کہ توحید کی حقیقت شرک کی نفی ہے۔ توحید نام ہی نفی شرک کا ہے۔ شرک کے جھاڑ جھنکار کاٹ چھانٹ لو، خارزارِ شرک سے دل کی دنیا کو پاک صاف کر لو، توحید کے گل و گلزار خود بخود نمودار ہوں گے، چمنستان و گلستانِ توحید از خود آباد ہو جائیں گے۔

چنانچہ قرآن و حدیث میں ہر جگہ شرک کی نفی فرمائی گئی ہے، پورا قرآن اور احادیثِ پاک کا سارا دفتر شرک کی تردید و مذمت سے معمور و لبریز ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرک کی نفی ہی توحید کا اثبات ہے۔ جب تک شرک کا کلیۃً سد باب اور قلع قمع نہیں ہوتا توحید ثابت و متحقق نہیں ہو سکتی۔ توحید نفی شرک کا نام ہے۔ چنانچہ کلمہ ”توحید لا الہ الا اللہ شرک کی نفی پر مشتمل ہے۔ جس میں ایک اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی کی گئی ہے۔“

نفی و اثبات: اسلام خدائے واحد پر ایمان و یقین اور معبودانِ باطل کے کفر و انکار سے عبارت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت و معبودیت کا اثبات اور غیر اللہ کی عبادت کی نفی!

حضرات انبیاء کی بعثت کا مقصد: یوں تو انسان نے فطرت کے تقاضے کے تحت اللہ تعالیٰ کو ایک جانا ہے اور

اپنے رنگ ڈھنگ سے ہمیشہ اس کی عبادت بھی کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے رحیم و کریم مولانا نے اپنی عبادت کا صحیح حق ادا کرنے کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے خاص الخاص، منتخب اور برگزیدہ بندوں کو بھیجا، حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہر حالت میں ہر قیمت پر بندوں کو اللہ کی عبادت کی، کما حقہ عبادت کی تعلیم دی، جان کی بازی لگا کر خلقِ خدا کو توحید کا درس دیا، اور توحید کی حقیقت اور اللہ کی عبادت کا حق یہ بتلایا کہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت حق ہی اللہ واحد کا ہے۔ اس ذاتِ اُحد و صمد کے سوا نہ عبادت کسی کا حق ہے اور نہ کسی دوسرے کی عبادت کی جائے۔

پہلے نفی اور پھر اثبات: اور ہر رسولؐ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت و توحید کا جو درس دیا، اس میں پہلے غیر اللہ کی معبودیت کی نفی ہے،

اللہ کی الوہیت و معبودیت کا ذکر و اثبات بعد میں ہے۔ لا الہ الا اللہ بعد میں۔ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو جہاں اللہ جل جلالہ کی عبادت کی دعوت دی، وہاں غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کا حکم ساتھ دیا۔ بلکہ اللہ کی عبادت سے پہلے غیر اللہ کی الوہیت کی نفی کی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

۱. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

(بارہ ۱۷۰. سورہ الانبیاء، رکوع ۲)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید باری تعالیٰ پر جمیع حضرات انبیاء و مرسلین کا اتفاق و اجماع رہا ہے اور اللہ کے تمام پیغمبر غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دینے آئے تھے۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔ وحی الہی میں پہلے غیر اللہ کی الوہیت و معبودیت کی نفی ہے بعد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم!

۲. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ.

(بارہ ۱۳. سورہ نحل، رکوع اول)

وہ فرشتوں (جبرئیلؑ) کو وحی یعنی اپنا حکم دے کر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں نازل فرماتے ہیں، یہ کہ ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس مجھ سے ڈرو۔

اس ارشادِ ربانی سے یہ حقیقت ظاہر ہو گئی کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو دعوتِ توحید کا حکم دیا گیا اور شرک کی نفی حضرات انبیاء کی مشترکہ شریعت ہے۔ جمیع حضرات انبیاء و مرسلؑ نے اپنی اپنی امت کو اسی وحی الہی کا سبق دیا کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔

توحید کی دعوت اور شرک کی ممانعت تمام انبیاء علیہم السلام کا اجماعی عمل، متحدہ کردار بلکہ ان کا مقصدِ بعثت و منصبِ رسالت ہے۔

رسولِ خاتم کی دعوتِ توحید: جہاں آپ سے پہلے جمیع حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کی بعثت کا مقصد، توحید کی دعوت تھا،

وہاں نبی خاتم ملی اللہ علیہ السلام کی دعوت بھی خدائے واحد کی عبادت اور شرک کی مذمت و مخالفت پر مشتمل تھی۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (اسلام لانے سے قبل) میں بنو مالک کے ساتھ مقوقس (شاہِ مصر) کے پاس گیا۔ تو مقوقس نے پوچھا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کن باتوں کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم نے کہا:

يَدْعُونَا إِلَى أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَخْلَعَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
 آپ ہمیں اس کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم صرف خدائے واحد کی عبادت کریں جس
 کا کوئی شریک نہیں اور ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان کو
 بالکل چھوڑ دیں۔

(۶)

شرک و توحید کی نفی و اثبات کے متعدد اسلوب و انداز!



قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز و متعدد اسلوب سے توحید باری تعالیٰ کی تعلیم دی ہے، یعنی خدائے واحد کے لیے وحدتِ عبادت کا اثبات و ایجاب اور غیر اللہ کی الوہیت و معبودیت کی سراسر نفی فرمائی ہے، اور ایک انداز سے نہیں، بلکہ کئی انداز سے! کتاب و سنت سے یہ عجیب و اثر انگیز تفصیل ملاحظہ ہو۔

انداز ۱

مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ!

(اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں)

قرآن کریم کے تین پاروں (۸، ۱۲، ۱۸) میں تین سورتوں (اعراف، ہود، مؤمنون) کے اندر نو ۹ مقامات پر ہے کہ ان چاروں حضرات نے اپنی اپنی قوم سے فرمایا:

۱۔ حضرت نوح علیہ السلام

۲۔ حضرت ہود علیہ السلام

۳۔ حضرت صالح علیہ السلام

۴۔ حضرت شعیب علیہ السلام

أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔

۵۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی غیر اللہ کی معبودیت کی نفی کرتے ہوئے بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں:

۱۰۔ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔

(پارہ ۹، سورہ اعراف، رکوع ۱۶)

۱۔ دو دو مقامات پر ان چاروں حضرات کے اسامہ مبارکہ مذکور ہیں۔ اور سورہ مؤمنون رکوع دوم میں بلا اسم گرامی ایک رسول کا ذکر ہے، انہوں نے فرمایا: **أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ۔**

کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔

۶۔ امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: خاتم الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر اللہ کی ربوبیت والوہیت کی نفی کا حکم ہوتا ہے۔

۱۱. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ.

(بارہ ۸. سورۃ انعام. رکوع ۲۰)

آپ فرمادیجئے، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا پروردگار ہے۔

دوسرے مقام پر زیادہ زور دار اور شدید انداز میں عبادت غیر اللہ کی نفی ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

۱۲. قُلْ اَقْبِرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِيْ اَعْبُدُ اَيْهَا الْجَاهِلُوْنَ. (بارہ ۲۳۔ زمر آخری رکوع)

آپ کہہ دیجئے اے جاہلو! کیا تم مجھ کو غیر اللہ کی عبادت کا حکم کرتے ہو؟

اس ارشادِ ربانی سے یہ حقیقت بھی معلوم ہو گئی کہ غیر اللہ کی عبادت انتہائی جہالت و حماقت اور نادانی و بلادت ہے

۱۳. قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا

يُطْعَمُ. (بارہ ۷. انعام. رکوع ۲)

آپ کہئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤں جو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں اور جو (سب) کو کھلاتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں کھلاتا۔

خلاصہ: یہ کُل تیرہ مقامات ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرات انبیاء علیہم السلام نے غیر اللہ کی پرستش کی عجیب موثر انداز اور شدید الفاظ میں نفی کی ہے۔

انداز ۱

مَنْ اِلٰهَ غَيْرِ اللّٰهِ

(اللہ کے سوا کون معبود ہے؟)

دیکھئے کس عجیب انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدتِ معبودیت کے ساتھ غیر اللہ کی نفی کی

جاری ہے۔ مثلاً:

۱. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ
مَنْ إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ

(بارہ ۷. انعام، رکوع ۵)

آپ کہئے! کہ یہ بتلاؤ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت، تمہاری بینائی لے لے اور
تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تم کو یہ (واپس) لا دے

۲. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ
إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

(۲۰. قصص، رکوع ۷)

۳۔ متصل اگلی آیت میں بھی ہے: مَنْ إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ

۴. أَمْ لَهُمْ إِلَهَ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. (۲۷۔ طور، آخری رکوع)

کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

خلاصہ: یہ چار مقامات پر غیر اللہ کی الوہیت و عبادت کی نفی کی گئی ہے۔

”غیر اللہ“ کے افراد: امام المرسلین سمیت تمام اجلہ انبیاء و رسل (علیہم الصلوٰۃ والسلام)

نے عبادت، اللہ رب العزت ہی کا حق فرمایا ہے اور غیر اللہ
کی عبادت کی کلیۃً نفی فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر اللہ کی عبادت کو حماقت و جہالت بھی
قرار دیا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”غیر اللہ“ سے کیا مراد ہے اور اس کے افراد کون کون ہیں؟ اس
سوال کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ غیر اللہ سے مراد اللہ کے سوا ہر چیز ہے۔ شجر، حجر، قبر، صنم،
وثن، شمس و قمر، ستارے، فرشتے، جن، انسان، ولی اور نبی سب غیر اللہ کے افراد ہیں۔ الغرض
ماسوی اللہ ہر چیز اور ہر شخص غیر اللہ میں داخل و شامل ہے۔

تفسیر ابن جریر، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی وغیرہ اکثر تفاسیر میں آیت کریمہ مَا كُنَّا
لِنُشْرِكَ... کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے کہ ابورافع
قرظی وغیرہ علماء یہود و نصاریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:
اے محمد! کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نصاریٰ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کرتے ہیں ہم
آپ کی عبادت کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَعَادَ اللَّهِ أَنْ نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ نَأْمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ مَا بِذَلِكَ بَعَثَنِي وَلَا بِذَلِكَ أَمَرَنِي ۖ

خدا کی پناہ اس سے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کریں یا غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیں۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا، اور نہ ہی مجھے اس کا حکم دیا ہے۔
اس موقع پر رسول اللہ ﷺ نے خود اپنی ذات پاک کو غیرہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو امام
المسلمین بھی غیر اللہ کے افراد ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم!

ناخدا ترسی کا بدترین مظاہرہ اور سادہ

مسلمانوں کو ایمان سوز مغالطہ:

بعض وہ بندگان خدا جن کے دل خوفِ خدا سے خالی ہیں، اور جنہیں شاید مر کر خدا کے
پیش نہیں ہونا، انتہائی بیباکی سے سیدھے سادے عوام مسلمین کو یہ فریب دیتے ہیں کہ ”غیر اللہ کی
عبادت کو تو ہم بھی شرک سمجھتے ہیں، بھلا کون ہے جو غیر اللہ کی عبادت کو جائز سمجھے؟ البتہ سوال یہ
ہے کہ حضرات انبیاء و اولیاء خصوصاً محبوبِ خدا ﷺ بھی غیر اللہ میں داخل ہیں؟ ہم تو انہیں غیر
اللہ نہیں مانتے، غیر اللہ سے مراد تو صرف بت اور پتھر وغیرہ ہیں، نبی کریم ﷺ، اور اللہ کے
سب ولی تو اللہ کے اپنے ہیں، انہیں کون غیر اللہ کہہ سکتا ہے، انہیں غیر اللہ میں شامل کرنا تو انتہائی
گستاخی ہے، جس کا ارتکاب دیوبندی وہابیوں کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نزدیک تو یہ
اللہ کے اپنے ہیں، غیر نہیں، غیر تو بت وغیرہ ہیں لہذا بتوں کی پوجا حرام ہے، اولیاء اللہ کی قبروں
کی چوما چالی، ان کے سجدے، خانقاہوں پر چڑھاوے، منت منوتی، اماموں نبیوں کی دکھ سکھ
میں پکار، دعا، یہ تو سب عین دین ہے، کون ہے جو ان کے جواز میں کلام کر سکے۔“

جب ایک سیدھا سادا عامی مسلمان ”حضرت شیخ التفسیر یا شیخ الحدیث“ یا ”پہنچے ہوئے پیر
صاحب“ کی زبان ”درافشان“ سے یہ ”محبت آمیز“ و ”عشق انگیز“ تقریر ”دلپذیر“ سنتا ہے تو سر
دھتا ہے اور کہتا ہے واقعی ”حضرت صاحب“ سچ کہتے ہیں، یہ دیوبندی واقعی وہابی ہیں، نبی
ﷺ کے دشمن اور اولیاء اللہ کے منکر ہیں کہ محبوبِ خدا کو بھی ”غیر اللہ“ میں داخل کرتے ہیں،
حالانکہ وہ تو اللہ کے اپنے ہیں، غیر کہاں؟

۱۔ تفسیر ”روح المعانی“ جلد ۳ ص ۲۷۷ تفسیر آیت مَا كَانَ لِشَيْءٍ...

دیوبندی اگر وہابی ہیں تو ”حضرت صاحب“؟ مگر وہ سادہ سا مسلمان اتنا نہیں سوچ سکتا کہ

دیوبندی تو رسول خدا و اولیاء اللہ کو غیر اللہ میں شامل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور گستاخ اور اولیاء اللہ کے منکر بنے، (معاذ اللہ) مگر یہ ”حضرت صاحب“ جو اپنے والد محترم تک کو غیر سمجھتا ہے، بھائی کو غیر سمجھتا ہے، بھتیجوں بھانجوں کو غیر سمجھتا ہے، اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟

میری نسبت جو ہوا ارشاد میں نے سن لیا

یہ تو کہئے! اپنی نسبت آپ کی کیا رائے ہے؟

باپ بھائی سب غیر ہیں: یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ نکاح میرا ہے، میری اہلیہ صرف میرے لیے حلال ہے، غیر پر حرام ہے، اور پھر غیر

میں باپ، بھائی سب کو شامل کرتا ہے، کہتا ہے کہ باپ ہے تو میرا باپ، میرا اپنا ہے، مگر میری بیچ کے معاملے میں یہ بھی غیر ہے، بھائی ہے تو میرا اپنا، مگر بیچ کے بارے میں یہ اپنا ہو کر بھی غیر ہے، جہاں تک میری بیوی اور اس سے تمتع کا سوال ہے باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجے، بھانجے، سب میرے اپنے ہو کر بھی غیر ہیں، میری زوجہ پر صرف میرا حق ہے، وہ میرے سوا باقی سب کے لیے حرام ہے۔

اللہ اللہ! وہ آدم زاد جس کی اصل پیشاب کا ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ بھی نہیں، بلکہ جانہین سے دو قطرے! پھر اسے غیرت کا ایک قطرہ ملا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیچ کے معاملے میں باپ، بیٹے، بھائی تک کو غیر سمجھتا ہے، اور یہ غیر تمند کہتا ہے کہ میری بیچ پر میرا باپ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔

اور اس ذات پاک واجب الوجود، منبع و مصدر صفات و کمالات..... جو غیرت کا مالک ہی نہیں بلکہ خالق ہے..... کی عبادت کی مسند پر اس کے پیارے انبیاء و اولیاء کو بٹھانا گوارا کر لیا جائے! انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اگر ایک شریف انسان کے باپ بھائی وغیرہ اپنے ہو کر، اپنی اصل و فرع ہو کر، اپنا گوشت پوست ہو کر، اپنا خون ہو کر بھی بیچ کے معاملے میں غیر ہیں، اور اس ”غیریت“ سے ان کی قربت و خویشگی پر آنچ نہیں آتی، نہ اس سے ان کی توہین کا کوئی پہلو نکلتا ہے تو حضرات انبیاء اولیاء اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندوں کو اگر عبادت کے معاملے میں غیر سمجھا جائے تو اس

”غیریت“ سے ان حضرات کی توہین کیسے ہو گئی؟ اور ایسا سمجھنے والا ان کا دشمن و منکر کیسے ہو گیا؟
نہ توحید صحیح سمجھے نہ شرک توحید و شرک کو سمجھنے میں انسانیت نے ہمیشہ یہ ٹھوکر کھائی ہے کہ لوگ اللہ کی معرفت و عبادت کو توحید سمجھتے رہے

ہیں اور صرف بتوں کی عبادت کو شرک، حالانکہ نہ صرف اللہ کی عبادت توحید ہے اور نہ صرف بتوں کی پرستش، شرک! توحید صرف اللہ واحد کی عبادت ہے۔ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور عبادت صرف اللہ واحد کا حق سمجھے، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق و قابل تصور نہ کرے اور شرک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ شجر و حجر، صنم و قبر، شمس و قمر، جن و مملک، ولی و امام، حتیٰ کہ نبی و رسول کی پرستش کرے۔ جب کوئی اللہ کی عبادت کر کے کسی چیز کی بھی عبادت کرے گا تو شرک ہو جائے گا۔ بندہ ہزار نمازیں پڑھے، تہجد میں راتیں گزار دے، لاکھ درود پڑھے، تلاوت قرآن کرے، حاجی ہو، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف، مجاہد اور غازی ہو، مگر بایں ہمہ کسی بزرگ یا ولی کو ساری عمر میں ایک بار مصیبت کے وقت پکار لے یا نذر منت مان لے، بس مشرک ہو گیا۔ اب اس کی نجات کی کوئی صورت نہیں، یہ بالیقین جہنمی ہے، ابدی جہنمی!

ایک مثال! جیسے ایک بد کردار عورت، خاوند کی پوری پوری خدمت کرے، اس کے بال بچوں کی پرورش کرے، اس کے مہمانوں تک کے لیے ناشتہ، کھانا تیار کرے، اس کے گھربار، مال دولت کی حفاظت کرے، اس کے نکاح کا حق پورا ادا کرے، سال بہ سال ایک بچہ جنم کر دے، لیکن اگر ساری عمر میں کسی غیر مرد کے ساتھ صرف ایک بار منہ کالا کر لے تو اب کوئی بھی شریف انسان اسے اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، اب یہ ذلیل، خاوند کے گھر سے نکالی جائے گی، ہمیشہ کے لیے مردود ہوگی۔

عورت کی شرافت اپنے مرد کے حقوق کی ادائیگی ہی کا نام نہیں، بلکہ عورت کی شرافت کا جوہر یہ ہے کہ غیر مرد کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دے۔ شوہر کے حقوق کی ادائیگی اس کی اور اس کے بال بچوں کی خدمت تو بد کردار سے بد کردار عورت بھی کرتی ہے، اچھا حلوہ، زردہ، پلاؤ پکا کر کھلانا اور بال بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال یہ تو ہر گھر والی کرتی ہے، جو بھی نکاح کے بندھن سے بندھ کر آئی ہے وہ خاوند کے حقوق تو ادا کرے گی، گھر کی جھاڑ پھونک، صفائی، ستمرائی کا دھیان رکھے گی، یہ تو عورت ذات کا کوئی کمال نہیں، عورت کا کمال، اس کی شرافت کا کمال تو اس کا بے داغ کردار ہے، یعنی اگر کوئی غیر مرد اس کی طرف میلی نظر سے دیکھے تو اس کی

آنکھیں نکال لے، اگر کسی نامرد کو اپنی عزت و آبرو، عفت و ناموس کا دشمن پائے تو بھوکے شیرنی کی طرح اس کی ٹکا بوٹی کر دے۔

جیسے عورت کی شرافت اور کمال مرد کے حقوق نکاح کی ادائیگی نہیں، بلکہ حقوق زوجیت خاص اپنے مرد کے لیے مخصوص کر دینے کا نام ہے اور کسی حال میں کسی غیر کو اپنی ذات سے تمتع کی اجازت قطعاً نہ دینے کا نام ہے، شریف عورت مر تو سکتی ہے مگر کسی غیر کو اپنی متاع عصمت لوٹنے کی اجازت دینے کا تصور تک نہیں کر سکتی خواہ وہ غیر شوہر کا باپ ہو یا بھائی کوئی بھی کیوں نہ ہو۔

آبے ست آبرو، کہ نہ آید بجوئے باز
از تشنگی بمیرد مریز آبروئے خویش!

اسی طرح توحید اللہ واحد کے حق عبادت کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ حق عبادت کو خاص اپنے خالق و مالک کے لیے مخصوص کر دینے کا نام ہے، اور کسی غیر اللہ کو کسی حال میں بھی عبادت کا مستحق نہ سمجھنے کا نام ہے۔ ایک مرد موجد کٹ تو سکتا ہے، جل تو سکتا ہے مگر کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ خواہ وہ غیر اللہ، جن و ملک ہو یا بشر، ولی ہو یا نبی! کوئی بھی کیوں نہ ہو۔

بہر حال یہ منطق کہ غیر سے مراد صرف بت ہیں، اور بتوں کی عبادت شرک ہے، حضرات انبیاء و اولیاء علیہم السلام تو اللہ کے اپنے ہیں، لہذا ان کی عبادت جائز ہے، یہ کوئی شرک نہیں، اس منطق سے ملتی جلتی ہے کہ غیر سے مراد صرف اغیار ہیں اور کسی کی زوجہ کا اپنے مرد کے دشمنوں سے زن و مرد کے تعلقات رکھنا حرام کاری ہے، رہے اپنے مرد کے خویش و اقارب، دوست، احباب، بھائی برادر! تو وہ تو مرد کے اپنے ہیں، لہذا ان سے خاص نکاح والے تعلقات استوار کرنا جائز ہے، یہ کوئی حرام نہیں۔ (معاذ اللہ)

ظاہر ہے کہ کوئی صاحب عقل و خرد اور اہل غیرت و حمیت اس غلیظ اور گندی منطق کی تصویب و تحسین نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی اس منطق کی بھی تائید و تصدیق نہیں کر سکتا کہ صرف بتوں کی پوجا حرام ہے، اولیاء اللہ اتقیا اور حضرات انبیاء و رسل کی پکار، منت، نذر وغیرہ عبادت جائز ہے۔ الثا سے ایک الحادو بے دینی کا مظاہرہ، ایک ایمان سوز مغالطہ اور ایک بدترین فتنہ قرار دے گا۔

انداز ۳

لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

(اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو)

اللہ علام الغیوب کو قیامت تک پیش آنے والے ان فتنوں کا علم تھا۔ اس لیے رحیم و کریم مولیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت و شفقت فرماتے ہوئے ان فتنوں کا دروازہ اپنے قرآن کریم میں بند کر دیا۔ چنانچہ اس ایمان سوز مغالطہ..... جو دوسروں کو مغالطہ دینے سے زیادہ اپنی حماقت و جہالت اور بیباکی و ناخدا ترسی کا بدترین مظاہرہ ہے..... کا یوں ازالہ فرمایا کہ صرف ”غیرہ“ اور ”غیر اللہ“ کی عبادت سے منع نہیں فرمایا بلکہ اللہ کی عبادت میں کسی بھی شے (شئیًا) کی شرکت کو حرم قرار دیا اور اپنی کتاب پاک میں کئی موقعوں پر صراحت سے اس کی نہی و ممانعت فرمادی۔ ارشاد ہوتا ہے:

۱. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.

(بارہ ۳. سورہ آل عمران، رکوع ۷)

آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب! ایک (ایسی) بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر (مسلم) ہے۔ (وہ) یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنا دے۔

اس ارشاد ربانی سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ توحید جو اہل اسلام اور اہل کتاب یہود و نصاریٰ میں مشترک اور برابر مسلم ہے وہ صرف اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت نیز اس کی ربوبیت میں کسی بھی دوسری ذات کی عدم شرکت ہے۔

۱. فسی کے معنی ہیں چیز۔ ”انجید“ میں ہے: الفسی چیز، جو چیز جانی پہچانی جائے اور اس کی خبر دی جاسکے۔ ”مفردات القرآن“ امام رافعی میں ہے: یہ اسم مشترک ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھی بولا جاتا ہے اور ہائی موجودات بلکہ معدومات کو بھی شے کہہ سکتے ہیں۔ ”لغات القرآن“ میں ہے: لفظ فسی اسم العام ہے، جس طرح اللہ خاص الخاص ہے، یہ جوہر و عرض، قدیم و حادث، بلکہ محال و معدوم تک کے لیے آتا ہے۔

۲. **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.** (پارہ ۵، سورہ نساء، رکوع ۶)
اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔
یعنی صرف اللہ کی عبادت کافی نہیں بلکہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا
اصل توحید ہے۔

۳. **قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.**

(پارہ ۸، سورہ انعام، رکوع ۱۹)

کہہ دیجئے، آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام
فرمایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔

۴۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں:

**وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ
بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ.** (پارہ ۱۲، سورہ یوسف، رکوع ۵)

اور میں نے اپنے باپ دادوں کا دین اختیار کر رکھا ہے، ابراہیم اور اسحاق اور
یعقوب کا! ہم کو کسی طرح روا نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں۔

ملت ابراہیمی اور جمیع حضرات انبیاء علیہم السلام کا دین یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں
کسی کو بھی شریک نہ کریں۔

۵۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتلاتے ہوئے پہلا حکم یہی دیا:

أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا (پارہ ۱۷، حج، رکوع ۳) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا

۶۔ اللہ رب العزت اہل ایمان، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خلافت کا وعدہ کرتے ہوئے
فرماتے ہیں کہ اقتدار و حکومت، تمکن دین اور امن و اطمینان کے دور و عہد میں وہ:

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. (سورہ نور، رکوع ۷)

میری عبادت کریں گے (اس شان سے کہ عبادت میں) کسی کو میرا شریک نہ کریں گے
يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ

شَيْئًا.... (پارہ ۲۸، آخر الامتحنہ)

اے نبی! جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس آئیں، اس بات پر آپ سے بیعت
کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی۔

خلاصہ: یہ سات مقامات پر شرک کی نہی ونہی کے ساتھ شَبِيْهًا اور هَبِيْهًا کا لفظ فرمایا گیا ہے، کیا اس کے بعد بھی اس بات کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی چیز کا حصہ ہو؟ اور کسی برگزیدہ نبی یا ولی کو خدا کے ساتھ شریک کیا جائے؟

احادیث نبوی: کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا مالک، مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی۔

نسائی، ابن ماجہ، طبرانی اور حاکم وغیرہ کی صحیح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک کی نہی و

۱۔ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ علم حدیث کے بڑے جلیل القدر امام ہیں۔ آپ کی تالیف صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد اصح الکتب مانی گئی ہے۔ پیدائش ۱۹۴ھ اور وفات ۲۵۶ھ ہے۔

۲۔ امام مسلم رحمہ اللہ فن حدیث کے عظیم المرتبت امام ہیں۔ صحیح بخاری کے بعد آپ کی صحیح مسلم کو عظیم و صحیح حلیم کیا گیا ہے۔ سن پیدائش ۲۰۴ھ اور وفات ۲۶۱ھ ہے۔

۳۔ امام مالک رحمہ اللہ فقہ و حدیث میں امام الحجاز بلکہ امام الناس ہیں۔ آپ کی تالیف موطا حدیث کی تمام کتب میں اسبق و اقدم ہے اور علم حدیث میں بڑی معتبر، صحیح اور شہرہ آفاق کتاب ہے۔ ۹۵ھ سن پیدائش اور ۱۷۹ھ سن وفات ہے۔

۴۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ (متوفی ۲۴۱ھ) بھی فقہ و حدیث کے بڑے جلیل و عظیم امام ہیں۔ امام شافعی آپ کے شیوخ میں اور امام بخاری امام مسلم، ابوداؤد، ترمذی وغیرہم آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں۔ مسند احمد آپ کی بڑی معروف کتاب ہے۔

۵۔ ابوداؤد رحمہ اللہ (متوفی ۲۶۵ھ) حدیث کے بڑے معروف و جلیل القدر امام ہیں۔ آپ کی تالیف سنن ابی داؤد حدیث کی بڑی مشہور و متداول کتاب ہے۔

۶۔ ابویسٰیٰ ترمذی رحمہ اللہ (متوفی ۲۷۹ھ) حدیث کے بڑے مشہور و معروف امام ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم کے شاگرد ہیں۔ جامع ترمذی آپ کی مشہور و مقبول اور مفید کتاب ہے۔

۷۔ احمد بن شعیب نسائی حدیث کے عالی قدر امام ہیں۔ امام طحاوی و طبرانی وغیرہم کے شیخ ہیں۔ سنن نسائی آپ کی مشہور تالیف ہے۔ ۳۰۳ھ میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔

۸۔ ابن ماجہ (متوفی ۲۶۳ھ) آپ کی تالیف سنن ابن ماجہ صحاح ستہ میں شمار ہوتی ہے۔

صحاح ستہ، یعنی حدیث کی چھ صحیح کتابیں: بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔

۹۔ طبرانی رحمہ اللہ امام نسائی کے تلامذہ میں سے ہیں۔ آپ کی حدیث میں کئی تالیفات ہیں، جن میں سے تین بجم بڑے مشہور ہیں۔ ۳۲۰ھ میں وفات پائی۔

۱۰۔ حاکم امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ المعروف بہ حاکم (متوفی ۳۰۹ھ) حدیث کے شہرہ آفاق امام ہیں۔ مستدرک حاکم فن حدیث میں آپ کی عظیم کتاب ہے۔ علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک کے نام سے اس کی تلخیص کی ہے۔

ممانعت کے ساتھ شَيْئًا کا لفظ ملاحظہ ہو:

۱۔ بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اہل نار سے فرمائیں گے،.... جب تو آدم کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے یہ عہد لیا تھا۔ اَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْئًا. کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا مگر تو نے انکار کیا اور (دنیا) میں میرے ساتھ شرک کیا۔ یعنی یوم الاست میں میں نے اپنی ہی الوہیت و ربوبیت کا عہد و میثاق لیا تھا، جس کا بندوں نے خلاف کیا، شرک میں مبتلا ہو کر نقض عہد کیا۔

۲۔ بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. ۱ جو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو وہ جنت میں داخل ہوا۔

۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوتِ توحید لے کر طائف پہنچے، کسی نے بھی توحید کو قبول نہ کیا، انہیں سب باری سے حضرت کو لہو لہبان کر دیا۔

حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ملک الجبال میرے پاس آیا۔ مجھے سلام کیا پھر کہا: حضرت اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں بلکہ مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا۔

مَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (متفق علیہ) ۲

جو خدائے واحد کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

۴۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ متفق علیہ ("مشکوٰۃ المصابیح" باب صفۃ النار وادہا) "مشکوٰۃ المصابیح" صحاح ستہ، مؤطا مالک، مسند احمد، داری، بیہقی وغیرہا کی منتخب احادیث کا مجموعہ ہے، جسے شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب رحمہ اللہ نے ۳۷۳ھ میں مرتب کیا۔
۲۔ صحیح بخاری، کتاب العلم۔ ۳۔ وہ فرشتہ جسے رب العزت نے پہاڑوں پر مقرر فرمایا ہے۔ ۴۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب المبعث ویدء الوحی۔

تَعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمِ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلِ
الرَّحِمَ ۗ

اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر اور نماز پڑھ اور زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔

۵۔ حضرت عبداللہ اشکری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ قیس کے ابن المحقق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: نارِ جہنم سے مجھے کون سا عمل بچا سکتا ہے اور جنت میں کون سا عمل داخل کر سکتا ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرچہ تو نے سوال بہت مختصر کیا ہے مگر بات بڑی عظیم و طویل دریافت کی ہے۔ اچھا تو اب مجھ سے سمجھ لے:

أَعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا....

(رواہ احمد) ۲

۶۔ حضرت ابوصالح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تم سے تین باتوں پر خوش ہوتا ہے اور تین باتوں پر ناراض ہوتا ہے۔

يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.... ۳

تم سے اس پر خوش ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

(”ترجمان السنۃ“ جلد ۲، ص ۱۹۸)

۷۔ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر عورتوں کو بیعت فرمایا کرتے تھے کہ:

لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا.

تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے سوائے آپ کی مملوکہ عورتوں (باندیوں) کے کسی

۱۔ صحیح بخاری باب وجوب الزکوٰۃ۔ ۲۔ ”ترجمان السنۃ“ جلد اول حدیث ۲۳۵۔

”ترجمان السنۃ“ حضرت مولانا محمد بدر عالم میرٹھی ثم مہاجر مدنی کی عظیم تالیف ہے۔ صحاح ستہ، مسند احمد، حاکم، بیہقی، طبرانی، بزار وغیرہ کی ہزاروں منتخب احادیث کا عظیم الشان ذخیرہ ہے۔

۳۔ ”موطأ امام مالک“ کتاب الجامع باب ما جاء فی اضلاع المال۔

عورت کو مس نہیں کیا۔ (صحیح بخاری) ۱

اللہ اکبر! جب نبی معصوم امام المرسلین نے بیعت کے وقت بھی کسی اجنبی عورت کو اپنا مقدس ہاتھ نہیں لگایا تو پھر کسی اور کو یہ حق کہاں حاصل ہے؟ آہ! آج شرک اور بدعتی پیشہ ور شہوت پرست ”پیران“ عصر ”تقدس“ کے پردے میں شکار کھیلتے ہیں اور غیر محرم مستورات و خواتین کو نہ صرف ہاتھ سے مس کرتے ہیں بلکہ اس پر مستزاد.....

۸۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قیصر روم ہرقل نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ سے جبکہ آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق پوچھا تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ فرماتے ہیں:

أَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا... ۲

ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو۔

۹۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا ہوئیں، پانچ نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات ۳ اور

غُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا... (رواہ مسلم) ۳

آپ کی امت میں سے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا اس کی مغفرت! ۳

۱۰۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تیرے گناہ

معاف کرتا رہوں گا اگرچہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے طلب بخشش کرتا

رہے میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پروا نہیں، اور اے ابن آدم اگر تو زمین کو گناہوں

سے بھر کر (قیامت میں) میرے ساتھ ملاقات کرے پھر (شرط یہ ہے کہ) لَا تُشْرِكْ

بِئِي شَيْئًا... تو میرے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرائے، تو مجھے کوئی پروا نہیں۔ میں اتنی ہی

وسیع مغفرت کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام احمد اور

۱۔ ”ترجمان السنۃ“ جلد اول حدیث نمبر ۲۲۶۔

۲۔ صحیح بخاری، باب کیف کان بدء الوحی۔

۳۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ باب فی المعراج۔

دارمی نے بھی روایت کیا ہے مگر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے!^۱
 آدمی توحید پر مرے، شرک کر کے نہ مرے، خواہ اس کے گناہ اور خطائیں جتنی بھی زیادہ
 کیوں نہ ہوں، مگر اللہ کی رحمت اور مغفرت اس سے بھی زیادہ اور وسیع ہے، اللہ اس کی خطائیں
 معاف فرمادے گا۔

۱۱۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت
 فرمائی، فرمایا:

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ (رواہ احمد)^۲
 اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا
 جائے....

۱۲۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت
 فرمائی:

أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِعَتْ وَحُرِّقْتَ^۳
 کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے
 یا جلا دیا جائے....

۱۳۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، دو شنبہ اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے
 کھولے جاتے ہیں، ہر مسلمان بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ لا یشرک باللہ شیئاً.
 (رواہ مسلم)^۴

۱۴۔ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے (حضرت) یحییٰ کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ ان پر خود عمل کریں
 اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں۔ أُولَئِكَ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.
 (رواہ الترمذی)^۵

عبرت و انتباہ: یہ چودہ حدیثیں ہیں، علاوہ ازیں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ،
 حضرت ابو ذر غفاری، مسند احمد میں اُمّ المؤمنین حضرت اُمّ سلمہ اور
 مستدرک حاکم میں حضرت سلمہ بن قیس، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ربیعہ بن عباد، حضرت

۱۔ "مکتوٰۃ الصالح" باب الاستغفار۔ ۲ ایضاً۔ ۳ ابن ماجہ باب العبر علی البلاء۔

۴۔ "مکتوٰۃ" باب ما نھی عنہ من التہاجر۔ ۵۔ "ترجمان النبی" حدیث نمبر ۶۰۳۔

جریر بن عبداللہ اور حضرت معاذ بن جبلؓ اور شرح السنۃ میں حضرت ابن عباسؓ، ابن ماجہ میں حضرت اسماء بنت عمیس اور بیہقی میں اس مضمون کی سترہ احادیث مروی ہیں، اور اس کتاب کے دوسرے باب (تمہید) میں تیرہ احادیث پاک ایسی گزر چکی ہیں، گویا نکل چوالیس احادیث ایسی پیش کی جا چکی ہیں جن میں شرک کے ذکر کے ساتھ شینا کا لفظ مذکور ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں سات مقامات پر شرک کی نفی و نفی کے ساتھ شینا اور شینی کا لفظ موجود ہے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتاب و سنت، قرآن و حدیث کا یہ عام اسلوب ہے کہ جب اور جہاں بھی شرک مذکور ہوگا، شینا کا لفظ ساتھ ہوگا۔ خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ سنت و معمول ہے کہ شرک کے باب میں شینا کا لفظ ضرور بیان فرمائیں گے۔

کیا اس انداز و اسلوب کی اکاون نصوص صریح کتاب و سنت کے بعد بھی اس مغالطہ و فریب کاری کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ خدا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ و اولیاء کی عبادت جائز ہے یہ شرک نہیں؟

انداز

لَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

(میں اس (خدا) کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا)

دیکھئے! ایک اور انداز سے اسی حقیقت واحدہ کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ شینا کی جگہ اب أَحَدًا کا لفظ فرمایا گیا ہے۔

۱۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.

(پارہ ۱۶۔ خاتمہ سورہ کہف)

پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

۲۔ قرآن کریم سن کر جن ایمان لے آئے اور قرآنی تعلیمات کے نتیجے میں اعلان کیا:

وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا.

(پارہ ۲۹۔ ابتدا سورہ جن)

اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔

۳۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.

(سورہ جن رکوع اول)

اور جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں سو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔

۴۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. (جن)
آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

۵۔ ایک مسلمان موحدا اپنے کافر ملاقاتی سے کہتا ہے:

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. (پارہ ۱۵۔ سورہ کہف، رکوع ۵)
لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔

۶۔ اپنے باغ کی بربادی پر وہ کافر ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا:

يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. (کہف، رکوع ۵)
اے کاش! میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔

کتاب اللہ کی چھ آیات میں شرک کی نہی ونہی کے ساتھ أَحَدًا کا لفظ موجود ہے۔
خلاصہ: جس کے معنی ہیں ایک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شرکت کا حق نہیں۔

کیا سینا کے بعد أَحَدًا کی تصریح و تاکید اور تکرار کے بعد بھی کسی برگزیدہ ہستی کا خدا کی عبادت میں ساجھا اور حصہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں!

انداز ۵

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

(معبود تمہارا بس ایک معبود ہے)

اب دیکھئے ایک اور انداز سے صرف ایک اللہ رب العزت کی معبودیت بیان فرمائی جاتی ہے۔ پورے قرآن میں متعدد مقامات پر وحدت الوہیت کے ذکر و ارشاد سے یہ حقیقت واضح اور آشکارا ہو جاتی ہے کہ توحید الہ واحد کی عبادت کا نام ہے، اور الہ واحد ہی الہ و معبود ہے، اس سلسلہ میں چند آیات ملاحظہ ہوں:

۱۔ وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (پارہ ۲۔ بقرہ رکوع ۱۹) اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

۲۔ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (پارہ ۶۔ نساء، رکوع ۲۳) سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے۔

۳۔ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (پارہ ۶ سورہ مائدہ۔ رکوع ۱۰) اور ایک معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

۴۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (پارہ ۷۔ انعام۔ رکوع ۲) آپ (لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ بس وہ بس ایک ہی معبود ہے

۵۔ یہود و نصاریٰ کو بھی الہ واحد کی عبادت کا حکم تھا۔

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا۔ (۱۰۔ توبہ، رکوع ۵)

اور ان کو صرف یہ حکم کیا گیا کہ فقط ایک معبود کی عبادت کریں

۶۔ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (پارہ ۱۳۔ آخر سورہ ابراہیم)

۷۔ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (۱۳۔ نحل۔ رکوع ۷)

۸۔ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (نحل، رکوع ۳)

۹۔ إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (پارہ ۱۶، کہف آخری رکوع)

۱۰۔ پارہ ۱۷۔ آخر انبیاء و پارہ ۲۲، حم السجدہ میں یہی الفاظ مبارک کہ ارشاد ہیں۔

۱۲۔ فَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ۔ (۱۷۔ حج، رکوع ۵)

۱۳۔ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ۔ (۲۳۔ آغاز الصافات)

۱۴۔ اِلٰہِ اِيْمَانِ اِلٰہِ كِتَابِ سے کہہ دیں:

وَاللَّهُ وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ۔ (۲۱۔ عنکبوت، رکوع ۵)

۱۵۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدی رفیقوں سے فرمایا:

ءَارِبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ (۱۳۔ یوسف، ع ۵)

کیا متفرق معبود اچھے یا ایک اللہ اچھا ہے جو غالب ہے۔

۱۶۔ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ (۲۳۔ ص۔ ع ۵)

(۲۳۔ زمر، رکوع اڈل)

۱۷۔ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

(۲۴۔ مؤمن، ع ۲)

۱۸۔ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

خلاصہ: یہ قرآن کریم میں ۱۸ مقامات پر الہ اور اللہ کے ساتھ واحد کا لفظ موجود ہے، نیز اس کتاب کے پانچویں باب ”توحید کی حقیقت“ میں ۶ مقامات پر اللہ کے ساتھ وحدہ اور جگر الہا کے ساتھ واحد مذکور ہے۔

یہ کُل ۲۶ مقامات پر الہ اور اللہ کے ساتھ واحد، وحدہ اور احداً کا لفظ آنے کے بعد بھی ایک اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ قطعاً نہیں!

انداز ۱

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ!

(اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارا!)

اب ایک اور انداز سے عبادت کو ذات پاک رب العزت ہی کے لیے خاص قرار دیا جا رہا ہے، اور دوسرے کسی معبود کی بحدت و تائید کی جارہی ہے۔

۱۔ اَنتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ قُلْ لَا أَشْهَدُ. (۷۔ انعام، رکوع ۲)
کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے
میں تو (یہ) گواہی نہیں دیتا۔

۲۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا ۝

(پارہ ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، رکوع ۲)

اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بنا ورنہ تو بد حال، بے یار و مددگار ہو کر رہ جائے گا۔

۳۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا ۝

(بنی اسرائیل، رکوع ۳)

اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود مت بنا ورنہ تو ملامت کیا ہوا، راندہ ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

۴۔ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. (پارہ ۱۸، رکوع آخر، مؤمنون)

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے جبکہ اس کے معبود ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں سواں اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا بالیقین کافروں کو فلاح نہ ہوگی۔

۵۔ عباد الرحمن (اللہ کے مومن مسلم بندوں) کی ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (پارہ ۱۹، فرقان آخری رکوع)

اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے۔

۶۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (پارہ ۱۹۔ الشعراء آخری رکوع)

سو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کرنا، پس تو معذبین میں سے ہو جائے گا

۷۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (۲۰۔ آخر سورہ قصص)

۸۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (پارہ ۱۴۔ آخر سورہ الحج)

جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود قرار دیتے ہیں، پس وہ عنقریب جان لیں گے۔

۹۔ بد بخت جہنمی کافر کے متعلق فرمایا ہے:

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ

(پارہ ۲۶، سورہ ق، رکوع ۲)

جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود بنایا ہو، سو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔

۱۰۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (۲۷۔ الذاریات، آخری رکوع)

خلاصہ: دس آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنانے سے بتا کر

شدید منع فرمایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت پر

عذاب جہنم کی وعید شدید فرمائی گئی ہے۔ کیا اس کے بعد بھی اللہ واحد کے ساتھ کسی دوسری عظیم

شخصیت کو الٰہ و معبود بنانے کی کوئی وجہ جواز باقی رہ جاتی ہے؟

شرک کی حقیقت: ان تمام آیات کریمہ میں ”مع اللہ“ کا لفظ موجود ہے جس کے معنی

اللہ کے ساتھ ہیں یعنی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنانے پر عذاب

آخرت جہنم کی وعید ہے۔

جس سے یہ حقیقت ظاہر ہے کہ شرک الٰہ آخر یعنی دوسرے کسی معبود ہی کی عبادت کا نام

نہیں کہ بندہ اپنے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرے اور اسے مشرک کہا جائے، بلکہ شرک یہ

ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی بھی عبادت کرے اور اپنے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کسی معبود کی بھی عبادت کرے۔

اس سے نفس کے اس فریب کا بھی ازالہ ہو گیا کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کو پکارنے ان کی فتیں ماننے سے مشرک کیسے بن گئے؟ ان آیات قرآنی نے اس فریب کا پردہ چاک کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنے کا نام شرک ہے اور مشرک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کرتا ہے اور اسی مع اللہ الہ اخر بنانے سے روکا گیا ہے۔

چنانچہ مفسر قرآن جبر امت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

الْمُشْرِكُ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا غَيْرَهُ ۖ

یعنی مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کی عبادت کرے۔

صرف شرک کے لفظ پر غور کر لیجئے!

تم اس قدر قریب کہ دل ہی میں مل گئے

میں جا رہا تھا دور کا سماں کیے ہوئے

قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرنے اور لفظ مع اللہ کی حقیقت سمجھنے کے بعد شرک کی جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ صرف لفظ شرک سے بھی سمجھ میں آسکتی ہے بشرطیکہ انسان کا فکر صحیح و سلیم ہو، اس کی مت نہ ماری جائے۔

لفظ شرک کے معنی ہیں شراکت، ساجھا، حصہ داری، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کو مشرک کہا جاتا ہے۔ اب جب تک کسی چیز میں فریقین کا ساجھا نہ ہو، شراکت اور حصہ نہ ہو، وہ باہم شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کسی جائداد میں میرا حصہ نہیں تو میں اس جائداد میں کسی کا شریک کیسے ہو سکتا ہوں، اور اگر میرے مکان یا میری دکان میں کوئی دوسرا حصے دار نہیں تو وہ میرا شریک کیسے ہوگا؟

تو شرک و شراکت کے لیے حصے داری ضروری ہے۔ اب اگر مشرک عبادت میں اللہ کا حصہ نہیں دیتا، ساری عبادت غیر اللہ کی کرتا ہے تو اس کا یہ فعل شرک کیسے ہوگا؟ اور وہ مشرک

۱۔ صحیح بخاری، کتاب تفسیر القرآن، سورہ رعد۔

کیونکر بنے گا؟ لفظ شرک کا تقاضا اور معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کرے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت بھی کرے، تب یہ عبادت میں شرک ہوگا اور اس کا مرتکب جمعی تو شرک بنے گا۔

ایک اور باریک نکتہ: پھر ایک اور لطیف و باریک نکتہ ملاحظہ ہو کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی شرک کا ذکر ہے، شرک باللہ مذکور ہے۔ مثلاً:

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ وَغَيْرَهَا.

اس انداز و اسلوب ارشاد و بیان سے اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ شرک بنیادی طور پر اول ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا ہے بعدہ کبھی کسی غیر اللہ کی عبادت کر کے اسے اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو نہ صرف مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے بلکہ وہ مستقلاً ہمیشہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے ہاں کبھی کسی دوسرے کی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح وہ شرک کا ارتکاب کر کے شرک کہلائے۔ قرآن و حدیث میں اس انداز و اسلوب کے برعکس آپ کہیں دوسرا انداز نہیں پائیں گے، جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ اول اللہ مستقلاً تو غیروں کی عبادت کرتے تھے، پھر کبھی خدا کی عبادت بھی کرتے تھے۔ نہ! ہرگز ایسا اسلوب بیان آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ یہ نکتہ اہل دانش و ارباب بصیرت کے لیے محل فکر و تدبر ہے۔

انداز کے

ءِ اِلٰهٍ مَّعَ اللّٰهِ؟

(کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟)

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاۗءَ الْاَرْضِ
ءِ اِلٰهٍ مَّعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَا تَذَكَّرُوْنَ. (بارہ ۲۰. سورہ نحل. رکوع ۵)

آیا وہ کون ہے جو بے قرار آدمی کی دعا قبول کرتا ہے، جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔

اس ایک ہی رکوع میں یہ پاک کلمہ ءِ اِلٰهٍ مَّعَ اللّٰهِ پانچ بار آیا ہے، کیا اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کا امکان ہے؟ ہرگز نہیں!

انداز

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

(سواللہ کی عبادت کر، عبادت اسی کے لیے خالص کر کے!)

قرآن کریم میں متعدد بار اللہ رب العزت نے اس انداز سے عبادت کو اپنے لیے خاص فرمایا ہے۔ مثلاً: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے:

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. (پارہ ۲۳۔ ابتداء سورہ زمر)

سواللہ کی عبادت کر عبادت اسی کے لیے خالص کر کے، خبردار! عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔

معلوم ہوا کہ مطلق عبادت نہ مطلوب ہے نہ مقبول۔ مطلوب و مقبول اللہ کی وہ عبادت ہے جو خالص اللہ ہی کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت کا اس میں شائبہ بھی نہ ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی خالص اللہ عبادت کا امر و حکم ہے اور آپ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ
الْمُسْلِمِينَ ۖ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ قُلِ
اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۖ فَاَعْبُدُوهُ مَا هَيْبَتُمْ مِنْ دُونِهِ.

(پارہ ۲۳، زمر، رکوع ۲)

آپ کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے مسلمان۔ آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے اگر (بفرض حال) میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کرے، سو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے اول فرمانبردار بندے ہیں۔ آپ کو اللہ ہی کی خالص عبادت کا فرمان ہوا اور آپ کی عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن عذاب الہی تیار ہے۔

۵. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

(پارہ ۲۳، المؤمن، رکوع ۲)

پس تم اللہ کو پکارو، عبادت اسی کے لیے خالص کر کے، گو کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔

کفار و مشرکین اللہ کی عبادت سے ناخوش و ناراض نہیں ہوتے، اللہ کی عبادت تو وہ خود کرتے ہیں، مگر جب عبادت اللہ ہی کے لیے خاص کر دی جائے اور سوائے اللہ کے سب سے عبادت کا حق چھین لیا جائے تو یہ ان کے لیے ناگوار ہے اور اس پر وہ ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔

۶. هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

(پارہ ۲۳، المؤمن، رکوع ۷)

وہ (ہمیشہ سے ہمیشہ تک) زندہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس تم عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔

۷. قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالنَّقِصِطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

(۸، اعراف، رکوع ۳)

آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم یا ہے اور نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو۔ اور اس کو (اس طور پر) پکارو کہ عبادت خالص اس کے لیے ہو۔

۸۔ اہل کتاب کو بھی خالص اللہ کی عبادت کا حکم تھا، ارشاد فرمایا:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

(پارہ ۳۰، سورۃ البینہ)

اور ان کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، (اس طور پر کہ) عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں۔

۹۔ مشرکین مکہ بھی مشکلات و مصائب میں خاص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

(سورہ ہکیمت، آخری رکوع)

جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں عبادت کو اسی کے لیے خاص کر کے۔

۱۰۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلْمِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.

(پارہ ۲۱، لقمان، ۳۷)

اور جب ان لوگوں کو موجیں سائبانوں کی طرح گھیر لیتی ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں
عبادت کو اسی کے لیے خاص کر کے۔

۱۱۔ اسی نوعیت کے مضمون کے بعد ہے:

دَعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ. (پارہ ۱۱، یونس، ۳۷)

خلاصہ: گیارہ مقامات پر عبادت کو ذات پاک اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنے کا ارشاد ہے۔ کفار عرب، مشرکین مکہ بھی عبادت خالص اللہ تعالیٰ ہی کی کرتے اور ابتلاء و مصائب میں خاص اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے۔ اس کے بعد بھلا کسی غیر اللہ کی عبادت کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ اور وہ بھی مدعیان اسلام و توحید کے لیے!
إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

انداز ۹

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ!

(اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں)

اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں عبادت کو کئی انداز و اسلوب بیان سے اپنے لیے خاص فرمایا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کتنا عجیب انداز ہے۔ پہلے ہر معبود کی نفی کی گئی ہے پھر اللہ رب العزت کی معبودیت کا اثبات فرمایا گیا ہے۔ اس انداز کے بعد اگر انسان کی مت نہ ماری جائے اور اللہ نے اس کی قسمت میں عذاب جہنم نہ لکھ دیا ہو تو اس حقیقت کے وضوح میں ذرہ بھر شبہ نہیں رہ جاتا کہ معبود حقیقی صرف اللہ ہے..... اور اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کا حق حاصل نہیں۔

یہ انداز و اسلوب ایسا مؤثر و دل نشین ہے کہ اسے کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اور کلمہ شہادت اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ کا جزو اول قرار دیا گیا ہے۔ جب تک کوئی شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار نہ کرے اور اے کی شہادت نہ دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔

مجرمین، کفار و مشرکین کے ذکر میں فرمایا:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. (پ ۲۳ الضفت)

(دکوع ۲)

وہ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر کرتے تھے۔

انسان جب تک تیرے دل سے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نہ پڑھ لے، مسلمان نہیں ہو سکتا اور کافر و مشرک یہ کلمہ پاک سن نہیں سکتا۔ سوائے اللہ واحد کے دوسرے تمام معبودوں کی کلیۃً نفی وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اسی لیے وہ تکبر کرتا ہے۔

۲۔ حضرت علیؓ سے خطاب فرمایا جاتا ہے:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (پ ۲۵۔ سورہ مجید)

آپ اس کا یقین رکھئے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

۳. وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ. (آل عمران: دکوع ۶)

اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

خلاصہ: تین آیات کزیمہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے تمام معبودوں کی نفی کر کے غیر اللہ کی الوہیت و معبودیت کا پتا ہی کاٹ دیا گیا ہے۔

احادیث نبوی: اب یہ انداز احادیث پاک میں ملاحظہ ہو:

چونکہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دین اسلام کی اساس و بنیاد ہے، کوئی شخص یہ کلمہ توحید پڑھے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے ارشادات نبویہ میں یہ تکرار اس کا ذکر موجود ہے اور اس کی عظیم و جلیل قدر و شان بیان فرمائی گئی ہے۔

۱۔ افضل شعبۂ ایمان: بروایت حضرت ابو ہریرہؓ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

ایمان کی ستر سے چند اوپر شاخیں ہیں، ان سب میں افضل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے اور اونٹی راستے سے ایذا دینے والی چیز (مثلاً کاشا، پتھر وغیرہ) پھیل دینا ہے۔

(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

اس ارشاد نبوی میں ایمان کے جمیع شعبوں میں سے افضل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو فرمایا گیا ہے تو دوسرے

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب الایمان۔

ارشادِ گرامی میں اسے ”افضل الذکر“ قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ افضل الذکر: بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا:

افضل الذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سب سے بہتر ذکر (الہی) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے۔ (جلداول صفحہ ۴۹۸)

اب اس کلمہ مبارکہ کا اجر و ثواب ملاحظہ ہو،
۳۔ اجرِ عظیم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ زمین آسمان کے درمیان (خلاء) کو بھر دیں گے۔
اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس قدر ثوابِ عظیم و کثیر ان کلماتِ طیبہ پر عطا ہوگا کہ
ما بین السماء والارض ساری فضا اس سے بھر جائے گی۔
اجر و ثواب اور وزن و جزا سے متعلق دوسرا ارشاد ملاحظہ ہو:

۴۔ بروایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: صلی اللہ علیہ وسلم (حضرت) موسیٰ علیہ السلام نے
عرض کیا: اے میرے پروردگار مجھے کوئی چیز تعلیم فرما دیجئے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا
کرو، اور تجھے پکارا کروں۔ ارشاد ہوا: موسیٰ! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا کرو۔ عرض کیا: پروردگار!
یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو خاص میرے لیے
فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے موسیٰ! اگر سات آسمان اور جو کچھ ان میں ہے
اور سات زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دوسرے پلڑے میں رکھا
جائے تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا وزن زیادہ ہوگا۔ (رواہ فی شرح السنۃ) ۲

۵۔ دفع کرب و درد: پاک، دعاء مسنون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرب (دکھ، درد،

رنج و غم) کے وقت یہ کہا کرتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا

۱۔ ”مکثوۃ“ باب ثواب التسبیح والتحمید والتعلیل والتکبیر۔

۲۔ ”مکثوۃ الصالح“ کتاب المبارکۃ۔

۳۔ ”مکثوۃ الصالح“ باب ثواب التسبیح والتحمید والتعلیل والتکبیر۔

اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۱
 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بزرگ اور بڑے حوصلے والے ہیں۔ اللہ کے سوا
 کوئی معبود نہیں جو عرشِ عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں
 کے مالک، زمین کے مالک اور عرشِ کریم کے مالک ہیں۔

۶۔ جنت ملتی ہے: بروایت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: صلی اللہ علیہ وسلم

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ۲
 جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ جنت میں داخل ہوا، اور اس کے لیے جنت واجب ہوگئی
 جہاں دنیوی درد و غم اور کرب و مصیبت کے دفع و ازالہ کے لیے یہ مفید و مسنون ہے،
 وہاں اخروی فوز و فلاح بھی اسی کلمہ طیبہ پر منحصر ہے۔

۷۔ ارشاد فرمایا: صلی اللہ علیہ وسلم

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ ۳

(متفق علیہ) ۳

جس بندے نے بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا، پھر اسی پر وفات پائی، وہ جنت میں داخل
 ہوا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

صدقِ دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا اور اسی پر ثابت قدم رہا، اللہ نے استقامت بخشی، چنانچہ
 اسی علم و یقین پر جان نکلی، تو بفضلہ تعالیٰ جنت نصیب ہوگی۔

۸۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۴ (رواہ مسلم)

جو اس علم و یقین پر مرا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوا۔ (صحیح مسلم)
 مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے۔ (جلد اول ص ۷۲)

آخری کلام کلمہ ہو! توحید کے علم و ایمان کے ساتھ اگر موت کے وقت زبان پر کلمہ
 توحید جاری ہو تو زہے نصیب!

۱ "مشکوٰۃ" باب الدعوات فی الاوقات۔ ۲ مستدرک حاکم جلد ۳ ص ۲۵۱۔

۳ "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب الایمان الفصل الاول۔ ۴ "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب الایمان۔

۹۔ بروایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواہ ابوداؤد)

جس کا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ (ابوداؤد)

مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ (جلد اول، ص ۵۰۰، ۳۵۱)

تلقین: چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاں بلب، قریب المرگ مسلمانوں کے قریب بیٹھ کر انہیں اسی کلمہ توحید کی تلقین کا حکم فرمایا ہے۔ ابوداؤد میں حضرت ابوسعید

خدری رضی اللہ عنہ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اور صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

۱۰۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَقِنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواہ مسلم)

اپنے قریب الموت اشخاص کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کرو۔

جانکنی کا وقت سخت مشکل وقت ہے۔ لہذا امر نہ کریں، کہیں موت کی سختی و سکرات سے انکار نہ کر دے، بلکہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر خود کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورہ کرتے رہیں، حتیٰ کہ وہ خود بخود کلمہ پاک پڑھ لے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے مرنے والے کا آخری کلام لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہو تو خاتمہ بخیر ہے، اب آگے رحمت ہی رحمت ہے، اور جنت میں دخول انشاء اللہ یقینی ہے۔

خدا ہم سب کا خاتمہ کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر فرمائے۔ آمین

جہنم سے نجات: اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو اس کلمہ پاک کی وجہ سے آخر جہنم سے نکالا جائے گا۔

۱۱۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قیامت کے دن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک

طویل روایت مروی ہے، اس کے آخر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

میں کہوں گا مجھے ہر اس شخص کی شفاعت کی اجازت عطا ہو جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ آپ کا کام نہیں۔

وَلَكِنْ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَانِي وَعَظَمَتِي لَا أُخْرِجَنَّ مِنْهَا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(متفق علیہ)

۱۔ مشکوٰۃ، باب ما یقال عند من حضر الموت۔ ۲ ایضاً۔ ۳ ایضاً باب الخوض والشفاعۃ۔

لیکن مجھے اپنی عزت، جلال، بڑائی، اور عظمت کی قسم ہے میں ہر اس شخص کو جہنم سے نکالوں گا جس نے (کلمہ توحید) پڑھا۔

مدارِ شفاعت: شفاعتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار و انحصار بھی کلمہ توحید پر ہے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کلمہ گو بہرہ مند ہوگا، شرط یہ ہے کہ صدقِ دل سے کلمہ پڑھا ہو اور توحید باری تعالیٰ پر دلی یقین ہو۔

۱۲۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

قیامت کے دن میری شفاعت کی وجہ سے سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ.

(رواہ البخاری) جس نے صدقِ دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا ہوگا۔ (صحیح بخاری)

۱۳۔ نیز ارشاد فرمایا: شَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَ لِسَانَهُ قَلْبَهُ.

میری شفاعت اس کے لیے ہوگی جس نے مخلص کے ساتھ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے دل نے اس کی زبان کی اور اس کی زبان نے اس کے دل کی تصدیق کی۔

شفاعت گنہگار کے لیے ہے، کافر و مشرک کے لیے نہیں!

ان ارشادات سے واضح ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حضرت کی امت کے فرد کے لیے ہے، کلمہ گو موحد مسلمان کے لیے ہے، گنہگار کے لیے ہے، کافر و مشرک کے لیے نہیں۔

۱۴۔ بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَاثَةِ مِنْ أُمَّتِي. (رواہ الترمذی و ابوداؤد و رواہ ابن ماجہ عن جابر)

میری شفاعت میری امت کے گنہگاروں کے لیے ہے۔

یہ روایت مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ (جلد اول ص ۶۹)

وہی سرکش و متمرد اور کافر و مشرک عذابِ جہنم میں ہمیشہ منکر کلمہ سزاوارِ جہنم ہے: بتلا و گرفتار رہے گا جس نے اس پاک کلمہ کا انکار کیا ہوگا۔

۱۔ ”مکتوٰۃ المصابیح“ باب الحوض والشفاعة۔ ۲۔ مستدرک حاکم جلد اول ص ۷۰۔ ۳۔ ”مکتوٰۃ“ باب الحوض والشفاعة

۱۵۔ بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الْمَارِدَ الْمُتَمَرِّدَ الَّذِي يَتَمَرَّدُ عَلَى اللَّهِ
وَأَبَى أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
(رواہ ابن ماجہ)

بیشک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دیں گے، سوائے اس متمرد
کے جو اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتا ہے۔

تو کلمہ طیب، افضل شجرہ ایمان، افضل الذکر، خزانہ اجر عظیم، دفعیہ کرب، موجب جنت،
باعث نجاتِ آخرت، کلمہ اخلاص، ذریعہ فوز و فلاح، مقصد بعثتِ نبوی، مدار شفاعتِ رسولِ یہی
کلمہ پاک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ توحید کے بغیر عذابِ جہنم سے نجات اور دخولِ جنت کی
قطعاً کوئی شکل و صورت نہیں۔ اس کا منکر یقیناً معذب اور داخلِ جہنم ہوگا۔

تین آیات کریمہ اور پندرہ احادیث شریفہ، قرآن و حدیث کی کُل اٹھارہ نصوص
خلاصہ: صریحاً لا الہ الا اللہ کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پاک کے ساتھ کسی اور ہستی
کی عبادت کا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں!

اندازِ اداء

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

(اس (اللہ) کے سوا کوئی معبود نہیں)

پارہ ۲ سے لے کر پارہ ۲۹ تک سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، انعام، اعراف، توبہ، ہود، رعد،
طہ، مومنون، قصص، فاطر، زمر، مومن، دخان، حشر، تغابن اور منزل میں مختلف سیاق و سباق میں
اٹھائیس ۲۸ بار لا الہ الا اللہ آئی ہے۔

بعض سورتوں اور بعض رکوع میں دو بلکہ ایک آیت میں دو بار اور سورہ آل عمران
تکرار: میں تین بار یہ کلمہ پاک موجود ہے۔ کیا اس تکرار و تعدد کے بعد بھی تعددِ الہ کی کوئی
صورت باقی رہ جاتی ہے؟ اور اس ذاتِ احد کے علاوہ کسی عظیم سے عظیم ہستی کی عبادت جائز ہو
سکتی ہے؟

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب اسماء اللہ تعالیٰ۔ ۲۔ فہذا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ (الایۃ) (۳۔ آل عمران۔ رکوع ۲۴)

انداز ۱۱

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

(میرے سوا کوئی معبود نہیں)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کے بعد ایک نئے انداز کے ساتھ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فرمایا گیا ہے۔

۱۔ حضرات انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل فرمائی۔

أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۝ (۱۳۔ شروع نحل)

یہ کہ ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس مجھ سے ڈرو۔

۲۔ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۝ (۱۶۔ طہ)

بلاشبہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو۔

۳۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝

(۱۷۔ سورہ انبیاء رکوع ۲)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ

بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو۔

خلاصہ: قرآن کریم میں تین مقامات پر اللہ رب العزت نے پہلے اپنی ذات کے سوا ہر

معبود کی نفی فرمائی، پھر اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اپنے ہر رسول کو یہی حکم دیا۔

کیا اس کے معنی یہی ہیں کہ میرے سوا میرے محبوب و معزز بندوں نبیوں، ولیوں کی

عبادت بھی کرتے رہو۔ معاذ اللہ

انداز ۱۲

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ!

(اے اللہ!) تیرے سوا کوئی معبود نہیں)

حضرت یونس علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا:

۱. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

(۱۷ انبیاء. رکوع ۶)

پس اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں بیشک تصور وار ہوں۔

احادیث نبوی ﷺ کتاب اللہ کے بعد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی کثرت سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کا درود وظیفہ موجود ہے۔

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اُٹھتے تو کہتے تھے:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ... لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

الہی! ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور بغیر آپ کے کوئی معبود نہیں۔

۲۔ دوسری روایت کے بھی آخری الفاظ ہیں:

أَنْتَ الْهَى لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. ۱ آپ میرے معبود ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

۳۔ بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ آبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ. (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

اے اللہ! میں نے تیری اطاعت کی، میں تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اور میں نے تیری طرف رجوع کیا، اور میں تیری مدد سے (دشمنانِ دین سے) لڑتا ہوں۔ اے اللہ! میں تیری عزت کے ذریعے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ تو زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا اور جن و انسان سب مریں گے۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

۱ "مشکوٰۃ المصابیح" باب ما یقول اذا قام من اللیل۔

۲ مستدرک احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مؤطا مالک، ترمذی، ابوداؤد، نسائی ("ترجمان السنۃ" جلد اول حدیث نمبر ۲۹)

۳ "مشکوٰۃ المصابیح" باب الاستعاذہ۔

سید الاستغفار: ۴۔ بروایت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ اَنْ تَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ
وَ اَنَا عَبْدُكَ وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ
فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ.

سید الاستغفار یہ ہے کہ تو کہے، الہی! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ساتھ جو اقرار اور وعدہ کیا ہے اس پر قائم ہوں۔ جہاں تک میری طاقت ہے۔ میں اپنی برائیوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، آپ میرے گناہ بخش دیں۔ سوا تیرے کوئی گناہ بخشنے والا نہیں۔

ارشاد فرمایا جس نے ان کلمات پر یقین رکھتے ہوئے انہیں دن کو کہا اور اس دن مر گیا وہ اہل جنت میں سے ہے اور جس نے ان کلمات پر ایمان رکھتے ہوئے انہیں کہا اور رات کو مر گیا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ (صحیح بخاری باب فضل الاستغفار)

پانچواں کلمہ: یہ کلمات مبارکہ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ... لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ جہاں بارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ہیں، وہاں اسلام کا پانچواں کلمہ بھی ہیں۔

۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کے بعد فرماتے
وَجْهَتْ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ... اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ.

اے اللہ تو بادشاہ ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف تو۔ (صحیح بخاری باب فضل الاستغفار)

۶۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ”جو کسی مجلس میں بیٹھے اور وہاں لایعنی (اور فضول) بات چیت ہو اور وہ وہاں سے کھڑا ہونے سے پہلے کہے: سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ تو اس کے اس

مجلس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔“ (ترمذی و بیہقی) ۱

۷۔ بروایت اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت علیؑ خود بھی جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو کہتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

(رواہ النسائی) ۲

۸۔ بروایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ دکھ اور تکلیف کی دعا ارشاد فرمائی علیؑ

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو أَفَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

(رواہ ابو داؤد) ۳

اے اللہ! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پس تو مجھے ایک لمحہ بھی میرے نفس کے حوالہ نہ فرما اور میرے سارے کام درست فرما دے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں۔

۹۔ بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریمؐ جب رات کو بیدار ہوتے تو فرماتے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي وَ أَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تَزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ الْوَهَّابُ. (رواہ ابو داؤد) ۴

اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ! تو پاک ہے، اور سب تعریف تیرے لیے ہے۔ میں آپ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ! میرا علم زیادہ فرما، میرے دل میں کجی پیدا نہ ہونے دے، بعد اس کے کہ تو نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے اور اپنی بارگاہ سے مجھے رحمت عطا فرما، بیشک تو ہی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔

خلاصہ: آیت کریمہ اور ۱۹ احادیث صحیحہ کل ۱۰ انصوص کتاب و سنت سے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ... کا ورد ثابت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس کلمہ پاک کی برکت سے مچھلی کے

پیٹ سے رہائی ملی۔ حضرت علیؑ کا صبح و شام، سوتے اُٹھتے، تہجد و نوافل سے پہلے ہر گھڑی، ہر

۱۔ ۲ ("مشکوٰۃ المصابیح" باب الدعوات فی الاوقات)

۳ "مشکوٰۃ المصابیح" باب الدعوات۔ ۴ "مشکوٰۃ المصابیح" باب ما یقول اذا قام من اللیل۔

وقت کا یہ وظیفہ ہے۔ کیا اس سے یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب و مقبول بندے بھی معبود والہ ہیں، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کا یہی معنی و مقصد ہے؟

انداز ۱۳

لَا إِلَهَ غَيْرُكَ

(تیرے سوا کوئی معبود نہیں)

- ۱- بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو فرماتے:
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ.... وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (متفق علیہ) ۱
- ۲- حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو (سوکر) اٹھتے تو اللہ اکبر فرماتے، پھر فرماتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ۲

اے اللہ تو پاک ہے اور سب تعریف تیرے لیے ہے اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری بزرگی بلند ہے اور سوا تیرے کوئی معبود نہیں۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

- ۳- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو فرماتے
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن سعید) ۳ بیہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔

تسا: چنانچہ امت بھی تکبیر تحریمہ کے بعد ان کلمات مبارکہ سے نماز شروع کرتی ہے، انہیں ثنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

- ۴- یہی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، اس میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تکبیر (تحریمہ) پڑھتے پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک انگوٹھے مبارک کان مبارک کے برابر ہو جاتے پھر کہتے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ.... (دارقطنی) ۴
- یہ صرف چار احادیث پاک پیش کی گئی ہیں، جن میں لَا إِلَهَ غَيْرُكَ کا اعلان موجود

۱ "مشکوٰۃ المصابیح" باب ما یقول اذا قام من اللیل. ۲ ایضاً۔

۲ "مشکوٰۃ المصابیح" باب ما یقرأ بعد التکبیر. ۳ "زجاجۃ المصابیح" باب ما یقرء بعد التکبیر. ۴ ایضاً۔

ہے۔ ہر نمازی اپنی ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا کے آخر میں یہ اقرار و اعلان کرتا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کیا اس کے بعد بھی کسی غیر اللہ کے معبود ہونے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔

انداز ۱۴

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں)

دین اسلام کا دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت ہے، مسلمان بچے دل سے گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے بندے اور رسول ہیں، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

- ۱۔ ایک کافر اگر مسلمان ہوتا ہے تو کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔
- ۲۔ ایک مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، گو وہ زبان سے توحید الہی کی شہادت نہیں دے سکتا، تاہم اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کے ذریعے چار دفعہ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور چار دفعہ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ پکار پکار کر کہہ دیا جاتا ہے تاکہ ایک مسلمان بچے کے کان میں دنیا کے اندر قدم رکھتے ہی پہلی آواز گونجے تو شہادت توحید و رسالت ہی کی گونجے اور اس کے بالکل صاف لوح دل پر اگر نقش ثبت ہو تو کلمہ شہادت کا۔
- ۳۔ تین چار سال کی عمر میں جب مسلمان بچہ علم و شعور کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھایا جاتا ہے۔
- ۴۔ پانچ سات سال کی عمر میں یہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔
- ۵۔ نماز سے پہلے اذان ہے۔ اذان میں دو دفعہ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ با آواز بلند کہا جاتا ہے۔
- ۶۔ اذان سننے والا ہر مسلمان اجابت کرتا ہے اور مؤذن کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔
- ۷۔ اذان کے بعد تکبیر میں بھی دو دفعہ کلمہ شہادت دہرایا جاتا ہے۔
- ۸۔ پھر نماز ختم نہیں ہوتی جب تک ہر قعدہ میں تشهد کے اندر کلمہ شہادت نہ پڑھا جائے۔

۹۔ جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا، اس کا اہم رکن شہادتِ توحید و رسالت کے کلمے ہیں۔

۱۰۔ مجلسِ نکاح منعقد ہوگی تو خطبہ نکاح میں کلمہ شہادت پڑھا جائے گا۔

۱۱۔ جس طرح مسلمان پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے کلمہ شہادت سنتا ہے اسی طرح ایک

مسلمان مرنے سے پہلے جو کلمہ زبان پر لاتا ہے اور آخری بات جو اس کے منہ سے نکلتی ہے

وہ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہے۔

۱۲۔ دنیا تو دنیا، آخرت کی پہلی منزل قبر میں بھی ایک مسلمان منکر نکیر کے سوال پر جواباً کہتا ہے:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

تو مسلمان زندگی میں قدم قدم پر بلکہ زندگی کے بعد قبر میں بھی کلمہ شہادت پڑھتا سنتا

ہے۔ اس کی پوری حیات، کلمہ شہادت کے محور کے گرد گھومتی ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے اس کلمہ پاک کی اہمیت و عظمت ملاحظہ ہو:

بنائے اسلام: ارشادِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کلمہ شہادت کو بنائے اسلام فرمایا گیا ہے:

۱۔ بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ

رَسُولُهُ.

(متفق علیہ)

پانچ امور پر اسلام کی بنیاد ہے، (اول) اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں اور بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

عین اسلام: دوسرے ارشادِ گرامی میں کلمہ شہادت کو خود اسلام فرمایا گیا ہے:

۲۔ بروایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا:

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. (رواه مسلم)

الایمان باللہ: ایک حدیث میں توحید و رسالت کی شہادت کو ایمان فرمایا گیا ہے۔

۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کو ایمان

۱۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ کتاب الایمان، الفصل الاول۔ ۲ ایضاً۔

باللہ وحدہ کا حکم فرمایا، فرمایا کیا تم جانتے ہو "ایمان باللہ وحدہ" کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ... (متفق علیہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم) ۱

اولین دعوتِ اسلام: اہل اسلام کے لیے اسلام کی اولین دعوت شہادتِ توحید و رسالت ہے۔

۵۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت) معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ فرمایا تو فرمایا: (سب سے پہلے) انہیں اس کی دعوت دینا کہ وہ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (متفق علیہ) ۲
اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

اجر و وزن: اس کلمہ پاک کا اجر و ثواب اور وزن کس درجہ عظیم و کثیر ہے اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے ہوگا۔

۶۔ بروایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کے (گناہوں کے) بہت بڑے ننادے رجسٹر ہوں گے، ہر رجسٹر بقدر وسعت نظر لہا ہوگا، (دوسری طرف) ایک چھوٹا سا پرزہ ہوگا جس میں (لکھا) ہوگا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ایک پلڑے میں وہ رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ چھوٹا سا پرزہ، (جب وزن ہوگا) تو وہ رجسٹر ہلکے ہوں گے اور وہ (کلمہ شہادت والا) پرزہ (ان ننادے لے چوڑے رجسٹروں سے) بھاری ہوگا۔ (ترمذی، ابن ماجہ) ۳ کیا عظمت شان ہے، کلمہ شہادت کی! سبحان اللہ۔

دنیا میں حفاظت: جس اللہ کے بندے نے یہ کلمہ پاک پڑھ لیا اس نے دنیا میں اپنی جان اور اپنے مال کو محفوظ و مأمون کر لیا۔

۷۔ بروایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

۱ "مکتوٰۃ الصالح" کتاب الایمان۔ ۲ "مکتوٰۃ الصالح" کتاب الزکوٰۃ فصل اول۔

۳ "مکتوٰۃ الصالح" باب الحساب و التقاص و المیزان، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے (جلد اول ص ۶)

اللہ....
مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے مقاتلہ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ (بخاری، مسلم)

آبرو کی حفاظت: نکاح آبرو کی حفاظت اور عزت و ناموس کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ نکاح میں خطبہ مسنون ہے۔

۸۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز اور حاجت (نکاح وغیرہ) میں تشہد سکھایا، حاجت (نکاح) کا تشہد ہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ... (اسے احمد ترمذی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی نے روایت کیا)۔

سکون برزخ: جہاں دنیا میں جان و مال اور ناموس و آبرو کی حفاظت کلمہ شہادت سے ہے، وہاں عالم برزخ کا سکون اور قبر کا آرام اسی کلمہ پاک سے ہے۔

۹۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو دو نیلی آنکھوں والے سیاہ فرشتے منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں: تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وہ کہتا ہے: وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اس پر اس کی قبر ستر ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے: (آرام سے) سو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے.. (رواہ الترمذی)۔
تو قیامت تک سکون و آرام اور قبر کی کشادگی و نورانیت اسی کلمہ پاک کی برکت سے ہوگی

القول الثابت: ۱۰۔ بروایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا: جب مسلمان سے قبر میں سوال کیا جائے گا۔

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

وہ گواہی سے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں

۱۔ ایضاً کتاب الایمان الفصل الاول۔ ۲۔ "مکلوۃ الصالح" باب اعلان النکاح۔

۳۔ "مکلوۃ الصالح" باب اثبات عذاب القبر۔

یہی اس کا (وہ) قول ہے (جس کے متعلق قرآن میں آیا ہے) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ... (متفق علیہ)
 تو دنیا و آخرت میں، آخرت کی پہلی منزل قبر میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اسی قول ثابت کلمہ شہادت کی وجہ سے مضبوط و ثابت قدم رکھیں گے۔ ("مشکوٰۃ" باب اثبات عذاب القبر).
کلید جنت: بہشت کی کنجی یہی کلمہ شہادت ہے۔

۱۱۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

(رواہ احمد ("مشکوٰۃ" باب الحوض والنفاذ))

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے۔

(مسند احمد)

اسے ابوداؤد، حاکم اور بزار نے بھی روایت کیا ہے۔ ("ترجمان السنۃ" جلد دوم حدیث نمبر ۲۹۷)

۱۲۔ بروایت حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا:

أَنَّ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواہ احمد والطبرانی)

بلاشبہ جس نے صدق دل سے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسے امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

(("ترجمان السنۃ" جلد اول حدیث ۵۵))

بس شرط یہ ہے تو حید باری تعالیٰ پر قلبی یقین اور صحیح ایمان ہو۔ ایک اور حدیث میں بھی مِنْ قَلْبِهِ کے الفاظ پاک ہیں، یعنی دلی تصدیق و یقین سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہے تو جنت میں داخل ہوگا۔

۱۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مؤذن اذان میں
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ کہے تم میں سے کوئی کہے اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، پھر مؤذن کہے، أَشْهَدُ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ کہے، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر وہ کہے، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا
 رَسُولُ اللَّهِ، یہ کہے، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، پھر مؤذن کہے، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ،
 یہ کہے، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، پھر وہ کہے، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، یہ کہے، لَا حَوْلَ وَلَا
 قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، پھر وہ کہے، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، یہ کہے، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، پھر وہ کہے،
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. یہ دل سے کہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

جنت میں داخل ہوگا۔ رواہ مسلم ("مشکوٰۃ المصابیح" باب فضل الاذان)

جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں: کیا عظمت شان و جلالتِ قدر ہے اس پاک کلمے کی کہ اس کے

پڑھنے والے پر جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے۔

۱۴۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور اچھی طرح کامل وضو کرے، پھر کہے، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اور ایک روایت میں ہے، پھر کہے، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جائیں گے، جس دروازے سے وہ چاہے گا داخل ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے (اس کے ساتھ) یہ زیادہ کیا ہے کہ (کلمہ شہادت کے بعد کہے)

۱۵۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝

الہی! مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاک صاف بندوں سے بنا دے

خلاصہ: حدیث کی ان پندرہ نصوص صریحہ... شہادتِ توحید... کے بعد بھی شرک کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے! اس حقیقت کی قلبی گواہی کہ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کوئی معبود نہیں مگر

اللہ کے معنی یہی ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کے محبوب و مقرب بندے بھی معبود ہیں۔ انا للہ....

انداز ۱۵

وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

(وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں)

دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے اور توحید کی بنیاد غیر اللہ کی نفی پر! اس لیے اسلام کے بنیادی کلمات میں پہلے ماسوی اللہ تمام معبودوں کی نفی کی گئی ہے بعدہ اللہ واحد کی الوہیت و معبودیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ گویا "لا" ہی نے تمام معبودانِ باطل کی ہستی کا طلسم توڑ دیا، اور لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کے بعد کسی دوسرے معبود کے لیے کوئی

۱۔ نسائی میں حضرت ثوبان سے اس مضمون کی روایت ہے (زجاج المصابیح، باب فضائل الوضو)۔

۲۔ "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب الطہارۃ۔

گنجائش نہیں رہی جو اللہ واحد کا شریک ہو سکے۔ پھر بھی مزید..... شدید کے طور پر کلمہ شہادت میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کے ساتھ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تاکہ اللہ کی وحدانیت اور اس کا لاشریک ہونا زیادہ مؤکد و مشدد ہو جائے۔ اس بحث میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں اس جملے کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ میں اس کی کتنی اہمیت و عظمت بیان فرمائی ہے۔ اس کے پڑھنے پر کتنے عظیم و کبیرا اجر و ثواب کی بشارت دی ہے اور خود اپنے وظائف و اذکار میں اس پاک کلمہ کو رات دن، صبح شام کس کثرت سے جگہ دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم!

افضل قول انبیاء و بہترین کلمہ رُسل: یہ جملہ پاک نہ صرف سید الانبیاء امام الرسل کا بہترین قول ہے بلکہ

جمع انبیاء و رسل کا افضل کلام ہے۔ علیہم السلام

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور بہترین بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہی، (یہ ہے): لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ، لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ (رواہ الترمذی)

موظا امام مالک رحمہ اللہ میں بھی یہ حدیث حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مگر وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ تک ہے۔

وظائف نبوی ﷺ چونکہ یہ کلمہ پاک افضل قول رسول و بہترین کلمہ انبیاء ہے، علیہم السلام، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف و اذکار میں بکثرت

موجود ہے۔ صبح و شام، بعد نماز، بوقت حج، بحالت جنگ حضرت سے اس کا اکثر ورد ثابت ہے۔

بعد نماز: ۲۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سلام پھیرتے تو باواز بلند فرماتے:

لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ لَهٗ النِّعْمَةُ وَلَهٗ الْفَضْلُ وَلَهٗ الشَّاءُ الْحَسَنُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ

۱۔ "مشکوٰۃ الصالح" باب الاذکار بعرفہ۔

الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. (رواہ مسلم) ۱

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب قدرت اور قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، فضل و احسان اسی کا ہے اور بہترین تعریف بھی اسی کا حق ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں گو کافروں کو ناگوار گزرے۔ (صحیح مسلم) سنن ابوداؤد میں بھی یہ حدیث مروی ہے۔

معلوم ہوا کہ کفار و مشرکین پر جو چیز گراں اور ناگوار گزرتی ہے وہ خاص اللہ کی عبادت ہے..... ایک اللہ کی عبادت..... اس پر وہ بگڑتے ہیں۔ ورنہ باطل معبودوں کے ساتھ خدا کی عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں۔

صبح و شام کا ورد و وظیفہ: بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم شام کے وقت دعا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم

۳. اَمْسِينَا وَ اَمْسَى الْمَلِكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ..... ہم شام میں داخل ہوئے اور سارا ملک شام میں داخل ہوا، ملک اللہ ہی کا ہے اور حمد بھی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں.... اور جب صبح ہوتی تو یہی کچھ فرماتے۔ (صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی) ۲

جنگ کے موقع پر: حج و عمرہ کے علاوہ غزوات کے موقع پر یا جنگوں سے واپسی پر بھی یہ کلمہ ورد زبان ہوتا، گویا یہ ارشاد آپ کا ہر سفر پر معمول نظر آتا ہے

۴۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لڑائی یا حج یا عمرہ سے واپس تشریف لاتے تو ہر بلندی پر تین بار اللہ اکبر فرماتے پھر فرماتے: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَتِيُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعَدُّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاِحْزَابَ وَحْدَهُ.

(مطلق علیہ صحیح بخاری، صحیح مسلم) ۳

۱ "مشکوٰۃ" باب الذکر بعد الصلوٰۃ۔ ۲ ایضاً باب ما یقول عند الصبح والنساء۔ ۳ ایضاً باب الدعوات فی الاوقات

عظیم و کثیر اجر و ثواب: اب دیکھئے لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمہ مبارک کا کیا اجر و ثواب بیان فرمایا جاتا ہے۔

۵۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّةٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ ۚ جس نے دن میں دس بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہا، اس نے گویا اولاد اسمعیل (علیہ السلام) میں سے ایک غلام آزاد کیا۔

۶۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی روایت ہے۔

(”مستدرک حاکم“ جلد اول ص ۵۰۱، کتاب الدعاء)

۷۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جس نے صبح کی نماز کے بعد کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

تو اولاد اسمعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کی مثل ہے۔

دوسری روایت میں دن میں یہ کلمہ پاک سو بار پڑھنے پر اجر و ثواب کی کثرت و عظمت

ملاحظہ ہو:-

۸۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دن میں سو بار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھا، اس کے لیے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور اس کے لیے سونکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی سویرائیاں مٹادی جاتی ہیں، اور یہ کلمات اس دن اس کے لیے شیطان (کے شر) سے محافظ ہوں گے، یہاں تک کہ شام ہو۔ اور کوئی شخص اس سے (قیامت میں) بہتر عمل نہیں لائے گا، سوائے اس شخص کے جس نے اس سے بھی زیادہ (یہی) عمل کیا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

۹۔ مؤطا مالک میں بھی یہ روایت ہے (کتاب الصلوٰۃ، باب ما جاء في ذكر الله تعالى) اور

صحیح بخاری کتاب الدعوات باب فضل الجليل۔ ۲ ابن ماجہ باب فضل لا اله الا الله۔

”مستدرک حاکم“ میں بھی (کتاب البناۃ)

وظیفہ ہر نماز کے بعد: مسلمان ہر نماز کے بعد اس کلمہ پاک کا ورد کرے تو اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔

۱۰۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہر (فرض) نماز کے پیچھے ۳۳ بار سُبْحَانَ اللَّهِ، ۳۳ بار الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور ۳۳ بار اللَّهُ أَكْبَرُ کہا، یہ ۹۹ بار ہو گیا، پھر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پڑھ کر سو پورا کر لیا، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ۔ (رواہ مسلم)

اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی گو وہ سمندر کی جھاگ کی مثل ہوں۔

نمازِ مغرب اور نمازِ صبح کے بعد وظیفہ: اب صرف دو نمازوں کے بعد اس کلمہ پاک کے ورد وظیفہ کا اجر عظیم

ملاحظہ ہو:

۱۱۔ حضرت عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مغرب اور صبح کی نماز کے بعد نماز کی جگہ سے پھرنے اور (ہیئتِ تشہد سے) پاؤں بدلنے سے پہلے دس بار کہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُسْحَبُ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو ہر ایک دفعہ پر اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی دس برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور اس کے دس درجات بلند کیے جاتے ہیں اور یہ اس کے لیے ہر مکروہ اور شیطانِ رجیم سے بچاؤ کرتی ہیں اور سوائے شرک کے اور کوئی گناہ اسے ہلاک نہیں کر سکتا اور یہ عمل کے اعتبار سے افضل الناس ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس سے افضل کلمات کہے (یا یہی کلمات زیادہ بار کہے)۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

۱۲۔ اور ترمذی نے اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

۱۔ ”مشکوٰۃ“ باب الذکر بعد الصلوٰۃ، سنن ابی داؤد میں بھی یہ روایت مروی ہے (باب التبیح بالخصی)
۲۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ باب الذکر بعد الصلوٰۃ۔

۱۳۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رات کو جاگے تو کہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو رات کو جاگے اور کہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.... پھر کہے: رَبِّ اغْفِرْ لِي يَا فَرَمَايَا پھر دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ پھر اگر وضو کرے اور نماز (تہجد) پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ (رواہ البخاری)

نماز تو وضو کے بعد ہوگی، اور یہ کلمات مبارکہ بغیر وضو کے پڑھ کر بارگاہ رب العزت میں دعاء طلب ہو تو بفضلہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔

اس ذکر پاک کا پہلا حصہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تک ”کلمہ توحید“ کے کلمہ تمجید: بعض اجزاء پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سے لے کر آخر تک ”کلمہ تمجید“ کہلاتا ہے۔

۱۴۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بازار میں داخل ہو اور کہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّرُ وَيُمَيِّتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللہ اس کے لیے لاکھوں نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی لاکھوں برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے لاکھوں درجے بڑھا دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔

رواہ الترمذی وابن ماجہ (”مکتوٰۃ“ باب الدعوات فی الاوقات)

بازار چونکہ ذکر الہی سے غفلت اور تجارت وغیرہ میں اشتغال کا مقام ہے، اس لیے اس مقام پر ذکر الہی کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔

کلمہ توحید: عرف و اصطلاح میں مندرجہ بالا کلمات مبارکہ کو ”کلمہ توحید“ کہا جاتا ہے۔

۱۔ ”مکتوٰۃ الصالح“ باب ما یقول اذا قام من اللیل۔ ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔

۱۵۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ تَحْرُقَ بِالنَّارِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ.

تو اس کی گواہی دے کہ معبود کوئی نہیں مگر اللہ، جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک محمد (ﷺ) اس کے بندہ اور رسول ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول تجھے تمام ماسوی اللہ سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور آگ میں جل جانا تجھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے زیادہ پسند ہو۔ اور جن سے تیرا نسب (ورشتہ) کا کوئی تعلق نہیں تو ان سے اللہ عز ووجل ہی کے لیے محبت کرے۔ جب تو ایسا ہو جائے، فَقَدْ دَخَلَ حُبَّ الْإِيمَانِ فِي قَلْبِكَ. تب تیرے دل میں ایمان کی محبت داخل ہوگئی....

احمد ("ترجمان السنن" جلد اول حدیث نمبر ۳۳)

اس ارشاد رسول ﷺ میں توحید و رسالت کی شہادت کے ساتھ خدا اور رسول ﷺ کی محبت شرک سے قلبی بغض و نفرت اور اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرنے کو بھی ایمان کی حقیقت میں داخل فرمایا گیا ہے۔

خدا اور رسول ﷺ کی محبت تمام ماسواہما سے اشد اور زیادہ ہو یہ ایمان کی اساس و بنیاد ہے۔ اور ان کے بعد کسی سے محبت ہو تو بھی اللہ ہو۔ یہی مقتضائے ایمان ہے۔ کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے اور کسی سے بغض ہو تو بھی اللہ ہی کے لیے، اگر یہ نہیں تو قلب میں ایمان راسخ نہیں۔

خلاصہ: ان چندہ ارشادات رسول ﷺ میں لا إله إلا اللہ کی صراحت کے ساتھ وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ موجود ہے۔ لا إله إلا اللہ خود غیر اللہ کی معبودیت کی نفی ہے، پھر وحدہ لا شریک لہ میں شرک کی مزید صاف و صریح نفی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا صاف اقرار و اعلان ہے۔

اللہ واحد کی معبودیت کے اثبات اور غیر اللہ کی معبودیت و شراکت کی نفی دونوں کے اعادہ

دہنکار کے معنی کیا یہی ہیں کہ اللہ کے سوا صرف بت معبود نہیں اور اللہ کے برگزیدہ و مقبول بندے معبود ہیں، وہ اللہ کے شریک ہیں اور ان کی عبادت جائز ہے۔ معاذ اللہ!

انداز ۱۶

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ!

(اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو)

ایک نئے انداز سے بجز اللہ تعالیٰ اور سب کی عبادت سے روکا جا رہا ہے۔

- ۱۔ بنی اسرائیل سے عہد و میثاق لیا گیا تھا۔
- وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. (پارہ اول، بقرہ، رکوع ۱۰)
- اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا
- ۲۔ اہل کتاب کو امر مشترک کی دعوت دی جا رہی ہے۔
- أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. (آل عمران ع ۷)۔ کہ ہم بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کریں
- ۳۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی۔
- أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ (۱۱ ہود) کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔
- ۴۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:
- أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. (۱۲۔ ہود، رکوع ۳)
- ۵۔ عاد و ثمود کے آگے پیچھے اللہ کے رسول آئے، انہوں نے یہی دعوت دی۔
- إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ.

(۲۳۔ طہ السجدہ، ع ۲۴)

جبکہ ان کے پاس ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو۔

۶۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ڈرایا: أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. (۲۶ احقاف ع ۳)

خلاصہ: ان چھ مقامات پر اللہ کے سوا ہر کسی کی عبادت سے روکا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جمیع انبیاء و رسل علیہم السلام نے اپنی اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ ”نہ عبادت کرو مگر اللہ کی“۔ کیا ہر زمانے میں

انبیاء اللہ کی اس متحدہ و مشترکہ دعوت کے بعد بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب و مکرم بندوں کی عبادت کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟

انداز ۱

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

(بجز اس کے کسی کی عبادت نہ کرو)

- ۱- **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.** (پارہ ۱۲- یوسف، رکوع ۵)
 - حکم صرف اللہ کا ہے اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت مت کرو۔
 - ۲- **وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.** (پارہ ۲- بقرہ، ع ۲۱)
 - اور اللہ کا شکر کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہو۔
 - ۳- **وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.** (۱۳ سورہ نحل، ع ۱۵)
 - ۴- **وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ.** (۱۵- بنی اسرائیل ع ۳)
 - اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجز اہل کے کسی کی عبادت نہ کرو۔
- خلاصہ:** یہ چار آیات مبارکہ میں سوائے ذات پاک اللہ تعالیٰ کے باقی سب غیر اللہ کی عبادت سے بھراحت نہی و ممانعت فرمائی گئی ہے۔

انداز ۱۸

فَايَايَ فَاغْبُدُون

(خالص میری ہی عبادت کرو)

- اس انداز سے خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا امر و حکم ہو رہا ہے۔
- ۱- **يَعْبُدِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَايَايَ فَاغْبُدُون.** (حکبوت)
- اے ایمان دار بندو! بلاشبہ میری زمین وسیع ہے، لہذا خالص میری عبادت کرو۔
- ۲- **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** (سورہ فاتحہ)
- (ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں)
- اللہ تعالیٰ نے فَايَايَ فَاغْبُدُون میں عبادت کو اپنی ذات کے لیے خاص کرنے کا مطالبہ

فرمایا تو اللہ کے بندوں نے امر الہی کی تعمیل میں اعلان کیا کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔
 نہ صرف ہر نماز کی ہر رکعت میں بندہ یہ اعلان کرتا ہے، بلکہ دعا قنوت میں بھی کہتا ہے: اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ
 نَعْبُدُ یعنی اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ دونوں جملوں میں اِيَّاكَ مفعول کو نعبدا اور نستعين فعل پر
 مقدم کیا گیا ہے، تاکہ حصر کا فائدہ دے، یعنی ہم خاص اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔
 اللہ کے سوا کسی پیغمبر، یا ولی کی نہ تو عبادت جائز ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے مانوق
 الاسباب مدد مانگنا جائز ہے۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ:

الفاتحة بِرَ الْقُرْآنِ وَسِرَّهَا هَذِهِ الْكَلِمَةُ (اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)۔
 (تفسیر ابن کثیر جلد اول تفسیر آیت ایاک نعبد)

سارے قرآن کا مرکزی حصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا مرکزی حصہ ایاک نعبد
 وایاک نستعين ہے۔

تو گویا سارے قرآن کی تعلیمات مقدسہ کا خلاصہ و حقیقت یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی
 کی جائے، یہ خاص اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے روادزیہ نہیں۔

انداز ۱۹

فَاعْبُدُون

(پس میری ہی عبادت کرو)

۱۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 فَاعْبُدُون۔
 (پارہ ۱۷- انبیاء، رکوع ۳۷)

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی
 ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری (ہی) عبادت کیا کرو۔

ہر رسول کو اللہ رب العزت نے اپنی ہی عبادت کی وحی فرمائی۔ کوئی پیغمبر اس دنیا میں ایسا
 نہیں آیا جس نے اللہ ہی کی عبادت کا حکم نہ دیا ہو۔ ہر نبی نے خلق خدا کو غیر اللہ کی عبادت سے
 روک کر اللہ واحد کی عبادت کی تعلیم دی۔

سورۃ انبیاء میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہم السلام تک اولوالعزم اور جلیل القدر انبیاء و مرسلین کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں:

۲. اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنَ. (پارہ ۱۷- انبیاء، رکوع ۶)

یہ تمہارے دین کے لوگ ہیں سب ایک دین پر، اور میں ہوں تمہارا رب، سو تم میری عبادت کرو۔

تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کا دین ایک ہے۔ سب اصول میں متحد ہیں، سب نے توحید کی تعلیم دی ہے۔ پروردگار سب کا الہ واحد ہے اور عبادت صرف اسی ذات پاک کا حق ہے۔ جن و انس کی تخلیق و پیدائش کا مقصد ہی الہ واحد کی عبادت ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. (پارہ ۲۷- آخر ذاریات)

اور میں نے جن اور انسان کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

خلاصہ: تین آیات کریمہ میں خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا امر و ارشاد ہے۔

انداز ۲۰

فَاعْبُدْنِي!

(میری ہی عبادت کرو)

کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا:

۱. اِنِّى اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي. (پارہ ۱۶- طہ، رکوع اول)

پیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔

۲. وَاَنْ اَعْبُدُوْنِيْ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ. (پارہ ۲۳- یس، رکوع ۴)

اور یہ کہ میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

اللہ واحد کی عبادت یعنی توحید ہی وہ صراطِ مستقیم ہے جس کی دعاء نمازی ہر نماز میں کرتا ہے۔

خلاصہ: دو مقام پر عبادت الہی کا امر فرمایا۔

اندازِ عبادت

فَاعْبُدُوهُ

(پس اسی کی عبادت کرو)

۱. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ.

(پارہ ۷۔ انعام ع ۱۳)

یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، پس تم اس کی عبادت کرو۔

۲. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. (پارہ ۱۱۔ شروع یونس)

یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، پس تم اس کی عبادت کرو۔

۳. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. (پارہ ۳۔ آل عمران ع ۵۷)

بیشک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

۴. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

(پارہ ۲۵۔ زخرف ع ۶)

بیشک اللہ، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

۵. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. (پارہ ۱۶، مریم، ع ۲۷)

اور بیشک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔

صراطِ مستقیم: ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں بارگاہِ رب العزت میں دعا کرتا ہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. (رب العزت) ہم کو سیدھا راستہ بتلا دیجئے

سو دین کا وہ سیدھا راستہ جس کی طلب و دعا کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، یہی توحید ہے۔ خالص خدا کی عبادت کرنا صراطِ مستقیم ہے۔

۶۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں:

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(پارہ ۲۰ - عکبوت - ۲۷)

پس تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو، اور اسی کی عبادت کرو، اور اسی کا شکر کرو، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

۷. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ.

(پارہ ۱۲ - آخر ہود)

اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم خدا ہی کو ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے، پس اب اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے۔

۸. رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ.

(پارہ ۱۶ - مریم - رکوع ۴)

وہ آسمانوں، زمین اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے (سب) کا پروردگار ہے۔ پس اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے:

۹. بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

(پارہ ۲۳ - زمر - رکوع ۷)

بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا اور اللہ کا شکر گزار رہنا۔

خلاصہ: ان نو مقامات پر خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے۔

انداز ۲۲

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

(اور اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکار)

دُون کے معنی ہیں غیر، سوا۔

اس نئے انداز والفاظ میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں بیسیوں مقامات پر شرک کی نہی و ممانعت فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر صرف چند مقامات ملاحظہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا:

۱. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّأَكُمُ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (۱۱ یونس، ع ۱۱)

آپ کہہ دیجئے اے لوگو! اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو (سن لو کہ) میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حکم ہوتا ہے:

۲. قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. (پارہ ۷، انعام، رکوع ۷)

آپ کہہ دیجئے بالیقین مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔

۳۔ (پارہ ۲۴، سورہ مومن، رکوع ۹) میں بالکل یہی الفاظ ارشاد ہیں:

۴. قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ. (پارہ ۷، انعام، رکوع ۹)

آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہم کو نہ نفع دے نہ

۱۔ دُون، غیر (نہج)..... "مفردات القرآن" امام راغب اصفہانی میں ہے: من دون اللہ کے معنی غیر اللہ ہیں، "لغات القرآن" میں ہے دُون، دے، سوا، غیر۔ (جلد سوم)

نقصان، اور کیا ہم اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، اُلٹے پھر جائیں؟
۵۔ کفار و مشرکین سے مرتے وقت فرشتے پوچھیں گے۔

آيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ . (پارہ ۸- اعراف، رکوع ۴)

اللہ کے سوا جن کو پکارتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟

۶۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین و مذہب بھی یہی ہے۔

اپنے باپ سے فرماتے ہیں:

وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاذْعُوا رَبِّيْ عَسَىْ اَلَا اَكُوْنَ بِدُعَايِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۝ (۱۶، سورہ مریم، رکوع ۳)

اور میں تم سے اور خدا کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کنارہ کرتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اُمید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا۔

۷۔ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝ (۱۷- حج، ۸۷)

یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہیں، اور اللہ کے سوا جن چیزوں کو یہ پکارتے ہیں، وہ باطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی عالی رتبہ اور بڑا ہے۔

۸۔ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَمْ يَنْزَلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نّٰصِيْرٍ ۝ (۱۷- حج، ۹۷)

اور (مشرک) لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی اور نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

۹۔ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ .

(۱۳- نحل، ۲۷)

اور یہ لوگ اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود مخلوق ہیں۔

۱۰۔ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. (۱۳-سورہ نحل۔ ع۔ ۱۰۴)

اور اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمان سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں سے کچھ، اور نہ طاقت رکھتے ہیں۔

سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا محمد رسول اللہ علیہما السلام کا دین و مذہب ہر ”من دُون اللہ“ ہر ”غیر اللہ“ کی عبادت سے بُعد و بیزاری ثابت ہے، ان قرآنی حقائق و شواہد کی موجودگی میں ماسویٰ اللہ کی عبادت کا سوال ہی کب پیدا ہو سکتا ہے، خواہ وہ غیر اللہ کوئی ہو۔

ایک مغالطہ: بعض ضال و مُغفل یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد صرف بت ہیں یا درخت جانور وغیرہ غیر ذوی العقول، اولیاء اللہ، حضرات انبیاء، اللہ کے مقبول و مقرب بندے من دون اللہ کا فرد نہیں، لہذا ذیل میں وہ آیات قرآنی پیش کی جاتی ہیں جن میں من دون اللہ (من دُونِہ) کا اطلاق و استعمال صاف عباد اللہ الصالحین پر ہو رہا ہے۔ یہاں من دون اللہ سے مراد بت وغیرہ غیر ذوی العقول ہو ہی نہیں سکتے، حضرات انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام یا ملائکہ اللہ ہی مراد ہیں۔

حضرات انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور ملائکہ اللہ پر من دُونِ اللہ کا اطلاق!

۱۱. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝

(پارہ ۱۵۔ نئی اسرائیل، ۶۷)

آپ کہئے! جن کو تم خدا کے سوا (مشکل کشا) سمجھتے ہو، ذرا ان کو پکارو تو سہی، وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ (اس کے) بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ جن کو (مشرکین) پکارتے ہیں، وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے

بطور استشہاد صرف دس مقامات پیش کیے گئے ہیں، جن میں من دون اللہ (ماسویٰ اللہ) کی عبادت کی مذمت اور نہی و ممانعت مذکور ہے، ورنہ قرآن کریم میں اس مضمون کی آیات بہت زیادہ ہیں، جن کا احاطہ مشکل ہے۔

ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب بنتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بیشک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

یہ طاعت و عبادت کے ذریعے قرب خداوندی کے مستلاشی، اپنے دوسرے ہمسروں سے زیادہ خدا کی نزدیکی کے طلب گار، رحمت الہی کے امیدوار اور عذاب الہی سے خوف کھانے اور ڈرنے والے ظاہر ہے کہ بے جان بت اور غیر ذوی العقول نہیں ہو سکتے۔ یہ شان تو ذوی العقول کی ہے اور خدا کے محبوب و مقبول بندوں کا ذکر ہے۔ حضرات انبیاء مرسلین اور اولیاء و صالحین ہیں، جن کو مشرک لوگ مصیبت و تکلیف کے وقت پکارتے ہیں، یا ملائکہ مقربین اور مسلمان جن

۱۲۔ ”عبادِ مکرمون“ (معزز بندوں) کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهٌ مِنْ دُوْنِهِ فَاِنَّكَ نَجْوِيْهِ جَهَنَّمَ

(پارہ ۱۷۔ انبیاء، رکوع ۲۴)

اور ان میں سے جو کوئی (بفرض محال) یوں کہے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں سو ہم اس کو سزا جہنم دیں گے۔

غور فرمائیے! کیا چونے، پتھر، مٹی کے بت وغیرہ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں خدا کے علاوہ ہم بھی معبود ہیں، ہماری عبادت کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ ذی روح مخلوق کا بیان ہے۔ چنانچہ آیت قبل میں ”عبادِ مکرمون“ کا ذکر ہے یعنی اللہ کے معزز و محترم بندوں کا۔ مہنم میں جو ضمیر ہے وہ انہی ”عبادِ مکرمون“ کی طرف راجع ہے۔

تو ”من دونه“ (من دون اللہ) کا اطلاق انہی ”عبادِ مکرمون“ پر ہو رہا ہے جو ملائکہ مقربین ہیں یا انبیاء معصومین، علیہم السلام۔

۱۳. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَا مَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ ؕ اَنْتُمْ اَضَلَلْتُمْ عِبَادِيْ هٰؤُلَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيْلَ ۝ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءٍ....

(پارہ ۱۹۔ الفرقان، ۲۴)

اور جس دن اللہ تعالیٰ ان (مشرکین) کو اور جن کو وہ خدا کے سوا پوجتے تھے جمع کرے گا، پھر (ان معبودین سے) فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ (حق) سے گمراہ ہو گئے۔ وہ (معبودین جو اب میں) کہیں

گے (توبہ توبہ) آپ تو پاک ہیں، ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کارساز بناتے....

تو بارگاہِ الہی میں قیامت کے دن یہ جواب حضرات انبیاء علیہم السلام یا اولیاء و صلحاء کا ہو سکتا ہے۔ پتھروں یا چونے مٹی کے بتوں میں کسی کو گمراہ کرنے کی استعداد و صلاحیت ہے کہاں جو ان سے سوال کیا جائے؟ ظاہر ہے یہ سوال حضرات انبیاء و اولیاء اللہ سے ہوگا۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح وہ سب مشرکین کی عبادت سے اپنی برأت و بیزاری کا اظہار کریں گے۔

اب جو آیات پیش کی جا رہی ہیں، ان سے واضح ہوتا..... کہ **مرقع عبرت و انتباہ:** قیامت کے دن تمام معبود اپنے مشرک عابدین کی عبادت سے بر ملا برأت و بیزاری کا اظہار کریں گے، بلکہ ان مشرکین کے دشمن و مخالف بن جائیں گے، اور ان کے مشرکانہ ارتکابات پر ان کی مذمت و مخالفت کریں گے۔

اس وقت ان بد قسمت و بد بخت مشرکین کی بد بختی و محرومی اور حرماں نصیبی قابل دید ہوگی۔ یہ بد نصیب کفِ افسوس ملیں گے اور کہیں گے۔

وائے قسمت! وہ بھی کہتے ہیں بُرا

ہم بُرے سب سے ہوئے جن کے لیے!

یہ آنے والی آیات مشرکین کے لیے مرقعِ عبرت و انتباہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہدایت قبول کرنے کی توفیق بخشے۔

قیامت کے دن معبودین اپنے مشرک عابدین سے کہیں گے:

۱۴. فَكْفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ ۝

(۱۱۔ یونس، ۳۷)

ہمارے تمہارے درمیان خدا کافی گواہ ہے کہ بیشک ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔

تو قیامت کے دن یہ تقریر اور مشرکین کی عبادت سے اپنی برأت و بے خبری کا اعلان چونے مٹی اور پتھر کے بت تھوڑا کریں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ذی روح حضرات انبیاء و اولیاء یا ملائکہ کا خطاب ہے۔

۱۵. وَاتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِّتَكُونُوا لَهُم عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا.

(پارہ ۱۶-مریم)

اور لوگوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے (عند اللہ) باعثِ عزت ہوں (ایسا) ہرگز نہیں (ہوگا بلکہ) وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

تو یہ قیامت کے دن عبادت کرنے والوں کی عبادت کا انکار بت کریں گے اور پتھر ان پجاریوں کے دشمن ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ کام جامد پتھروں کا نہیں بلکہ ذی عقل و ذی ہوش انسانوں کا ہے، یا فرشتوں کا!

مشرکین نے تو ان مقربینِ بارگاہِ خداوندی کی عبادت اس غرض سے کی تھی کہ عند اللہ ان کی عزت کا باعث ہوں گے، مگر اللہ وہ دشمن و مخالف ہو جائیں گے۔

۱۶. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ هُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا

نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ (۱۳-نحل، ۱۲۷)

اور قیامت کے دن جب مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے وہ شریک کہ جنہیں آپ کے سوا ہم پکارتے تھے، پس وہ (شرکاء) ان (مشرکین) سے کہیں گے کہ تحقیق تم جھوٹے ہو۔

تو یہ اپنے عبادت کرنے والے مشرکین سے مناظرہ بت کریں گے؟ یہ بدیہی بات ہے کہ مشرکین کی عبادت کا انکار ذوی العقول ہی کریں گے اور انہیں کاذب اور جھوٹا ذی ارواح حضرات انبیاء و صلحاء ہی فرمائیں گے، علیہم السلام۔

۱۷. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا

يَسْمَعُوا دَعْوَاكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ

بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝ (پارہ ۲۲-فاطر ۲۷)

اور تم اس (اللہ) کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار (اول تو) سنیں گے نہیں، اور اگر (بالفرض) سن بھی لیں تو تمہاری دعاء قبول نہیں کریں گے اور قیامت کے دن تمہارے شرک کرنے کا انکار کریں گے، اور تجھ کو خدائے خبیر کی طرح کوئی نہیں

بتلائے گا۔

تو یہ قیامت کے دن مشرکین کے شرک اور ان کی عبادت کا انکار پتھر مٹی وغیرہ کے بت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ ذوی العقول، ذی روح حضرات انبیاء و صالحین کا ذکر ہے۔

۱۸. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ.

(پارہ ۲۶-۱، حاف، رکوع اول)

اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خدا کے سوا اس کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے اور وہ ان کی پکار سے بے خبر ہیں اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔

تو یہ قیامت کے دن پتھر وغیرہ کے بت تھوڑا ان کی عبادت سے اپنی برأت کا اظہار کریں گے۔ اور اپنے ان عبادت کرنے والوں کے دشمن یہ شجر و حجر یا شمس و قمر اور ستارے تھوڑے ہو جائیں گے۔ یہ کام تو بہر حال انسانوں کا ہے۔ یہ حضرات انبیاء و صلحاء ہوں گے، جو مشرکین کی شرکیہ بد کرداریوں سے اپنی برأت ظاہر کر کے گویا ان کے دشمن ہوں گے۔

حضرات انبیاء و اولیاء اور علماء و مشائخ

سَبِّ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِي شَامِلٍ هِيَ

اب قرآن کریم سے وہ آیات پينات پیش کی جاتی ہیں جن میں صراحت سے حضرات انبیاء و اولیاء اور علماء و مشائخ کو بھی من دُونِ اللَّهِ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

۱۹۔ یہود و نصاریٰ سے متعلق فرمایا گیا:

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ

(پارہ ۱۰-سورہ توبہ، رکوع ۵)

انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے علماء و مشائخ کو رب بنا رکھا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی۔

احبار و رہبان یہود و نصاریٰ کے علماء و مشائخ اور حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام تک سب ارباب من دون اللہ میں شامل ہیں۔

۲۰۔ آیت مابقی میں حضرت مسیح ابن مریم کا ذکر ہے۔ متصلاً فرمایا:

قُلْ اتَّعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.

(پارہ ۶۔ سورہ المائدہ، رکوع ۱۰)

آپ (اہل کتاب نصاریٰ) سے کہئے کیا تم خدا کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ ضرر کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا۔

اس آیت میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر من دُونِ اللَّهِ کا اطلاق فرمایا گیا ہے۔

۲۱۔ اس بد بخت قوم نے قیامت کے دن اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو جواب دہ ٹھہرایا۔

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ء. أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ
مِن دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ.

(پارہ ۷۔ سورہ مائدہ، آخری رکوع)

اور جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لو، (عیسیٰ علیہ السلام) کہیں گے (توبہ توبہ) آپ تو شرک سے پاک ہیں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔

دیکھئے! حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہما السلام پر من دُونِ اللَّهِ کا اطلاق فرمایا گیا ہے۔

۲۲. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا

عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ. (پارہ ۳۔ آل عمران رکوع ۸)

کسی بشر سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے سوا میرے بندے ہو جاؤ۔ لیکن کہے گا کہ تم اللہ دانے ہو جاؤ۔

اس آیت میں تمام حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام سے متعلق من دُونِ اللَّهِ فرمایا گیا ہے تفسیر روح المعانی، کبیر اور مدارک وغیرہ میں اس آیت کے شان نزول میں یہ روایت نقل ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان و علو مرتبت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا وَلَكِنْ أَكْرَمُوا نَبِيَّكُمْ وَأَعْرَفُوا الْحَقَّ لِأَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْجَدَ
لِأَحَدٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى فَنَزَلَتْ ۱

ہرگز نہیں البتہ اپنے نبی کی تکریم کرو، اور ہر صاحب حق کا حق پہچانو، اللہ تعالیٰ کے
سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے سجدہ کیا جائے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔
نہ صرف دوسرے حضرات انبیاء و مرسلین من دون اللہ میں داخل ہیں، علیہم الصلوٰۃ
والسلام، بلکہ آیت کے شان نزول سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ امام المرسلین، سید الانبیاء حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات پاک کو بھی من دون اللہ کا فرد قرار دیا ہے۔

اپنے لیے سجدہ تعظیم کی نفی و نہی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

خلاصہ: یہ کتاب اللہ کی بائیس نصوص ہیں، قرآن پاک کی ان تمام نصوص صریحہ کے بعد بھی
یہ ممکن ہے کہ غیر اللہ اور من دون اللہ سے صرف بت وغیرہ مراد ہوں اور حضرات
انبیاء و اولیاء اللہ ان سے مستثنیٰ ہوں اور ان کی عبادت جائز ہو؟ ہرگز نہیں! درحقیقت عبادت
صرف ذات پاک باری تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی حق نہیں، اور اس
سلسلہ میں اللہ کے سوا ہر چیز خواہ وہ غیر ذوی العقول ہوں خواہ ذوی العقول، جان دار ہوں یا بے
جان، اصنام و اوثان ہوں یا شمس و قمر، اشجار ہوں یا احجار، انسان ہوں یا حیوان، جن ہوں یا
ملک، ولی ہوں یا نبی، سب غیر اللہ ہیں، من دون اللہ۔

المی منطق: جو لوگ حضرات انبیاء و صلحاء کو اللہ کے حق عبادت میں شریک کرتے ہیں،
اور اپنے زعم و خیال میں اسے ان حضرات کی عظمت شان سمجھتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ: ”جو بھی حضرات اولیاء و انبیاء کو عبادت کے معاملے میں غیر اللہ کا مقام دیتے ہیں
اور انہیں عبادت کا حق نہیں دیتے وہ ان حضرات کے دشمن ہیں اور ان کی توہین کرتے ہیں۔“
درحقیقت یہ لوگ خود حضرات انبیاء و مرسلین اور اولیاء و صالحین کے مقام عظیم کی توہین
کرتے ہیں، اور ان کی عظمت شان و رفعت مقام کو نہیں سمجھتے۔

کتاب اللہ قرآن حکیم کی نص صریح کے مطابق حاملین کتاب و حکمت اور فائزین مقام
نبوت کی شان اعلیٰ و ارفع کے یہ لائق و شایان ہی نہیں کہ اللہ رب العزت تو اپنے سارے بندوں

میں سے انہیں جن کر اپنی توحید کی اشاعت اور شرک کی بیخ کنی کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمائے اور یہ مبلغین و ناشرین توحید و قاطعین شرک اپنے منشاءے بعثت و منصب نبوت کے سولہ آنے خلاف دنیا کو اپنی عبادت کی دعوت دینا شروع کر دیں یا اپنی پرستش پر راضی اور خوش ہوں۔

یہ ممکن ہی نہیں، مجال ہے۔ یہ حضرات آروں سے تو چر گئے، آگ میں تو پڑ گئے، ان کے لہو پاک سے اللہ کی سرزمین لالہ زار تو بن گئی، مگر ان قدوسیوں نے توحید کا پیغام و اشکاف الفاظ میں گھر گھر پہنچا دیا۔ انہوں نے کڑی سے کڑی مصیبت جھیل کر ہر قیمت پر خلق خدا کو خدا کی عبادت کی دعوت دی اور غیر اللہ کی پرستش سے روکا۔

ان حضرات کی پوری زندگی کی جگر گداز و جاں نسیں جہد مسلسل و شبانہ روز مساعی اور ان کی بعثت و رسالت کے مقصد و منصب کے خلاف خود انہی کی عبادت کا دعویٰ ذرا خدا لگتی کہئے عقل و انصاف کی نگاہ میں ان کی تعظیم و تکریم ہے یا ان کے اعلیٰ و ارفع مقام و منصب کی توہین؟ جن لوگوں نے مبلغین توحید..... حضرات انبیاء و اولیاء کو عبادت کا حق دے کر خدا کا شریک بنایا ہے، انہوں نے جہاں خدا کے حق کو کا حقہ نہیں سمجھا وہاں نبی اور ولی کے منصب و مقام کو بھی نہیں سمجھا۔ اور درحقیقت مقام نبوت و ولایت کی توہین و استخفاف کے مرتکب یہ لوگ ہوئے۔

ع ہم الزام ان کو دیتے تھے تصور اپنا نکل آیا!

حقوق کی تقسیم: پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق شناسی کا سبق دے رہے ہیں، آپ کا حکم ہے: **وَاعْرِفُوا الْحَقَّ لَاهِلِهِ، اهل حق کا حق پہچانو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق اکرام و تکریم متعین فرما رہے ہیں، وَلٰكِنْ اَكْرَمُوا نَبِيَّكُمْ اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق قرار دے رہے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی کا بھی حق نہیں، لَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُسْجَدَ لِاَحَدٍ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح تعلیم اور خدا اور محبوب خدا کے حقوق کی تقسیم و تعین کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جہاں آپ کی تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، وہاں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کی، نہ کبھی سجدہ کیا، نہ کبھی دکھ سکھ میں پکارا، نہ کبھی آپ کی قسم کھائی نہ منت مانی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت کا جواز پیدا کرنا اور خدا کے ساتھ آپ کو عبادت میں شریک کرنا، صرف بتوں کو عبادت کا حق نہ دینا اور حضرات انبیاء و صلحاء کو عبادت میں شریک ٹھہرانا، یہ اللہ رب العزت کی حق تلفی کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدول حکمی و نافرمانی ہے**

یا آپ کی اطاعت و فرماں برداری؟ اور آپ کی عدول حکمی و نافرمانی آپ کی عزت و تکریم ہے یا آپ کی شان میں گستاخی اور آپ کی توہین؟

محبت کا معیار: سوال یہ ہے کہ محبت کا معیار کیا ہے؟ محبت محبوب کی اطاعت و تعمیل ارشاد کا نام ہے یا محبوب کی نافرمانی اور اس کے احکام سے سرتابی و روگردانی کا؟

عشق و فسق: سچی محبت تو جان دے کر بھی محبوب کی رضا جوئی سے عبارت ہے، عشق نام ہی محبوب کے آگے سرافگندگی، اپنی خواہشات کی سرکوبی اور محبوب کے احکام کی دیوانہ وار تعمیل کا ہے۔ اپنے من کی خوشی اور خواہش نفس کی تعمیل تو ہوا و ہوس ہے، فسق ہے، عشق کہاں؟ محبوب کی اطاعت سے انحراف و سرکشی تو اپنے نفس کی اطاعت و پرستش ہے، محبوب کی محبت کہاں؟

آنحضرت ﷺ کی نافرمانی و عدول حکمی کا ارتکاب کرنے کے باوجود اپنے آپ کو محبت رسول سمجھا اور اُلٹا آپ کی اطاعت کا فرض بجالانے والوں کو آپ کا دشمن اور آپ کی توہین کا مرتکب قرار دینا درحقیقت ایک عجوبہ اور طرفہ تماشہ ہے۔

تَعْصِي الرَّسُولِ وَأَنْتَ تَزْعُمُ حُبَّهُ،
هَذَا لَعْمَرِي فِي الزَّمَانِ بَدِيعِ،
لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا طَعَنَهُ،
إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ،

تو رسول کی نافرمانی کرتا ہے پھر آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کی قسم! یہ زمانے میں نزالی اور عجیب بات ہے۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو آپ کی اطاعت کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب کی فرمانبرداری کرتا ہے

اسلام ادا نیگی حقوق کا نام ہے: حضرت ﷺ نے حق شناسی کا حکم فرمایا ہے۔ درحقیقت اسلام نام ہی حق شناسی اور

حق کی ادا نیگی کا ہے۔ پورے اسلام کا طول و عرض سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جس کا جو حق ہے، ادا کرو..... خدا کا حق ہے ادا کرو..... رسول کا حق ہے ادا کرو..... نبی کا حق ادا کرو..... ولی کا حق ادا کرو..... ماں باپ کا حق ادا کرو..... اولاد کا حق ادا کرو..... بہن بھائی کا حق ادا کرو..... بڑوں

کا حق ادا کرو..... چھوٹوں کا حق ادا کرو..... انسان کا حق ادا کرو..... حیوان کا حق ادا کرو..... کتے کا حق ادا کرو..... بلی کا حق ادا کرو..... جس کا جو بھی حق ہے ادا کرو..... اسی کا نام اسلام ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی تک کے حقوق کی تعلیم دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے:

بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: ایک شخص نے سر راہ ایک کتے کو دیکھا، (شدت) پیاس سے کچھڑ چاٹ رہا تھا۔ اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اسے بخش دیا۔

دوسری حدیث میں بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: میں نے دوزخ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب میں دیکھا۔ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا نہ تو اسے خوراک دی نہ چھوڑا، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ صحیح مسلم ("مشکوٰۃ" باب البرکاء والحقوف)

مشترک حقوق: بعض حقوق میں اشتراک ہوتا ہے، بعض میں اشتراک نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک گھر میں ایک شخص کی ماں، بیٹی، بہن اور زوجہ رہتی ہیں، کھانا، پینا، کپڑا، چارپائی، بستر، علاج معالجہ سب کا مشترک حق ہے۔ ماں بھی کھائے گی بیٹی بھی، اہلیہ بھی کپڑا پہنے گی، بہن بھی، چارپائی اور بستر کا انتظام جس طرح ماں بیٹی کا کرنا ہوگا، زوجہ اور ہمشیرہ کا بھی کرنا ہوگا۔ بیمار ہونے پر دوا دارو گھر والی اور بیٹی کا ہوگا تو ماں اور بہن کا بھی ہوگا۔ ان حقوق میں اشتراک ہے۔ اس قبیل کے حقوق گھر کے سب افراد کے مشترک ہیں۔ یہ نہیں کہ ماں کو تو کھانا دیا جائے پر بیٹی کو فاقوں مار دیا جائے۔ یا بیگم صاحبہ کے لباس کا تو انتظام کیا جائے مگر بہن کی پوشاک کا فکر نہ کیا جائے۔ یہ حقوق سب کے مشترک ہیں۔ لہذا خاندان کے سربراہ کو ان سب کے ان حقوق کو یکساں ادا کرنا ہوگا۔

منفرد حقوق: لیکن بعض حقوق منفرد ہوتے ہیں۔ ان میں اشتراک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلاً سعادت مند پر خوردار خدمت ماں کی کرے گا۔ یہ ماں کا حق ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ملے گی، بیگم صاحبہ یا بہن اور بیٹی کے قدموں میں نہیں۔ یہ صرف ماں کا حق ہے، اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں۔ حق مہر خاص اہلیہ کا حق ہے، اس میں ماں بیٹی کا حصہ نہیں، تعلیم و تربیت اور نکاح شادی کا فکر بیٹی اور بہن کا حق ہے، ماں اور زوجہ کا اس میں حصہ نہیں۔

انفرادی حقوق میں کسی دوسرے کا اشتراک نہیں:

انسانیت اور شرافت اور دین کا حکم اور تقاضا یہ ہے کہ حق مہر گھر والی کا ادا کرو، تعلیم اور رشتے کا فکر بیٹی اور بہن کا کرو، اور خدمت ماں کی! اب اگر کوئی سر پھرا کسی شریف انسان کو ملامت کرتا ہے کہ اس نے اپنی اہلیہ کو تو حق مہر ادا کیا، لیکن ماں کو ادا نہیں کیا، لہذا یہ ماں کا گستاخ اور بے ادب ہے، یہ ناخلف ہے، تو اس پر ہر صاحب عقل و ہوش اُلٹا اس ملامت کرنے والے کو بے وقوف اور احمق قرار دے گا۔ اس شریف انسان کو کوئی بھی صحیح الدماغ مورد الزام نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ حق مہر تو ہے ہی اہلیہ کا حق، یہ ماں کا حق کہاں؟ لہذا ماں کو حق مہر ادا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اس طرح اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شخص تو اپنی گھر والی کا دشمن ہے، کیونکہ اپنی لڑکی کے لیے موزوں رشتے کی تلاش میں تو سرگرداں ہے مگر اپنی اہلیہ کے لیے اسے رشتے کا کوئی فکر ہی نہیں، اس ہفوات پر ہر خردمند اور دانشور انسان اُلٹا اس معترض کو فائر العقل اور پاگل سمجھے گا۔ اس شریف انسان کو کوئی بھی ہدف ملامت نہیں بنائے گا۔ کیونکہ موزوں رشتے کی تلاش بہن اور بیٹی کا حق ہے، اس میں اہلیہ کا حصہ کہاں؟ اپنی زوجہ کے لیے رشتے کی تلاش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ان مثالوں کی روشنی میں اب اس مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔

اللہ اور عباد اللہ کے مشترک حقوق: جس طرح ماں بیٹی، بہن اور اہلیہ کے کچھ حقوق مشترک ہیں، اسی طرح خدا

اور خدا کے نیک اور محبوب و منتخب بندوں کے بھی کچھ حقوق مشترک ہیں۔ مثلاً ایمان خدا پر بھی لانا فرض ہے اور حضرات انبیاء و مرسلین پر بھی، محبت خدا کی بھی ایمان ہے اور محبوب خدا کی بھی، صلی اللہ علیہ وسلم! بلکہ آل رسول حضرات صحابہؓ اور صلحاء کی بھی محبت علامت ایمان ہے، اسی طرح اطاعت خدا کی بھی فرض ہے اور رسول خدا کی بھی، بلکہ حضرات اولیاء اللہ، علماء حق، اور سلف صالحین کی بھی! اتباع احکام خداوندی کا بھی دین ہے اور حضرت علیؓ اور حضرات صدیقین و شہداء صالحین تمام منعم علیہم بندگان خدا کا بھی! رضی اللہ عنہم۔

اللہ کا خاص اور اخص حق: جہاں ایمان، محبت، اطاعت اور اتباع وغیرہ حقوق میں اللہ اور عباد اللہ الصالحین کا اشتراک ہے، اور یہ

چاروں حقوق اللہ اور اللہ کے محبوب و مقرب بندوں کے مشترک ہیں، وہاں ایک حق اللہ رب العزت کا ایسا ہے جس میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں اور وہ حق ہے عبادت۔

حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں جواب:

سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ.

(توبہ توبہ) آپ تو شرک سے پاک ہیں، مجھے یہ کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں،

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد:

لَا وَلَكِنْ أَكْرَمُوا نَبِيِّكُمْ، مجھے سجدہ نہ کرو، میری صرف عزت و تکریم کرو

سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی ہے کہ عبادت خاص خدا کا حق ہے، دوسرے کسی کا نہیں، خواہ ماں ہو خواہ بیٹی اور خواہ بہن۔ تو جس طرح ایک خاندن حق مہر صرف اپنی اہلیہ کو ادا کرے گا کسی اور کو نہیں، اسی طرح ایک مرد مسلمان عبادت بھی خدا ہی کی کرے گا کسی غیر کی نہیں۔ یہ مر تو جائے گا، جل تو مرے گا، مگر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، خواہ وہ ولی ہو یا نبی یا امام الانبیاء ہوں، علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

اب اگر کوئی شخص اس پر اس مرد مسلمان کو ملامت کرے اور کہے کہ یہ تو رسول کا گستاخ اور

بے ادب ہے، نبی کی توہین کرتا ہے، کیونکہ عبادت کا حق نبی کریم کو نہیں دیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم! تو اس کی یہ منطق بالکل ایسی ہوگی جیسی اس پاگل اور فاجر العقل کی، جو کہتا ہے کہ یہ شخص تو ماں کا گستاخ اور بے ادب ہے، ماں کی توہین و تذلیل کرتا ہے، کیوں کہ حق مہر اپنی بیگم صاحبہ کو تو کب کا دے چکا ہے مگر ماں کو نہیں دیتا۔ یا موزوں رشتہ اپنی بیٹی اور بہن کے لیے تو تلاش کر رہا ہے مگر ماں کا اسے قطعاً فکر نہیں۔ ظاہر ہے کوئی بھی صاحب عقل و بصیرت اس بیہودہ منطق کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ اُلٹا صاحب منطق کو پاگل قرار دے گا۔ شریف صاحب خانہ کی بجائے خود اس معترض کو ملامت کرے گا، کہ او مخبوط الحواس! حق مہر میں ماں کا کیا حصہ؟ یہ تو خالص بیوی کا حق ہے۔ یا رشتہ تو بیٹی اور بہن ہی کے لیے تلاش کیا جاتا ہے، ماں کے لیے موزوں رشتے کی جستجو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

بالکل اسی طرح کوئی بھی صحیح الدماغ اور سلیم الفکر انسان اس مشرکانہ منطق کی تائید و حمایت نہیں کرے گا۔ اُلٹا صاحبِ منطق کو فائز العقل قرار دے گا، اس مردِ مسلمان کو ملامت کرنے کی بجائے اُلٹا اس معترض کو ملامت کرے گا اور کہے گا، عبادت تو خاص خدا کا حق ہے، اس میں کسی غیر اللہ کا حصہ کہاں؟ عبادت میں کسی ولی اور نبی کی شرکت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

انداز ۲۳

ایک اور انداز سے عبادت غیر اللہ کی نفی و مذمت کی جاتی ہے
اب قرآن کریم سے وہ آیات پاک پیش کی جاتی ہیں جن میں صراحت ہے کہ

حضرات انبیاء علیہم السلام، ملائکہ اللہ اور اولیاء کرام کی عبادت شرک ہے

۱. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝

پیشک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ واقعی اللہ مسیح ابن مریم ہے، اور (خود) مسیح نے کہا، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو، جو میرا (بھی) رب ہے اور تمہارا (بھی) رب ہے۔ پیشک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی، اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

۲. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَوَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ.

(۶-سورۃ مائدہ، رکوع ۱۰)

بلاشبہ وہ لوگ (بھی) کافر ہوئے جنہوں نے کہا، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ بجز ایک معبود کے کوئی معبود نہیں۔

نصاریٰ ملعونین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین خدا بھی کہا اور تین میں سے ایک بھی کہا، یعنی خدائے واحد کی جگہ تین خدا تجویز کیے۔ حضرت مسیح، روح القدس اور، یا حضرت مسیح، حضرت

مریم اور اللہ تعالیٰ، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو دوسروں کی طرح رب تعالیٰ کا مربوب اور بندہ ہونے کا غیر مبہم اور واضح اعلان فرما کر بنی اسرائیل کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ اور ان کی ذات کو اللہ کہنے والوں کو مشرک قرار دیتے ہوئے شرک کی مذمت فرمائی اور کہا: مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔

تو ان آیات پاک میں حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام یا روح القدس (حضرت جبرئیل) کو خدائے واحد کے ساتھ معبود قرار دینے کو اللہ رب العزت نے کفر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک فرمایا ہے، اور ان مرتکبین کفر و شرک پر جنت حرام ہے اور یہ جہنم کا ایندھن ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے کہ جس بشر کو اللہ کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے وہ نہ تو لوگوں کو اپنی بندگی کے لیے کہے گا۔ (پارہ ۳۔ آل عمران، ۸۷)

۳. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخِلُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

اور نہ تم کو یہ حکم کرے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو۔

تو اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ فرشتوں اور نبیوں کو رب اور معبود قرار دینے کو کفر فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے کسی نبی کی شان کے شایان نہیں کہ وہ خدائے واحد کے ساتھ اپنی ذات کی معبودیت یا دوسرے حضرات انبیاء و ملائکہ کی ربوبیت کی دعوت دے، یہ تو کفر اور شرک ہے، اور نبی سے کفر و شرک کا امر و حکم شرعاً محال ہے۔ اللہ کے ہر نبی نے انسانیت کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی ہے اور اسے خدائے واحد کے در پر جھکایا ہے۔

۱۶۸ آیات کریمہ، ۱۰۲ احادیث نبویہ اور ۲۳ انداز!

خلاصہ: کتاب اللہ قرآن کریم کی قریباً پونے دو سو آیات اور قریباً ایک سو احادیث پاک میں قریباً دو درجن انداز سے عبادت کو ذات پاک رب العزت ہی کے لیے خاص کر کے ماسوی اللہ ہر چیز کی الوہیت و ربوبیت اور معبودیت کی شدت سے نفی کی گئی ہے۔

صراحت سے حضرات انبیاء علیہم السلام وعباد اللہ الصالحین کو من دون اللہ میں شمار کیا گیا ہے اور بالکل واضح الفاظ میں حضرات انبیاء واولیاء اور ملائکہ اللہ کی عبادت کو کفر وشرک فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ غلط بحث ختم ہو جانی چاہئے کہ غیر اللہ سے مراد صرف پتھر کے بت اور مٹی چونے کی مورتیاں ہیں۔ ان کی عبادت تو ممنوع اور حرام ہے، لیکن مقررین بارگاہ الہی حضرات انبیاء واولیاء خصوصاً امام الرسل، سید الانبیاء، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو غیر اللہ ہیں اور نہ ہی ان کی عبادت حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں، غیر نہیں، لہذا ان کی عبادت مطلوب و محمود ہے، ممنوع نہیں، قرآن کریم کی درجنوں آیات اور درجنوں احادیث نبویہ سے اس مغالطہ اور باطل فلسفہ کا بطلان ثابت ہو چکا ہے، اور اب فریب خوردگی نیز فریب کاری کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔

پھر آپ ہی بتلائیں تاہم اگر کسی کو ابھی تک اس باطل نظریہ پر اصرار ہے تو پھر ہم اس سے اتنا کہیں گے کہ اب آپ ہی بتلائیں کہ وہ کون سا انداز ہے، جسے اختیار کرنے پر اللہ کے سوا ہر معبود کی نفی آپ تسلیم کر لیں گے؟ اور وہ کون سے الفاظ ہوں جن کی موجودگی میں آپ اپنے باطل دعویٰ اور زعم سے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ کوئی ایسا انداز یا ایسے الفاظ نہیں بتا سکیں گے، قیامت تک نہیں بتا سکیں گے، اور اگر آپ اس قسم کا کوئی انداز یا اس نوعیت کے کچھ الفاظ منتخب اور متعین کریں گے تو وہ ان دو درجن انداز اور ان کم و بیش تین سو آیات و احادیث سے باہر قطعاً نہیں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم قرآن حکیم میں ارشاد فرمادئے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں! بہر حال اب اسے تسلیم کر لینا چاہئے کہ:

عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے بغیر ہر چیز

غیر اللہ ہے، اور ہر غیر اللہ کی عبادت ممنوع، حرام،

کفر اور شرک ہے!

۱۔ صرف انہی آیات و احادیث پر حصر نہیں، پورے قرآن اور کتب احادیث میں سینکڑوں آیات و احادیث اس مضمون کی مل سکتی ہیں۔

(4)

عبادت



کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی قریباً تین سو نصوص صریحہ سے یہ ثابت و واضح ہو چکا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ ذات پاک رب العزت کے بغیر ہر غیر اللہ کی عبادت ممنوع و حرام، کفر اور شرک ہے۔

اب عبادت کے معنی و مفہوم، عبادت کی حقیقت، عبادت کے لوازم و اصول اور اس کے متعلقات پر تفصیل سے بحث ملاحظہ ہو:

عبادت کے معنی: عبادت کے معنی ہیں بندگی، پرستش، بدرجہ غایت تذلل و عاجزی اور انتہائی تعظیم و اطاعت۔

۱۔ امام راعب اصفہانی لکھتے ہیں:

الْعِبَادِيَّةُ كَالْعِبَادَةِ كَالْفِعْلِ الْمُنْتَهَى
درجہ کی ذلت اور انکساری ظاہر کرنے پر بولا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ معنوی اعتبار سے لفظ "العبادة" "الْعِبَادِيَّةُ" سے زیادہ بلیغ ہے، لہذا عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے جو بے حد صاحب فضل و انعام ہو اور ایسی ذات صرف ذات الہی ہی ہے، اسی لیے فرمایا:

أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

۲۔ "لغات القرآن" میں ہے: مخدوم علی مہائمی اپنی مشہور تفسیر "تبصیر الرحمن و تیسر المنان بعض ما یشیر الی اعجاز القرآن" میں رقمطراز ہیں:

۱۔ امام ابوالقاسم حسین راعب اصفہانی رحمہ اللہ پانچویں صدی ہجری کے ائمہ اعلام میں سے ہیں۔ لغت اور تفسیر وغیرہ کے امام ہیں۔ ان کی لغات قرآن سے متعلق کتاب مفردات..... بڑی مقبول اور شہرہ آفاق و بے نظیر کتاب ہے۔ ۲۵۰۰ میں وفات پائی۔

۲۔ "مفردات القرآن" معنی العبادة۔

الْعِبَادَةُ تَذَلُّ لِلغَيْرِ عَنِ اخْتِيَارِ لَغَايَةِ تَعْظِيمِهِ فَخَرَجَ التَّسْخِيرُ وَالتَّسْخِرُ
وَالْقِيَامُ وَالانْحِنَا لِنَوْعِ تَعْظِيمِهِ^۱

”عبادت“ اپنے اختیار سے دوسرے کی انتہائی تعظیم کی غرض سے اس کے لیے
فردنی کا نام ہے، لہذا تسخیر کی بنا پر یا مذاق کی غرض سے ایسا کرنا نیز تعظیم رسمی کے
لیے کسی کے واسطے کھڑا ہو جانا یا جھک جانا عبادت سے خارج ہے۔

مخدوم موصوف نے عبادت شرعی کی یہ بڑی جامع مانع تعریف کی ہے۔ غور فرمائیے بہت
سے افعال ہیں جو بظاہر عبادت معلوم ہوں گے، حالانکہ حقیقت میں وہ عبادت کی تعریف میں
نہیں آتے۔ ایک شخص پر کسی نے تسخیر کا عمل کر دیا۔ وہ عبادت کے بہت سے کام کرتا ہے۔ لیکن
چونکہ اس کے اپنے ارادے اور اختیار کو اس میں دخل نہیں اس لیے اس کو عبادت نہیں کہا جاسکتا۔
اس طرح ایک شخص مذاق کے طور پر رسوم عبادت کو بجالاتا ہے۔ دیکھنے والا جو حقیقت حال سے
واقف نہیں بظاہر اس کو عبادت ہی خیال کرے گا، حالانکہ ایسا نہیں کیونکہ وہ تعظیم کے لیے ان کو
انجام نہیں دے رہا، بلکہ مسخرہ پن کر رہا ہے۔ ایسے ہی ”قیام“ اور ”انحنا“ (جھکنا) کا شمار گویا
افعال عبادت میں ہے، لیکن جبکہ اس سے مقصود غایت تعظیم نہیں جو فی الواقع عبادت ہے بلکہ
ایک خاص قسم کی رسمی تعظیم ہے جو سوسائٹی میں رواج پا گئی ہے، تو اس کو عبادت نہیں کہیں گے۔^۲

۳۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

إِنَّ الْعِبَادَةَ عِبَارَةٌ عَنِ نَهَايَةِ التَّعْظِيمِ وَهِيَ لَا تَلِيْقُ إِلَّا بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ غَايَةُ
الْإِنْعَامِ^۳

عبادت کے معنی ہیں انتہائی تعظیم اور یہ اسی ذات کے لائق ہے جس کے انعام بے
حد و نہایت ہوں۔

۴۔ ایک اور مقام پر ہے:

إِنَّ الْعِبَادَةَ اعْظَمَ أَنْوَاعِ التَّعْظِيمِ فَهِيَ لَا تَلِيْقُ إِلَّا بِمَنْ صَدَرَ عَنْهُ اعْظَمُ

۱۔ تفسیر مہانگی جلد ۱ ص ۲۳ طبع بولاق مصر۔ ۲۔ ”لغات القرآن“ جلد چہارم معنی لفظ عبادت۔

۳۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ امت کے ائمہ اعلام میں سے ہیں۔ آپ کی تفسیر کبیر نہایت مقبول شہرہ آفاق تفسیر ہے
ولادت ۵۲۳ھ اور وفات ۶۰۶ھ ہے۔

۴۔ تفسیر کبیر ج ۱ ص ۲۳۲ تفسیر اباک بعد و اباک لتعین طبع مطبع امیہ مصر۔

انواع الانعام و ذلك ليس الا الحيوة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعاد. فإذا كانت المنافع والمضار كلها من الله سبحانه وتعالى وَجِبَّ أَنْ لَا تَلِيَقَ الْعِبَادَةُ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ ۚ

بلاشبہ عبادت تعظیم کی تمام انواع و اقسام سے اعظم و اعلیٰ نوع و قسم ہے، لہذا یہ سوائے اس ذات کے جس کے انعامات انعام کی تمام انواع و اقسام سے اعظم و اعلیٰ ہوں کسی کو لائق نہیں اور اعظم انعامات زندگی، عقل، طاقت دینا و آخرت کے مصالح ہیں۔

پس جب ہر قسم کا نفع و نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو واجب ہے کہ اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے سوا عبادت کسی کے لائق نہیں۔

تو حضرت امام رحمہ اللہ عبادت کو نہایت التعظیم اور اعظم انواع التعظیم قرار دیتے ہیں۔ اسی تفسیر کبیر میں عبادت کو اطاعت قرار دیتے ہوئے ایک نہایت ہی عجیب و غریب بحث کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو:

۵. قوله (لا تعبدوا الشيطان) معناه لا تطيعوه، بدليل ان المنهى عنه ليس هو السجود له فحسب، بل الانقياد لامره والطاعة له، فالطاعة عبادة. اللہ تعالیٰ کے کلام لا تعبدوا الشيطان کے معنی ہیں ”تم شیطان کی اطاعت نہ کرو“ اس دلیل سے کہ شیطان کو محض سجدہ کرنا ہی ممنوع نہیں بلکہ اس کے حکم کی متابعت اور اس کی اطاعت بھی منع ہے، پس اطاعت عبادت ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں ہم کو امراء کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو کیا ہم کو امراء کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے؟ (امام فرماتے ہیں کہ)

طاعتهم اذا كانت بامر الله لا تكون الا عبادة لله وطاعة له.... ان (امراء یعنی حکام) کی اطاعت جب اللہ کے حکم سے ہو تو وہ اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی کی اطاعت ہوگی، اور یہ اطاعت کیسے اللہ کی اطاعت نہ ہوگی جبکہ غیر اللہ کا سجدہ اور رکوع تک بھی جبکہ اللہ کے حکم سے ہو اللہ ہی کی عبادت ہوگی، کیا تم نہیں

۱۔ تفسیر کبیر ج ۱ ص ۵۹ تفسیر آیت و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم....

دیکھتے کہ ملائکہ نے آدم (علیہ السلام) کا سجدہ (جب اللہ کے حکم سے) کیا اور یہ اللہ ہی کی عبادت تھی۔

وَإِنَّمَا عِبَادَةُ الْأَمْرَاءِ هُوَ طَاعَتُهُمْ فِيمَا لَمْ يَأْذَنَ اللَّهُ فِيهِ.

امراء (حکام) کی اطاعت (فرمانبرداری) ان کی عبادت صرف اس صورت میں ہوگی جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت کا اذن و حکم نہیں دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب ہم شیطان کی کوئی بات نہیں سنتے اور نہ ہی اس کا کوئی اثر پاتے ہیں تو شیطان کی طاعت اور رحمن کی طاعت میں کس طرح فرق و امتیاز ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ:

عِبَادَةُ الشَّيْطَانِ فِي مَخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ.

اللہ کے حکم کی مخالفت، شیطان کی عبادت ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں شیطان کی عبادت نہیں ہوگی کیوں کہ اس کا تو اللہ نے حکم فرمایا ہے:

فَفِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ يَكُونُ الشَّيْطَانُ بِأَمْرِكَ وَهُوَ فِي غَيْرِكَ وَفِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِأَمْرِكَ وَهُوَ فِيكَ.

پس بعض اوقات شیطان تجھے حکم دیتا ہے اور وہ تیرے سوا کسی دوسرے کی صورت میں ہوتا ہے اور بعض اوقات شیطان تجھے حکم دیتا ہے اور وہ خود تیرے اندر ہوتا ہے۔ پس جب کوئی شخص تیرے پاس آئے اور کسی بات کا حکم دے تو دیکھو کہ وہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا موافق نہیں۔

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ مَعَهُ الشَّيْطَانُ بِأَمْرِكَ بِمَا بِأَمْرِكَ بِهِ.

اگر اللہ کے حکم کے موافق نہ ہو تو یہی شخص ہے جس کے ساتھ شیطان ہے، اس کا حکم شیطان کا حکم ہے۔

فَإِنْ أَطَعْتَهُ فَقَدْ عَبَدْتَ الشَّيْطَانَ.

اس صورت میں اگر تو نے اس شخص کی اطاعت کی تو تو نے شیطان کی عبادت کی۔
وَإِنْ دَعَاكَ نَفْسُكَ إِلَى فِعْلٍ فَانظُرْ أَهْوَا مَا ذُوْن فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ أَوْ لَيْسَ كَذَلِكَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَا ذُوْنَا فِيهِ فَنَفْسُكَ هِيَ الشَّيْطَانُ أَوْ

مَعَهَا الشَّيْطَانُ يَدْعُوكَ فَإِنْ اتَّبَعْتَهُ فَقَدْ عَبَدْتَهُ.

اور اگر تیرا نفس تجھے کسی کام کی طرف بلائے تو دیکھو کہ شرع کی رو سے اس کام کی اجازت ہے یا نہیں، اگر شرعاً اس فعل کی اجازت نہ ہو تو تیرا نفس خود شیطان ہے یا اس کے ساتھ شیطان ہے جو تجھے بلاتا ہے۔ اگر تو نے اس کی پیروی کی تو یقیناً تو نے شیطان کی عبادت کی۔

پھر شیطان پہلے تو ظاہراً اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا حکم دیتا ہے۔

فَمَنْ اطَاعَهُ فَقَدْ عَبَدَهُ وَمَنْ لَمْ يُطِعْهُ فَلَا يَرْجِعُ عَنْهُ، بَلْ يَقُولُ لَهُ اَعْبُدِ اللَّهَ كَمَا لَاتِهَانَ وَالْيَرْتَفِعُ عِنْدَ النَّاسِ شَانُكَ، وَيَنْتَفِعُ بِكَ اخْوَانُكَ وَاعْوَانُكَ، فَإِنْ اجَابَ إِلَيْهِ فَقَدْ عَبَدَهُ.

پس جس نے اس کی فرمانبرداری کی اس نے اس کی عبادت کی، اور جو شیطان کی اطاعت نہیں کرتا شیطان (ہمت ہار کر) اس کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اسے کہتا ہے، تو اللہ کی عبادت کرتا کہ تیری توہین نہ ہو اور لوگوں کی نگاہ میں تیری شان بلند ہو اور تیری ذات سے تیرے بھائی بندوں اور اعوان و انصار کو فائدہ پہنچے۔ پس اگر اس شخص نے اس کی بات مان لی تو بالیقین اس نے شیطان کی عبادت کی۔ (کیونکہ اللہ کی یہ عبادت رضا الہی کے لیے نہیں بلکہ ذاتی اعزاز و مفاد اور اغراض کے لیے ہے لہذا مردود ہے۔)

(بخاری)

لیکن شیطان کی عبادت، عبادت میں فرق و تفاوت ہے، کیونکہ اعمال میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں عامل یعنی کام کرنے والے کا دل، اس کی زبان اور اس کے اعضاء و جوارح سب برابر کے شریک ہوتے ہیں اور بعض کام ایسے واقع ہوتے ہیں کہ کرنے والے کا دل اور اس کی زبان اعضاء و جوارح کی مخالف ہوتی ہے۔

بعض لوگ ایک جرم کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کا دل اس پر خوش نہیں ہوتا اور وہ (اپنی زبان سے) اپنے رب سے مغفرت طلب کر رہے ہوتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کام بُرا ہے، فہو عبادة الشيطان بالاعضا الظاهرة، یہ (صرف) ظاہری اعضاء سے شیطان کی عبادت ہے، اور بعض لوگ گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ ان کا دل

خوش ہوتا ہے اور ان کی زبان بھی (اس گناہ کے ذکر و بیان سے) تر ہوتی ہے۔ (یہ ظاہر و باطن دونوں میں شیطان کے عبادت گزار ہیں) ۱

سبحان اللہ! کیا عجیب پر کیف و بصیرت افروز تقریر ہے، نفسِ شریر کی مکاریوں اور ابلیس لعین کی فریب کاریوں کو کس خوبی سے بے نقاب کیا گیا ہے۔

۶۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ (متوفی ۷۷۷ھ) رقم فرماتے ہیں:

وَالْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الذَّلِيلَةِ يُقَالُ طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ وَبَعِيرٌ مُعَبَّدٌ اِي مَذَلَّلٌ وَفِي الشَّرْعِ عِبَادَةٌ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَوْفِ ۲

عبادت کا معنی لغت میں ذلت ہے جیسے کہا جاتا ہے یعنی مُذَلَّل (ذلیل) اور شریعت میں عبادت نام ہے کمالِ محبت، انتہائی عاجزی اور خوف کے مجموعہ کا!

امام ابن قیم رحمہ اللہ نے عبادت کی تعریف یوں فرمائی ہے:

الْعِبَادَةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِعْتِقَادِ وَالشُّعُورِ بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سُلْطَةً غَيْبِيَّةً يَقْدِرُ بِهَا عَلَى النِّفْعِ وَالضَّرِّ فَكُلُّ تَنَاءٍ وَدُعَاءٍ وَتَعْظِيمٍ بِصَاحِبِهِ هَذَا الْإِعْتِقَادِ وَالشُّعُورِ فَهِيَ عِبَادَةٌ ۳

عبادت اس اعتبار اور شعور کا نام ہے کہ معبود کو ایک غیبی تسلط (وتصرف) حاصل ہے جس کی بناء پر وہ نفع و نقصان پر قدرت رکھتا ہے، پس ہر تعریف اور ہر پکار اور ہر تعظیم جو اس اعتقاد و شعور کے ساتھ کی جائے وہ عبادت ہے۔

عبادت کی اس تعریف سے بہت سے شبہات کا ازالہ ہو گیا۔ تعریف ہو یا پکار یا تعظیم یا کوئی اور فعل ہو، صرف وہی عبادت ہے جس میں محمود و مدعو اور معظّم ہستی کو غیبی طور پر متصرف و

۱۔ امام طلعیل بن عمرو مشقی معروف بہ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر، حدیث اور تاریخ تینوں فنون کے امام جلیل ہیں، "تفسیر ابن کثیر" ان کی بڑی معبر و مشہور تالیف ہے۔

۲۔ تفسیر ابن کثیر مطبوعہ مصر جزاؤں میں ۲۵، تفسیر اناک نعبد و اناک نستعین۔

۳۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ دین اسلام کے اکابر علماء و اعظم رجال میں سے ہیں۔ تفسیر، حدیث اور سیرت کے مسلمہ امام ہیں، کثیر تصانیف ہیں۔ اپنے شیخ، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرح بڑی عظمت، مقبولیت اور شہرت کے مالک ہیں۔ سن وفات ۷۵۰ھ ہے۔

۴۔ "مدارج السالکین" جلد ۴، ص ۴۰ (تفسیر جواہر القرآن" جلد اول ص ۸)

مقتدر مانا جائے۔ اسے مافوق الاسباب طاقت و قدرت اور تسلط و اقتدار کا مالک جانا جائے۔ اگر کسی معظّم و مکرم ہستی کو اس صفت سے متصف نہ مانا جائے تو نہ تو کسی کی حمد و ثنا، نہ کسی کی دعا پکار اور نہ ہی کسی کی تعظیم و تکریم عبادت میں داخل ہوگی، لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم، اولیاء اللہ کی حمد و ثنا اور ظاہری اسباب کے تحت کسی کو کسی کام کے لیے پکارنا جائز ہوگا، یہ شرک نہیں ہوگا۔

انواع عبادت: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
قولی عبادات، فعلی عبادات اور مالی عبادات

سب اللہ تعالیٰ کا حق ہیں۔

عبادات تین انواع پر مشتمل ہیں۔ اور یہ تینوں نوع اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ غیر اللہ کے لیے عبادت کی کوئی بھی نوع جائز نہیں۔ نہ قولی عبادت نہ فعلی عبادت اور نہ ہی مالی عبادت۔ مسلمان ہر نماز کے ہر دوگانہ میں تشہد کے اندر اعلان کرتا ہے کہ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ یعنی تمام عبادات قویہ و فعلیہ و مالیہ اللہ تعالیٰ کا حق ہیں۔ ارشاد فرمایا:

قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(پارہ ۸۔ انعام، ع ۴۰)

آپ کہہ دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادتیں اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔

عبادت کی ہر نوع اور ہر قسم اللہ ہی کے لیے ہے:

عبادت و عبودیت اور بندگی کی حقیقت ہے، انتہائی اُلفت و محبت اور انتہائی اعجاز و نیاز بدرجہ غایت تذلّل، حق یہ ہے کہ یہ اس ذات پاک واجب الوجود کا حق ہے جو بدرجہ غایت، صاحب کمال، ذوالجلال والا کرام، علی و عظیم، قادر و کریم، مالک الملک، سبحان و قدوس ہو، ہر حسن و صفت کے لحاظ سے کامل ہی کامل ہو، نقص و عیب سے پاک ہو، یکسر پاک!

نہ اس کی عظمت و کمال میں اس ذات بے مثال کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک! انسان کی طرف سے انتہائی خشوع، خضوع، اعجاز و نیاز اور بدرجہ غایت تذلّل و تعبد کا مظاہرہ اسی ذات ہی کے سامنے ہونا چاہئے جو ہر کمال و خوبی سے متصف اور ہر

عیب و نقص سے مبرا ہو۔

عبادت اور تعظیم و تکریم کی حدود باہم دگر
عبادت اور تعظیم میں فرق و امتیاز:

اس قدر قریب و پیوستہ ہیں کہ ان میں
امتیاز کرنے کے لیے نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ شریعت نے بعض دفع جائز و مباح ادب و
تعظیم پر بھی تعزیر قائم کر دی، مبادا افراط فی التعظیم کر کے لوگ عبادت کی حد میں داخل ہو کر شرک
کے مرتکب ہو جائیں۔

حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عظمتِ شان و جلالتِ قدر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
سے ثابت ہے۔ کاتبِ وحی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سید الانصار اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
سید المسلمین کا لقب دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ خلافتِ فاروقی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
کی طرح مرکزی مجلسِ شوریٰ کے عظیم رکن تھے۔ بایں ہمہ ایک دفعہ لوگ ادب اور تعظیم کے خیال
سے آپ کے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو
ایک کوڑا لگایا۔ انہوں نے فرطِ تعجب سے کہا ”خیر ہے؟“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”اَوْ مَا تَرَى
فِتْنَةً لِّلْمَتْبُوعِ وَمِذْلَةَ لِّلتَّابِعِ.“ ”تمہیں معلوم نہیں کہ یہ امر متبوع کے لیے فتنہ اور تابع کے
لیے ذلت ہے۔“ (مسند دارمی ص ۷۰) ۱

اللہ اللہ! اسلام بندگانِ خدا کی ادنیٰ سی ذلت کا بھی متحمل و روادار نہیں ہو سکتا، کیونکہ
عبادت انتہاءِ تذلل سے عبارت ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ بندہ اس حد تک بندے کی تعظیم کر سکتا
ہے کہ اس میں ذلت کی جھلک نہ ہو۔ کسی بزرگ کی تعظیم، اکرام، احترام سب جائز ہے، مگر اس
کے سامنے ادنیٰ ذلت کا مظاہرہ بھی ناروا و حرام ہے۔

گو کسی کے پیچھے چلنا جائز و مباح ادب و احترام کی حدود کے اندر ہے، مگر شریعت کا مزاج
اس بارے میں اتنا حساس اور نازک ہے کہ اس منظر کی تاب نہ لاسکا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
خلیفہ ارشد نے فتنہ کے خوف سے مشتعل ہو کر ایک انتہائی جلیل القدر شخصیت کو کوڑا رسید کر دیا۔
رضی اللہ عنہ و عنہما و عنہم اجمعین۔

۱ ”خلفائے راشدین“ مطبوعہ اعظم گڑھ ص ۱۳۸۔

الوہیت کے لوازم و خصائص اور عبادت کے اصول و قواعد

علم غیب، حضور و شہود، قدرت و اختیار

الوہیت کے لوازم و خصائص اور عبادت کے اصول و قواعد تین ہیں، تین بنیادوں یا ستونوں پر عبادت کی پوری عمارت قائم ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے استحقاق عبادت کو بیان فرمایا ہے تو انہی صفات کا اثبات فرما کر، اور غیر اللہ کی عبادت، دعا، پکار سے منع فرمایا ہے تو ان صفات کی نفی فرما کر۔ جس میں ان صفاتِ ثلاثہ کا فقدان ہے، اس میں عبادت کی صلاحیت کجا؟ علیٰ ہذا کوئی مشرک کسی کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس اعتقاد و شعور اور ایمان یقین کے ساتھ کہ:

۱۔ وہ معبود عالم الغیب ہے، یعنی میرے دکھ درد کو جانتا ہے۔ اسے میری مصیبت اور تکلیف کا..... خواہ وہ کہیں ہے اور میں کہیں..... خوب علم ہے۔ اسی طرح جو بھی اسے پکارے اس کے حالات و مصائب سے وہ باخبر ہے۔ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر منکشف ہے۔ اور دنیا کی کوئی بات، جہاں کا کوئی راز اس سے مخفی و پوشیدہ نہیں۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کے ظاہر و باطن سے وہ بخوبی آگاہ ہے۔

۲۔ وہ معبود ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ جہاں بھی میں اسے پکاروں وہ میری پکار کو سنتا ہے، میری تکلیف کو دیکھتا ہے، اور موقع پر میری مشکل کو حل اور میری حاجت روا کر دیتا ہے، میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو کندھا دے کر کنارے لگا دیتا ہے۔

۳۔ وہ معبود قدرت و اختیار رکھتا ہے۔ مالک و مختار اور متصرف فی الامور ہے۔ نفع نقصان کا مالک ہے۔ میری تکلیف میرا دکھ درد دور کرنے پر قادر ہے۔ اقتدارِ اعلیٰ کا مالک ہے۔ ہر مشرک بنیادی طور پر یہ تین احساسات و عقائد رکھتا ہے۔

۱۔ مشرکین سابقین کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رقمطراز ہیں:

وَقَالُوا هَؤُلَاءِ يَسْمَعُونَ وَيُبْصِرُونَ وَيَشْفَعُونَ لِعِبَادِهِمْ وَيُنْبِئُونَ أُمُورَهُمْ

وَيَنْصُرُونَهُمْ

مشرکین کہتے ہیں کہ یہ معبود سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے پجاریوں کی سفارش کرتے ہیں، ان کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔

(”حجۃ اللہ البالغہ“ جلد اول ص ۱۰۸)

۲۔ خاتم المفسرین حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: (”روح المعانی“ آیت الوسیلۃ)

وَلَا أَرَى أَحَدًا مِمَّنْ يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَدْعُوَ الْحَيَّ الْغَائِبَ الْمَيِّتَ الْمَغِيبَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ أَوْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَيَقْدِرُ بِالذَّاتِ أَوْ بِالغَيْرِ عَلَى جَلْبِ الْخَيْرِ وَدَفْعِ الْأَذَى وَالْأَلْمَا دَعَاؤُهُ وَلَا فَتَحَ فَاؤُهُ.

غیر اللہ حضرات اولیاء کو پکارنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی میں نے نہیں دیکھا مگر یہ کہ وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جس کو وہ پکار رہا ہے خواہ وہ زندہ ہے مگر ناموجود! یا وفات یافتہ ہے، کہیں (دور) غائب، وہ غیب کا علم رکھتا ہے یا پکار کو سنتا ہے اور نفع پہنچانے اور (نقصان) یا تکلیف سے بچانے کی طاقت و قدرت رکھتا ہے خواہ ذاتی طور پر اور خواہ عطائی طور پر..... اگر اس کا یہ عقیدہ نہ ہوتا تو نہ تو یہ اسے پکارتا اور نہ منہ کھولتا۔

۳۔ خاتم المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی (متوفی ۱۲۳۹ھ)

عقائد باطلہ شرکیہ کے تذکرہ میں تحریر فرماتے ہیں:

وَأَنْبِيَاءُ وَمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَاللَّوْازِمَ الْوَهِيَّتِ أَيْ عِلْمِ الْغَيْبِ وَشَنِيدِنَ فَرِيَادِ هُرْكَسٍ وَهَرَجَا وَقُدْرَتِ بَرِّ جَمِيعِ مَقْدُورَاتِ ثَابِتِ كَنْدِ.

(تفسیر عزیزی پارہ اول)

حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے لیے لوازم الوہیت ثابت کرے علم غیب اور ہر شخص کی ہر جگہ فریاد سننا اور تمام مقدورات پر قدرت و اختیار رکھتا ہے۔

بہر حال الوہیت کے لوازم اور عبادت کے اصول یہی تین ہیں، علم غیب، حضور و شہود یعنی

ہمہ وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اور قدرت و اختیار۔

غیب و قدرت: حضور و شہود یعنی حاضر و ناظر ہونے کا مقصد سننا دیکھنا ہے، علم رکھنا ہے، تو اس طرح تین کی بجائے دو صفات لوازم و شرائط معبودیت و الوہیت ہوں گی، چنانچہ زیادہ تر انہی دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: (تفسیر "جامع البیان" جلد ۷ ص ۷۷۷.....)

لَا نَهْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَبًّا إِلَّا مَنْ لَهُ مَلِكٌ كُلُّ شَيْءٍ وَبِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ
وَمَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَذَلِكَ هُوَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ.

کیونکہ رب تو صرف وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہو اور ہر چیز کا (اختیار) اس کے ہاتھ میں ہو اور جس پر کوئی پوشیدہ چیز بھی مخفی نہ ہو۔ ان صفات والا اللہ ہے جس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔

تفسیر کبیر میں بھی ہے:

إِعْلَمُ أَنَّهُ تَعَالَى لِمَا بَيْنَ أَنْهُ الْمَخْتَصُّ بِالْقُدْرَةِ فَكَذَلِكَ بَيْنَ هُوَ
الْمَخْتَصُّ بِعِلْمِ الْغَيْبِ.

جان لے! کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قدرت اس کی مخصوص شان ہے۔ اسی طرح بیان فرمایا کہ علم غیب بھی اسی کا خاصہ ہے۔

علم غیب!

علم غیب، علم کُل، علم محیط و علم بسیط خاصہ خدا ہے۔ اَللّٰهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ کے سوا نہ کسی کو علم غیب ہے نہ علم کُل، ہر کسی کا علم محدود ہے، غیر محدود و محیط علم ایک اللہ رب العزت کا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم قرآن حکیم میں اپنے علم کی وسعت و بیکرانی اور کلیت و ہمہ گیری سے متعلق نہایت بسط و تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور بار بار متعدد اسلوب و انداز سے اپنی ذات واحد کے لیے علم غیب و علم کُل کا جو اثبات فرمایا ہے اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

انداز

علم غیب

بار آیا ہے	۲	(پورے قرآن میں)	۱۔ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.
۱۱	۳	۱۱	۲۔ عَلَامُ الْغُيُوبِ.
۱۱	۲	۱۱	۳۔ عَالِمُ الْغَيْبِ.
۱۱	۶	۱۱	۴۔ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ.
۱۱	۱	(یونس ع ۲)	۵۔ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ.
۱۱	۱	(نمل ع ۵)	۶۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ.
۱۱	۱	(انعام ع ۷)	۷۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ.
	۲۵	میزان =	

۱۔ الغیب ہر وہ چیز جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہو، اس پر غیب کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی غیب بمعنی قائب ہے اور کسی چیز کو غیب یا قائب لوگوں کے لحاظ سے کہا جاتا ہے، ورنہ باری تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔
 ("مفردات القرآن" امام رافع استنباطی، لفظ الغیب)

۲۔ سورہ انعام ع ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، رعد ع ۲، مومن ع ۵، زمر ع ۵، اسجد ع ۱، آخر حشر، خاتمہ تخبین، صرف اعراب میں فرق ہے۔

۳۔ آخر جن اور سہاء ع اول، اعراب میں فرق ہے۔

۴۔ سورہ بقرہ ع ۳، نمل ع ۱۱، کہف ع ۳، فاطر ع ۵ اور حجرات میں الفاظ کے تغیر کے ساتھ

انداز ۱ علمِ کل

۱۶	(پورے قرآن میں)	۱- اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
۳	" "	۲- اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
۱	(یس ع ۵)	۳- وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
۱	(انبیاء ع ۶)	۴- وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ
۳	(آخر جن، یس ع ازل)	۵- وَآخِضَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

میزان = ۲۵ بار

انداز ۲ علمِ محیط

۳	(آل عمران ع ۱۲، نساء ع ۱۶)	۱- اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
۱	(ہود ع ۸)	۲- اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
۱	(آخر طلاق)	۳- وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
۱	(نساء ع ۱۸)	۴- وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا
۱	(آخر سورہ جن)	۵- وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

میزان = ۷ بار

- ۱۔ بقرہ ع ۳، ۲۹، ۳۹، خاتمہ نساء، خاتمہ انفال، توبہ ع ۱۳، مائدہ ع ۱۳، انعام ع ۱۳، عنکبوت ع ۶، شورہ ع ۲، نور ع ۵، خاتمہ نور، حجرات ع ۲، حدید ع ۱، اول اور مجادلہ ع ۱۲، ادنیٰ تغیر الفاظ کے ساتھ۔
- ۲۔ نساء ع ۵، احزاب ع ۵، فتح ع ۳، ادنیٰ تغیر کے ساتھ۔
- ۳۔ الفاظ میں فرق ہے۔
- ۴۔ محیط: ہر طرف سے گھیر لینے والا، احاطہ میں لینے والا۔ یعنی ہر چیز کا کل علم۔
- ۵۔ ادنیٰ تغیر الفاظ۔

انداز

علم وسیع و بسیط

۱. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. (مومن، رکوع اول) ابار
۲. وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. (انعام، ع ۹، ط ۵، اعراف ع ۱۱) ۳ بار
۳. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ (پ ۱، انعام ع ۷)
- اور وہ بروبحر کی تمام چیزوں کو جانتا ہے اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر یہ سب کتاب مبین (لوح محفوظ) میں ہے۔
- ابار
- یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ علمی میں ہے، خشکی تری، زمین آسمان کی کوئی چیز بھی اس کے علم محیط و بسیط سے باہر نہیں۔

۴. اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَن أَسْرَأَ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝
- (پارہ ۱۳۔ رعد، ع ۲)

اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل ہوتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی بیشی ہوتی ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک خاص اندازے پر ہے۔ وہ تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالی قدر ہے۔ تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کرے یا جو پکار کر کہے اور جو شخص رات کو کہیں چھپ جائے اور جو دن میں چلے پھرے یہ سب (خدا کے علم میں) برابر ہیں۔

۵. يَسْتَأْذِنُ بَيْنَ يَدَيْهَا إِنَّ تَكَ مِنْ مِّثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ (لقمان، ع ۲)

۱۔ بسیط: وسیع، کشادہ، پھیلا ہوا (المنجد) یعنی جس سے کوئی چیز باہر نہ ہو۔ ۲۔ صرف ایک لفظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔

اے میرے بیٹے! اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو، یا آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر، (تب بھی) اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین، باخبر ہے۔

۶. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

(پارہ ۱۱- یونس، ع ۷ و پارہ ۲۲- شروع سہا)

اور آپ کے رب (کے علم) سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں، اور نہ کوئی اس (ذرہ) سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر یہ سب (بوجہ احاطہ علم الہی) کتاب مبین میں ہے (یعنی لوح محفوظ میں ہے)۔

۷. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. (پارہ ۲۰ نمل رکوع ۶)

اور آسمان و زمین میں ایسی کوئی چیز مخفی نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو۔

۸. إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ

مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۖ

(پارہ ۲۵ شروع و پارہ ۲۲- قاطر ع ۲)

قیامت کا علم خدا ہی کی طرف پھیرا جاتا ہے اور کوئی پھل اپنے خول میں سے نہیں

نکلتا اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب اللہ کے علم سے

ہوتا ہے۔

میزان = ۱۳ بار

انداز ۵

آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ سب جانتا ہے!

- ۱- يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. (حکوت ع ۶، تغابن رکوع اول) ۵ بار آتا ہے
- ۲- وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. (بنی اسرائیل) ۱ " "
- ۳- قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. (انبیاء ع ۱) ۱ " "

۱ بارلی تغیر الفاظ۔ ۲ آل عمران ع ۳، مائدہ ع ۱۱۳ اور حج ع ۹ میں تموزے سے فرق کے ساتھ ہی الفاظ ہیں۔

۴۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

۱۱ ۱۱ ۲ (ابراہیم ع ۶، آل عمران ع ۱)

۵۔ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. (فرقان رکوع اول)

۶۔ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. (سہار رکوع اول، حدید رکوع اول)

جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے (مثلاً بارش، پانی) اور جو چیز اس

میں سے نکلتی ہے (مثلاً نباتات، معدنیات) اور جو کچھ آسمان سے اترتا

ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے۔

۱۱ ۱۱ ۲
میزان = ۱۲ بار

اندازے

متقین و ظالمین، مصلحین و مفسدین، مہتدین و مصلحین

اور شاکرین و معتدین اللہ سب کو جانتے ہیں!

۱۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. (آل عمران ع ۱۲، توبہ ع ۷) ۲ بار آیا ہے

۲۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. (نجم ع ۲) ۱ ۱۱ ۱۱

۳۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. (بقرہ ع ۱۱، آل عمران ع ۷، توبہ ع ۷، جمعہ ع ۱۱ اور انعام ع ۷) ۵ ۱۱ ۱۱

۴۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. (آل عمران ع ۶، یونس ع ۳) ۲ ۱۱ ۱۱

۵۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ (انعام ع ۱۳، نحل ع ۱۶، قلم ع

۵) سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. (اول حصہ ع ۶، نجم ع ۲) ۵ ۱۱ ۱۱

۶۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. (انعام ع ۱۳) ۱ ۱۱ ۱۱

۷۔ (انعام ع ۶، بقرہ ع ۲۷ اور بنی اسرائیل ع ۹ میں شاکرین وغیرہ کے

متعلق یہی مضمون ہے)

میزان = ۱۹ بار

۱۔ علیم کی جگہ اعلم ہے۔ ۲۔ بادل فی تغیر الفاظ۔ ۳۔ مَنْ یَضِلُّ کی جگہ بِمَنْ ضَلَّ ہے۔ ۴۔ آیت کا صرف

آخری حصہ ہے۔ ۵۔ بِالْمُهْتَدِينَ کی جگہ بِمَنْ اهْتَدَى ہے۔

اندازے

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ

(تمہارا پروردگار تم سب کا حال خوب جانتا ہے)

- ۱- رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ (نہی اسرائیل ع ۶) ۱ بار آیا ہے
- ۲- قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ (نور آخر سورہ) ۱ " "
- ۳- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ (نساء ع ۴، متحدہ ع ۲) ۲ " "
- ۴- وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ (نساء ع ۷) ۱ " "
- ۵- إِنَّ رَبِّي بَلِيدٌ عَلِيمٌ (یوسف ع ۷) ۱ " "
- ۶- وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبِكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (سورہ محمد ع ۲) ۱ " "
- ۷- وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (نساء ع ۶) ۱ " "
- ۸- سورہ توبہ ع ۶، نور ع ۹، عنکبوت ع ۴، احزاب ع ۲، شوری ع ۴ اور خاتمہ ق میں بھی یہی مضمون ہے۔ ۶ " "

میزان = ۱۴ بار

اندازے

اللہ دلوں کے راز جانتا ہے!

- ۱- وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (پورے قرآن میں) ۱۴ بار آیا ہے
- ۲- يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (مومن ع ۴) ۱ " "
- ۳- وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُورُهُمْ وَمَا يَعْلَمُونَ (احزاب ع ۶، نساء ع ۹) ۲ " "
- ۴- وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ (احزاب ع ۶، نساء ع ۹) ۲ " "
- ۵- اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ (نہی اسرائیل ع ۳) ۳ " "
- ۶- بقرہ ع ۳۰، فتح ۱۳ اور ق ع ۲ میں بھی یہی مضمون ہے۔ ۳ " "

میزان = ۲۳ بار

۱- ایک لفظ میں فرق ہے۔ ۲- آل عمران ع ۱۶، حدید رکوع اول، تغابن رکوع اول، آل عمران ع ۱۴، مائدہ ع ۴، انفال ع ۵، ہود ع ۱، لقمان ع ۳، طہ رکوع آخر، زمر ع اول، شوری ع ۳، اور ملک رکوع اول ادنیٰ فرق کے ساتھ۔ ۳- نمل ع ۶، قصص ع ۷، ۲۵ الفاظ میں فرق ہے۔

انداز ۹

اللہ ظاہر و باطن، خفی و جلی، اور عیاں و نہاں سب جانتا ہے

- ۱- اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔
 ۲- وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔
 ۳- اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى۔ (پارہ ۳۰، اعلیٰ، طبع اول)
 ۴- وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔
 ۵- اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ (آخر انبیاء)
 ۶- يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ (انعام ع ۱)
 ۷- آل عمران ع ۳ و ۱۷، مائدہ ع ۹، توبہ ع ۱۰، ابراہیم ع ۶، بنی اسرائیل ع ۵، محمد ع ۳ اور متحدہ ع اول میں بھی یہی مضمون ہے۔
 ۸

میزان = ۲۲ بار

انداز ۱۰

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
 (اللہ تعالیٰ ان سب کے اگلے پچھلے احوال کو خوب جانتا ہے)

اللہ اگلے پچھلے سب حالات جانتا ہے:

- ۱- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔
 ۲- قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ۔ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ۔ (بقرہ ع ۳۳، طبع ۶، انبیاء ع ۱۲ اور حج ع آخر)
 ۱ (طبع ۲)

۱ بقرہ ع ۹، ہود رکوع اول، نحل ع ۳، اور یس رکوع آخر الفاظ میں فرق ہے۔

۲ تقابین رکوع اول، نحل ع ۲، نمل ع ۲، الفاظ میں فرق ہے۔ ۳ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔

۳ مائدہ ع ۱۳، بقرہ ع ۲، بقرہ ع ۲، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک لفظ زیادہ ہے۔

۳۔ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجْنَةٌ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ.

۱۱ ۱۱

اور وہ تم کو (اس وقت سے خوب جانتا ہے جب تم کو زمین سے پیدا کیا تھا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بنے تھے۔

۱۱ ۱۱

میزان = ۶ بار

انداز ۱۱

فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ.

(بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے)

اللہ تعالیٰ سب اعمال خیر کو جانتا ہے:

۱۱ ۱۱ ۵

۱۔ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيْمٌ.

۱۱ ۱۱ ۱

۲۔ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ. (بقرہ ع ۳)

میزان = ۶ بار

انداز ۱۲

اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ:

(بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھے والا، انہیں دیکھنے والا ہے)

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں اور ان کے گناہوں کی خبر ہے:

۱۱ ۱۱ ۳

۱۔ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا (بنی اسرائیل ع ۱۱۱، فاطر ع ۳، شوریٰ ع ۳) بار آیا ہے

۱۱ ۱۱ ۱

۲۔ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبٍ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا. (بنی اسرائیل ع ۲)

۱۱ ۱۱ ۱

۳۔ وَكَفٰى بِهِ بِذُنُوْبٍ عِبَادِهِ خَبِيْرًا. (فرقان ع ۵)

میزان = ۶ بار

۱۔ بقرہ ع ۲۵ و ۲۶ و ۳۷، آل عمران ع ۱۰ و نساء ع ۱۹، ایک دو لفظوں میں معمولی سا فرق ہے۔

۲۔ ۳ تھوڑے سے تغیر الفاظ کے ساتھ۔

انداز ۱۳

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

(اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں)

اللہ تعالیٰ کو سب اعمال و افعال کا علم ہے:

- | | | | | |
|----|--|--------------------------------|---|------------|
| ۱۔ | وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. | (پورے قرآن میں) | ۳ | بار آیا ہے |
| ۲۔ | إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. | (نحل ع ۴) | ۱ | " " |
| ۳۔ | فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. | (حج ع ۹، شعراو ع ۱۰) | ۲ | " " |
| ۴۔ | وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. | (محمد ع ۴، انعام ع ۷، رعد ع ۶) | ۳ | " " |
| ۵۔ | إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. | (یونس ع ۴، نحل ع ۱۳) | ۷ | " " |
| ۶۔ | وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ. | (یوسف ع ۹، مومنون ع آخر) | ۲ | " " |

میزان = ۱۹ بار

انداز ۱۴

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

(اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں)

اللہ کو سب اعمال کی خبر ہے:

- | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|------------|
| ۱۔ | وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. | | | |
| ۲۔ | وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. | (بقرہ ع ۳۰، بقرہ ع ۳۷، آل عمران ع ۱۸، حدید ع اول، مجادلہ ع اول اور تغابن ع اول) | ۷ | بار آیا ہے |
| ۳۔ | إِنَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ خَبِيرٌ. | (یوسف ع ۴، نور ع ۷، حشر ع ۳) | ۷ | " " |
| ۴۔ | إِنَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ خَبِيرٌ. | (یہود ع ۱، لقمان ع ۳، احزاب ع اول اور فتح ع ۲) | ۴ | " " |

۱۔ بقرہ ع ۳۹، نور ع ۴، یوسف ع ۲ اور مومنون ع ۴، بادلئی تغیر الفاظ۔ ۲۔ ایک دو لفظوں میں فرق ہے۔ ۳۔ نور ع ۶، حکمت ع ۵، طاہر ع ۲، زمر ع ۷ و شوریٰ ع ۳ ۴۔ بادلئی تغیر کے ساتھ۔ ۵۔ ایضاً۔ ۶۔ ایضاً۔

- ۴۔ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۔
 (نور ع ۴، نمل ع ۷) ۲ ۱۱ ۱۱
- ۵۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا۔
 (نساء ع ۱۳، نور ع ۱۹، نور ع ۲۰) ۳ ۱۱ ۱۱
- میزان = ۲۳ بار

انداز ۱۵

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍۭ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۔
 (اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہیں)

اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال سے بے خبر نہیں:

- ۱۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍۭ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۔ (بقرہ ع ۹، ۱۰، ۱۶، ۱۸، آل عمران ع ۱۰) ۵ بار آیا ہے
- ۲۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍۭ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ۔ (بقرہ ع ۱۷، انعام ع ۱۶) ۲ ۱۱ ۱۱
- ۳۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍۭ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ۔ (ہود آخری آیت، نمل آخری آیت) ۲ ۱۱ ۱۱
- ۴۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًاۙ عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ۔ (ابراہیم آخری رکوع) ۱ ۱۱ ۱۱
- میزان = ۱۰ بار

انداز ۱۶

مختصر انداز محض دو الفاظ میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت علم کو جو بیان فرمایا ہے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو:

- ۱۔ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ كَاۡرِشَادٍۭ قُرْاٰنِ كَرِيْمٍۭ فِيْ قُرْبٰۤا..... مقامات پر ہے
- ۲۔ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌۙ اَوْ عَلِيْمًا حَكِيْمًاۙ اَوْ الْعَلِيْمِ الْحَكِيْمِۙ اَوْ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌۙ اَوْ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌۙ اَوْ الْحَكِيْمِ الْعَلِيْمِۙ اَوْ الْحَكِيْمِ الْخَبِيْرِۙ اَوْ حَكِيْمٌ خَبِيْرٌۙ كَمُ وَبِشْ..... ۲۰ مقامات پر ہے
- ۳۔ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌۙ اَوْ الْعَلِيْمِ الْقَدِيْرِۙ اَوْ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِۙ اَوْ الْخَلٰقِ الْعَلِيْمِۙ اَوْ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌۙ اَوْ عَلِيْمًا حَلِيْمًاۙ اَوْ شَاكِرًا عَلِيْمًاۙ اَوْ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌۙ وَغِيْرَهُ..... ۱۹ مقامات پر ہے
- ۴۔ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌۙ اَوْ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِۙ كَمُ وَبِشْ..... ۲۸ مقامات پر ہے
- میزان = ۹۴ بار

۱۔ ایضاً۔ ۲۔ ایضاً۔ ۳۔ ایضاً۔ صرف ایک لفظ میں فرق ہے۔

اندازے کا

قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

(ارشاد فرمایا بیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے)

اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا

فرشتوں سے فرمایا:

- ۱۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. (بقرہ ع ۴) ۱ بار آیا ہے
- ۲۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (بقرہ ع ۲۶، آل عمران ع ۷، نور ع ۲، نحل ع ۱۰) ۵ " "
- ۳۔ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. (توبہ ع ۳۳ و انفال ع ۸) ۲ " "
- ۴۔ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. (ابراہیم ع ۲) ۱ " "
- ۵۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. (مدثر رکوع اڈل) ۱ " "
- ۶۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا. (نوح ع ۴) ۱ " "

میزان = ۱۱ بار

اندازے کا

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ.

(آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم (خاص) اللہ کو ہے)

قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں

- ۱۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ. (اعراف ع ۲۳ و احزاب ع ۸ و اعراف ع ۴۳) ۳ بار آیا ہے
- ۲۔ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. (لقمان آخر سورہ، آخر زخرف ع ۲) ۲ " "
- ۳۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ. (ملک ع ۲) ۱ " "
- ۴۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. (التاؤت ع ۲) ۱ " "

میزان = ۷ بار

۱۔ واللہ کی جگہ اِن اللہ ہے۔ ۲۔ الفاظ میں معمولی سا فرق ہے۔ ۳۔ اللہ کی جگہ ربی ہے۔ ۴۔ اِن اللہ کی جگہ وہ ہے۔

خلاصہ: جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اٹھارہ مختلف اُسلوب و انداز سے ۳۳۱ بار اپنے لیے صفتِ علم کا بیان اور علمِ غیب، علمِ کُل، علمِ محیط اور علمِ بسیط کا اثبات فرمایا ہے، وہاں اپنے سوا کسی برگزیدہ سے برگزیدہ مخلوق کسی فرشتہ یا ولی یا نبی حتیٰ کہ امام الانبیاء والمرسلین حضرت ملیّہ علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ بھی اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ بلکہ اُلٹا ان سے علمِ قیامت وغیرہ علوم کی نفی کی ہے، علیٰ ہذا تمام ماسوی اللہ کے لیے علمِ غیب کی نفی فرمائی۔

تمام ماسوی اللہ سے علمِ غیب کی نفی

اپنے محبوب و مقبول رسول اللہ ملیّہ علیہ السلام کی زبان پاک سے اعلان کرایا، فرمایا:

۱. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. (پارہ ۲۰۰۔ نمل ۵۷)
آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں (ان میں سے) کوئی بھی غیب نہیں جانتا۔ بجز اللہ تعالیٰ کے۔

ارض و سماء، زمین و آسمان کی کوئی خاکی، نوری یا ناری مخلوق ”الغیب“ نہیں جانتی، غیب اگر جانتا ہے تو صرف ایک اللہ جانتا ہے۔ علمِ غیب خاصہ خدا ہے۔

کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو خود اس ذات اقدس ملیّہ علیہ السلام کے لیے علمِ غیب کا اِذعَاءِ باطل کرتے ہیں، جن کی زبان پاک سے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کرایا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا، مگر اللہ!..... تو عالم الغیب ہونے کی صفت اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے۔ یہ صفت کسی مخلوق کے لیے ثابت نہیں۔ ارشاد فرمایا:

۲. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. (پارہ ۷۔ انعام، ۶۷)

اور غیب کی کنجیاں (یا خزانے) اللہ ہی کے پاس ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا تو غیب کے خزانے اور کنجیاں سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور کسی کو ان تک رسائی نہیں۔ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اس کے سوا اور کسی کو غیب کا علم نہیں۔

نہی کریم ﷺ بھی عالم الغیب نہیں: منصب رسالت کے فرائض و وظائف... انذار و تبشیر... کی ادائیگی و سرانجامی کے

لیے نہ تو ملک و اختیار کی ضرورت ہے اور نہ ہی علمِ غیب کی۔ یہ دونوں صفات ذات پاک رب

العزت کے لیے خاص ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے ان دونوں صفتوں کی نفی فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

۳. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ج وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ ج إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ (پارہ ۹۔ اعراف، ع ۲۳)

آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے (بھی) نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی مضرت مجھے مس نہ کرتی۔ میں تو محض اہل ایمان کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔

علمِ قیامت کے ساتھ چند اور علوم کی تمام نفوس و ذوات سے نفی ہو رہی ہے۔ ارشاد فرمایا:

۴. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَأْتِي تَارَةً ط إِنْ
اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. (آخر لقمان)

بیشک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی مینہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بیشک اللہ سب باتوں کا جاننے والا، سب خبر رکھنے والا ہے۔

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے: ان پانچ باتوں کو نہ تو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی برگزیدہ نبی، اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ ان میں سے کوئی بات جانتا ہے تو اس نے قرآن کا انکار کیا کیونکہ قرآن کی مخالفت کی، هَذِهِ خَمْسَةٌ لَا يَعْلَمُهَا
مَلَكٌ مُّقْرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّصْطَفَى فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ يَعْلَمُ شَيْءًا مِنْ هَذِهِ فَإِنَّهُ
كَفَرَ بِالْقُرْآنِ لَأَنَّهُ خَالَفَهُ ۱

ب۔ حضرت اُمّ المؤمنین سیدہ صدیقہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

۱۔ خازن مطبوعہ معر، جلد ۳ صفحہ ۴۲۵، تفسیر ان اللہ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.
خازن علامہ علاؤ الدین بغدادی (متوفی ۷۲۵ھ) کی مشہور تفسیر ہے۔

جس نے تجھے خبر دی کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے رب کو دیکھا یا کلام اللہ میں سے کوئی بات چھپالی۔

أَوْ يَعْلَمُ الْخُمُسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ... فَقَدْ اعظم الفرية.

یا پانچ باتیں جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ عیندہ علم الساعة میں فرمائی ہیں تو اس نے بہت ہی بڑا افتراء کیا۔ (ترمذی)

ج۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ.

جو تجھ سے بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لا تدركه الابصار، اور جس نے تجھ سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو بیشک اس نے جھوٹ بولا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لا يعلم الغيب الا الله.

د۔ اور بروایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ سَأَلَكَ الْغَيْبَ خُمْسًا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، لَا يَعْلَمُ مَا فِي بَيْتِ اللَّهِ وَمَا يَعْلَمُ مَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تُدْرِكُ نَفْسٌ بَأْسَ أَرْضٍ تَمُوتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ.

غیب کی پانچ باتیں ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جو رحم میں ناکمل ہے ساقط ہوتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی یہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں اُمرے گا اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے کہ قیامت کب ہوگی۔

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب رویہ اللہ تعالیٰ۔ صحیح بخاری کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ عالم الغیب۔

۲۔ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورہ رعد۔

صرف پانچ باتوں کا نہیں بلکہ کسی غیب کی بات کا بھی کسی کو علم نہیں:

یہاں یہ مراد نہیں کہ صرف ان پانچ باتوں کا علم اللہ کے سوا دوسرے کسی کو نہیں اور ان کے علاوہ دوسری غیب کی باتوں کا علم لوگوں کو ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ غیب کی کسی بات کا بھی کسی کو کوئی علم نہیں۔

یہاں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب اور صحیح بات فرمائی ہے کہ: جب قیامت کے وقت کی خبر کسی کو نہیں جس کا آنا بہت مشہور اور نہایت یقینی ہے تو اور کسی چیز کے ہونے کی خبر کسی کو کیا ہوگی، جیسے کسی کی فتح، شکست، بیماری، تندرستی وغیرہ، کہ یہ باتیں نہ تو قیامت کے برابر مشہور ہیں نہ ویسی یقینی!

اسی طرح مینہ پڑنے کے وقت کی خبر کسی کو نہیں حالانکہ اس کا موسم معلوم ہے، اور نبی، ولی، بادشاہ، حکیم سارے اس کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ پھر ایسی چیزوں کا علم کسی کو کیا ہوگا جن کا نہ تو موسم معلوم ہے اور نہ سب لوگ مل کر ان کی خواہش رکھتے ہیں، مثلاً مرنا، جینا، اولاد کا ہونا، یا غنی یا فقیر ہونا۔ اسی طرح جب کسی کو یہ علم نہیں کہ مادہ ۳ کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ؟ ایک ہے یا دو، کامل ہے یا ناقص، خوبصورت ہے یا بدصورت، حالانکہ حکیم لوگ ان سب چیزوں کے اسباب لکھتے ہیں، تو آدمی کے دل و دماغ میں اور مخفی چیزوں کا کسی کو کیا علم ہوگا، مثلاً خیالات، ارادے، اور نیتیں اور ایمان اور نفاق۔

اسی طرح جب کسی کو اپنا حال معلوم نہیں کہ کل کیا کرے گا تو وہ دوسرے کے حالات کا علم کیسے رکھ سکتا ہے۔

اسی طرح جب کسی کو اپنی موت کا علم نہیں کہ کس جگہ آئے گی تو دوسروں کی موت و حیات، وغیرہ کا کسی کو کیا علم ہوگا۔

غرض کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ آئندہ کی بات اپنے اختیار سے نہیں جان سکتا۔^۱

۱۔ ”تقویۃ الایمان“ فصل دوم شرک فی العلم کی برائی۔ ”تقویۃ الایمان“ توحید کی حقیقت اور شرک کی مذمت میں حضرت شہید رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق تالیف ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے حضرت شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر محدث دہلوی کے بھتیجے اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔

۵. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ج
(پارہ ۳- آیۃ الکرسی)

(اللہ تعالیٰ) جانتا ہے جو کچھ خلقت کے زور و رو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ سب اس کے معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر جتنا وہی چاہے اللہ تعالیٰ کا علم محیط اور کامل ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کا بھی علم کامل اور محیط نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جس قدر علم دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔

۶. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. (پارہ ۱۶- ظہ، ع ۶۷)
اللہ تعالیٰ ان سب کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے اور اس کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا۔

خدا کا علم ساری مخلوق کو محیط ہے۔ اور کسی کا علم اللہ رب العزت کی ذات کا یا اس کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کا علم محدود ہے اور اتنا ہے جتنا اللہ رب العزت نے کسی کو دیا ہے۔

اطلاع علی الغیب: علم غیب تو کسی کو حاصل نہیں، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی مخلوق کی ان تک رسائی اور دسترس نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو بعض غیوب پر مطلع فرمادیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ.

(پارہ ۴- آل عمران ع ۱۸۷)

اور اللہ تعالیٰ تم کو غیب پر مطلع نہیں کرتے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہیں منتخب فرمالیتے ہیں۔

عام لوگوں کو بلا واسطہ کسی غیب پر اطلاع نہیں دی جاتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کو غیب کی جس بات پر چاہیں اطلاع دے دیتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ

اسلامی حکومت کے قیام کی مسلح جدوجہد میں سکھوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اپنے شیخ سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کے ساتھ بالاکوٹ ضلع ہزارہ میں ۲۴ ذی قعدہ ۱۲۳۶ھ کو جام شہادت نوش کیا۔ رحمہم اللہ۔

يَسْئَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝
 (اللہ) عالم الغیب ہے، سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو تو اس کے آگے اور پیچھے محافظ (فرشتے) چلاتا ہے۔

تو غیب حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ اپنے برگزیدہ و پسندیدہ رسولوں کو اپنے غیب کی جس بات پر چاہے اطلاع دے دیتا ہے۔ اور یہ اطلاع بذریعہ وحی ہوتی ہے اور وحی کے ساتھ فرشتوں کا چوکی پہرہ ہوتا ہے۔

غیب کیا ہے اور کیا نہیں: ۱۔ الحافظ العلامة الحبر المحقق حضرت مولانا عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ (المتوفی ۱۳۴۰ھ) ”شرح عقائد“ کی شرح میں رقم فرماتے ہیں کہ: مسئلہ علم غیب میں عوام کے لیے بحث متشع نہیں۔

وَالْتَحْقِيقُ أَنَّ الْغَيْبَ مَا غَابَ عَنِ الْحَوَاسِ وَالْعِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالْعِلْمِ
 الْإِسْتِدْلَالِيِّ وَقَدْ نَطَقَ الْقُرْآنُ بِنَفْيِ عِلْمِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ تَعَالَى فَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ يَعْلَمُهُ
 كَفَرَ وَمَنْ صَدَّقَ الْمُدَّعِي كَفَرَ وَأَمَّا مَا عُظِمَ بِحَاسَةِ أَوْ ضَرُورَةٍ أَوْ دَلِيلٍ فَلَيْسَ
 بِغَيْبٍ وَلَا كُفْرٌ فِي دَعْوَاهُ وَلَا فِي تَصَدِيقِهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ ۱

تو غیب وہ ہے جو حواسِ ظاہری سمع و بصر سے غائب ہو اور علم ضروری وحی و الہام اور علم استدلالی علامات و دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو۔ کتاب اللہ اور ارشادات و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے سوا جس علم غیب کی نفی فرمائی گئی ہے وہ یہی علم غیب ہے اور اس کا مدعی و مصدق بالاتفاق کافر ہے۔ لیکن جو امور سمع و بصر سے محسوس و مدرک ہوں یا وحی یا الہام یا علامات و دلائل سے معلوم ہوں وہ غیب نہیں اور نہ ہی ان سے متعلق علم، علم غیب ہے، مثلاً حضرات انبیاء علیہم السلام یا حضرات اولیاء اللہ کی پیش گوئیاں یا خبریں علم غیب میں داخل نہیں کیونکہ یہ وحی و الہام سے مستفاد ہیں، لہذا ان کا مدعی و مصدق کافر نہیں۔

۲۔ نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات متعلقہ غیب سے متعلق رقمطراز ہیں کہ:

فَلَا يَنَالُ فِي الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِأَنَّ النَّفْيَ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِ
 وَاسْطَةِ فَكُلُّ مَا وَرَدَ عَنْهُ مِنَ الْغُيُوبِ لَيْسَ هُوَ إِلَّا عَنْ أَعْلَامِ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ.

۱۔ ”نبراس“ مطبوعہ لاہور ص ۵۷۴۔ ۲۔ حاشیہ ”نبراس“ ص ۵۷۴۔

جو آیات علم غیب کی نفی پر دلالت کرتی ہیں وہ اس کی تردید نہیں کرتیں کیوں کہ آپ کے علم (غیب) کی نفی بغیر واسطہ کے ہے اور حضرت سے غیب کے متعلق جو باتیں وارد ہوئی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے آپ کو (بذریعہ وحی وغیرہ) علم دینے کی بنا پر ہیں (یعنی واسطے سے ہیں)۔

ان تصریحات سے جہلاء کے اس اشکال و اعتراض کا بھی دفعیہ ہو گیا جو کہتے ہیں کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن تو غیر ممالک کی خبریں دیتے ہیں ان پر اعتبار کیا جاتا ہے، یا ”محکمہ موسمیات“ جو بارش وغیرہ سے متعلق مستقبل کی خبریں دیتا ہے وہ عموماً سچی نکلتی ہیں۔ تو ریڈیو ہو یا ٹیلی ویژن یا محکمہ موسمیات، یہ واسطہ و ذریعہ اور دلیل و علامات سے بات کرتے ہیں اور علم غیب وہ ہے جو کسی واسطے یا ذریعے یا علامت و دلیل کے بغیر ہو۔

ٹھنڈی ٹھنڈی اور مرطوب ہوا چل رہی ہے، گھنگھور گھٹا چھائی ہے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے، اب اگر کوئی کہے کہ بارش ہوگی تو یہ علم غیب نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیاد تو حواس اور علم استدلالی پر قائم ہے۔ جب بارش کی علامات ظاہر و موجود ہیں تو بارش ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک قابل و ماہر طبیب نبض دیکھ کر مریض کا حال اور اس کے مرض کی کیفیت بتا دیتا ہے تو اس کی بنیاد اس کے علم و استدلال پر قائم ہے، لہذا یہ علم غیب نہیں۔

۱۔ چنانچہ رئیس الفقہاء والمحدثین حضرت ملا علی قاری (متوفی ۱۰۱۶ھ) اور علامہ سعد الدین تفتازانی (متوفی ۷۹۲ھ) رحمہما اللہ لکھتے ہیں:

وَبِالْجُمْلَةِ الْعِلْمِ بِالْغَيْبِ أَمْرٌ تَفَرَّدَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى لَا سَبِيلَ لِلْعِبَادِ إِلَيْهِ إِلَّا بِأَعْلَامٍ مِنْهُ أَوْ الْهَامِ بِطَرِيقِ الْمُعْجَزَةِ أَوْ الْكِرَامَةِ أَوْ إِرْشَادِ إِلَى الْإِسْتِدْلَالِ بِالْإِمَارَاتِ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ ۱

۲۔ اسی طرح تاتارخانیہ میں ہے:

يُكْفَرُ بِقَوْلِهِ أَنَا أَعْلَمُ الْمَسْرُوقَاتِ أَوْ أَنَا أَخْبَرُ عَنْ أَخْبَارِ الْجِنِّ إِيَّايَ وَأَمَّا مَا وَقَعَ لِبَعْضِ الْخَوَاصِّ كَالْأَنْبِيَاءِ أَوْ لِأَوْلِيَاءِ بِالْوَحْيِ أَوْ الْإِلْهَامِ فَهُوَ بِأَعْلَامٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ۲

۱۔ ”شرح نقدا کبر“ ص ۱۵۵، ”شرح لشرح العقائد“ ص ۵۷۳۔

۲۔ ”شامی جلد ۳، کتاب الجہاد، باب المرتد۔“

کوئی شخص کہے کہ میں چوری شدہ مال کو جانتا ہوں اور میں ان خبروں کی بناء پر بات کرتا ہوں جو مجھے جن دیتے ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور بعض خواص جیسے حضرات انبیاء و اولیاء سے ثابت ہے وہ وحی یا الہام کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم دینے کی بناء پر ہے، اس سے ہماری بحث نہیں۔

تو اللہ رب العزت اپنے رسول معصوم کو یا اولیاء کرام کو وحی والہام سے بطور معجزہ و کرامت جو کچھ بتلایا دکھلا دیں، اس میں بحث نہیں، کیونکہ وہ علم غیب نہیں، ہاں وحی یا الہام وغیرہ کے واسطہ کے بغیر غیب کا علم، علم غیب ہے اور بحث اسی میں ہے اور یہ خاصہ خدا ہے۔ کسی غیر اللہ، نبی یا ولی کے لیے اس کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔

خلاصہ: علم غیب وہ ہے جو عادی وسائل و اسباب اور وسائط کے بغیر از خود ہو اور جو علم حسی و ظاہری ہوں خواہ باطنی و معنوی، یعنی خواہ حواس، علامات، تجربے اور عقل و خرد سے وہ علم حاصل ہو خواہ وحی یا کشف والہام سے! وہ علم غیب نہیں ہے۔

انتباہ: فقہاء اُمت کے اس فتویٰ میں ان لوگوں کے لیے عظیم انتباہ ہے جو بعض ٹھگوں کے پاس جا کر اپنے مال مسروقہ کا اتہ پتہ پوچھتے ہیں اور وہ عیار و پرکار، چالاک و مکار لوگ جنوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے یا مٹی کا (وضو کرنے والا) لوٹا گھمانے کا ڈھونگ رچا کر ان جاہل مسلمانوں کے مال کے ساتھ ان کے متاع ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ فقہاء رحمہم اللہ نے صراحت سے ان ٹھگوں کی تکفیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطاء فرمائیں۔

حضرات فقہاء و محدثین اور ائمہ علم کلام رحمہم اللہ نے بذریعہ وحی والہام جس اطلاع علی الغیب پر بحث کی ہے، خود لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بیان و ارشاد ملاحظہ ہو:

امام ابن اسحاق رحمہ اللہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں:

غزوة تبوک میں سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، آپ کے اصحاب اس کی تلاش میں نکلے، زید بن اللصّیت (منافق) کہنے لگا: ”محمد تو نبی ہونے کے مدعی ہیں اور تمہیں آسمانوں کی خبر دیتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے؟“

۱۔ امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ (متوفی ۱۵۰ھ) سیرت و مغازی کے مسلمہ امام ہیں، بڑے جلیل القدر محدث ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ حضرت انس کی زیارت سے شرف ہوئے۔

اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَأِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللَّهُ وَقَدْ ذَلَّنِي اللَّهُ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي هَذِهِ
الْوَادِي فِي شَعْبٍ كَذَا وَكَذَا قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِزَمَامِهَا.

واللہ میں نہیں جانتا مگر وہ جس کا اللہ مجھے علم دیتا ہے۔ اور ابھی اللہ نے مجھے دکھلایا
ہے کہ وہ اس وادی میں اس درّہ میں موجود ہے، درخت کی شاخ میں اس کی مہار
انگی ہوئی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے اور اونٹنی کو لے آئے۔

اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب رسول کو یا غیر رسول کو بھی بطور معجزہ و کرامت کسی غیب پر
اطلاع دے دیں، تو اس کا انکار نہیں۔ یہ خود کتاب و سنت سے بصراحت ثابت ہے، اور یہ وحی و
الہام کے واسطہ و ذریعہ سے جو علم و خبر کسی نبی یا ولی کو حاصل ہوگی، یہ غیب نہیں، اور جو غیب ہے
یعنی بغیر واسطہ و ذریعہ، بغیر علامت و دلیل غیر مشہود و غیر موجود حقائق و اشیاء کا علم، یہ خاصہ خدا
ہے۔ یہ نہ کسی آسمان والے کو حاصل ہے نہ زمین والے کو، نہ نبی کو نہ ولی کو، نہ کسی فرشتے کو اور نہ
ہی کسی اور کو۔

سنت رسول ﷺ سے رسول کریم ﷺ کے علم غیب و علم کل کی نفی

کتاب اللہ کے بعد اب سنت رسول ﷺ سے علم غیب و علم کل کا خاصہ خدا ہونا اور
غیر اللہ سے اس کی نفی ملاحظہ ہو۔ نبی کریم ﷺ نے خود اپنے لیے علم غیب و علم کل کی ہر موقع
پر صراحت سے نفی فرمائی ہے۔ چند احادیث پیش ہیں:

۱۔ بروایت ربیع بنت معوذ بنی نضیر ان کی شادی کے موقع پر نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں
انصار کی بچیاں ڈف بجا کر ان کے آباء کے مناقب پڑھ رہی تھیں جو بدر میں شہید ہو گئے تھے،
ان بچیوں میں سے ایک نے کہہ دیا: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، کہ ہم میں نبی موجود ہیں جو
کل کی باتیں جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فوراً فرمایا:

۱۔ "سیرت ابن ہشام" مطبوعہ مصر جلد ۳ ص ۱۶۶، ذکر غزوة تبوک، "اصابہ" جلد اول نمبر ۲۳، ۲۹۔ اصابہ شیخ الاسلام ابن
حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲ھ) کی صحابہ کرام کے حالات پر بڑی عجیب بلکہ بے نظیر کتاب ہے، ہزاروں صحابہ و صحابیات
کے مفصل حالات پر مشتمل ہے۔ شیخ الاسلام بڑے بلند پایہ محدث اور عظیم و جلیل مصنف ہیں۔ رحمہ اللہ۔

ذُعِي هَذِهِ وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتُ تَقُولِينَ. (رواه البخاری) ۱

اس بات کو چھوڑ دو۔ وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔

اللہ اکبر! مجلس تعلیم و تعلم نہیں بلکہ محفل فرح و سرور ہے، پھر کہنے والی ایک معصوم لڑکی ہے، کوئی ”شیخ الحدیث“ یا علامہ نہیں، پھر بات گیت کے ایک مصرعہ کی ہے، کسی عقیدہ و ایمان سے متعلق کوئی عبارت نہیں، مگر اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک کلمہ کو بھی برداشت نہ فرما سکے، اپنے متعلق علم غیب کی ذرا سی نسبت کی بھی اجازت نہ دی اور فوراً منع فرما دیا کہ یہ نہ کہو، اسے چھوڑ دو۔ اللہ اللہ!

۲۔ بروایت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہما ایک انصاری بی بی حضرت اُمّ العلاء صحابیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر جب انہیں غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا: ابوسائب (یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے) تم پر خدا کی رحمت! میں تمہارے متعلق گواہی دیتی ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ضرور تمہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا ہوگا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں یہ کیسے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور ان کو سرفراز فرمایا ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان، (اگر ان کو نہیں) تو پھر اللہ تعالیٰ اور کس کو نوازے گا؟ ارشاد فرمایا: خدا کی قسم! ان کی وفات ہوگئی اور خدا کی قسم مجھے بھی ان کے متعلق خیر کی امید ہے مگر،

وَاللّٰهِ مَا اَدْرِى وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا ذَا يُفْعَلُ بِيْ. (رواه البخاری) ۲

خدا کی قسم! گو میں اللہ کا رسول ہوں مگر میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔

۳۔ بروایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خضر نے کہا: یا موسیٰ! جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ نہیں جانتے، اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میں نہیں جانتا..... پھر جب دونوں سمندر کے اندر کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اور سمندر میں ایک یادو چونچیں ماریں تو (حضرت) خضر نے (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) سے کہا:

مَا نَقَصَ عَلِمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللّٰهِ اِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعَصْفُوْرِ فِي الْبَحْرِ. ۳

۱۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ باب اعلان الکاح۔ ۲۔ ”ترجمان السنۃ“ جلد دوم حدیث نمبر ۸۰۱۔

۳۔ صحیح بخاری کتاب العلم باب ما استحب للعالم۔

میرے اور آپ کے (دونوں کے) علموں نے (مل کر بھی) اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں کی مگر سمندر سے اس چڑیا کی ایک چونچ برابر۔ (یعنی کوئی کمی نہیں کی)

اس حدیث پاک سے دو باتوں کا علم ہوا ایک تو یہ کہ نبی کا علم ہو یا غیر نبی کا، خضر کا علم ہو یا موسیٰ کا (علیہما السلام) یہ اللہ تعالیٰ کا عطاء فرمودہ ہے، جس کو جو علم دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حضرات انبیاء و اولیاء کے جملہ علوم جزئی ہیں، یہ سب علوم مل ملا کر بھی علم الہی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، انہیں اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو سمندر سے ایک قطرہ کو ہے، اللہ کا علم کلی ہے، محیط ہے، وسیع و بسیط ہے۔

۴۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے میں کروٹ بدلی تو اپنے پہلو کے نیچے ایک کھجور کا دانہ پایا۔ اسے اٹھایا اور تناول فرمایا۔ پھر باقی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے بچ و تاب کھاتے رہے، آپ کو نیند نہ آئی۔ آپ نے اپنی کسی زوجہ رضی اللہ عنہا کو یہ کیفیت بیان کی اور فرمایا:

إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتِ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا ثُمَّ تَخَوَّفْتُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ بَا
میں نے اپنے پہلو تلے ایک کھجور کا دانہ پڑا پایا اور اسے کھا لیا۔ اب مجھے خوف ہے
کہ کہیں وہ صدقہ کے مال میں سے نہ ہو۔

اللہ اللہ! کھجور کھا تو لی مگر اس خوف سے کہ..... مبادا یہ عشر کے مال میں سے ہو جو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ میں جمع ہوتا اور پھر مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا..... اس فکر سے آپ کی نیند اچاٹ ہو گئی، شب بھر آپ بچ و تاب کھاتے رہے۔ یہ ساری کیفیت اس بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے پیش آئی کہ وہ کھجور صدقہ کی ہے یا نہیں۔ اگر معلوم ہوتا کہ صدقہ کی ہے تو حضرت تناول ہی نہ فرماتے اور اگر علم ہوتا کہ صدقہ کے مال میں سے نہیں تو رات بھر پریشان اور فکر مند اور بے چین نہ رہتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم!

۵۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرے تو آپ کو ایک کھجور پڑی ہوئی ملی۔ ارشاد فرمایا:

لَوْ لَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا أَكَلْتُهَا. (مفہوم علیہ)

اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی کھجور ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)

۱۔ "طبقات ابن سعد" جلد اول ص ۳۹۰۔ ۲۔ "مشکوٰۃ الصالح" باب من لا حمل له الصدقہ۔

تو آپ ﷺ نے اس عدم علم و یقین کی وجہ سے کہ وہ کھجور صدقہ کی نہیں، کھجور کو تناول نہ فرمایا۔ اگر مال صدقہ میں سے نہ ہونے کا یقین ہو جاتا تو تناول فرما لیتے۔

۶۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں لیلة القدر کی خبر دیں، مسلمانوں میں سے دو شخص باہم جھگڑنے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں آیا تھا تاکہ تمہیں لیلة القدر کی خبر دوں، لیکن فلاں فلاں باہم جھگڑنے لگے

فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَّكُمْ فَالْتِمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ
وَالْخَامِسَةِ.

(رواہ البخاری) ۱

لہذا (اس کی تعین) اٹھالی گئی، اور شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ پس تم اسے پچیسویں، ستائیسویں اور اسیسویں (شب) میں تلاش کرو۔

۷۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، ارشاد فرمایا:

أَرَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ انْسَبْتُهَا فَالْتِمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَالتَّمِسُوهَا
فِي كُلِّ وَتْرٍ.

(متفق علیہ) ۲

مجھے یہ رات بتلائی گئی تھی پھر میں اسے بھول گیا۔ پس تم اسے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

صحیح بخاری، صحیح مسلم، مؤطا امام مالک اور ابوداؤد وغیرہ میں بھی یہ حدیث مروی ہے۔

۸۔ ایک روایت میں ہے، ارشاد فرمایا:

إِنِّي أَرَيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسَبْتُهَا فَالْتِمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ فِي
وَتْرٍ.

بے شک مجھے لیلة القدر بتلائی گئی تھی، مگر وہ بھلا دی گئی، پس اب تم اسے (رمضان کے) آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔

یہ عظیم رات جو ہزار مہینوں سے بھی قدر و عظمت میں خیر و افضل اور برتر ہے، امت کو آپ ﷺ متعین کر کے نہ بتلا سکے کہ کون سی رات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس کا قطعی علم عطا نہیں فرمایا۔ عطا فرمایا بھی تھا مگر دو مسلمانوں کے باہمی نزاع کی وجہ سے وہ علم واپس لے

۱۔ "مکھوۃ الصالح" باب لیلة القدر، مؤطا مالک میں یہ روایت حضرت انس سے مروی ہے۔

۲۔ "مکھوۃ الصالح" باب لیلة القدر۔

لیا گیا۔ اب آپ نے اندازہ سے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ کیونکہ رمضان المبارک میں اس کا ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ باقی قطعی تاریخ کا تعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا۔

۹۔ اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث بلا حفظ ہو:

بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (۱۰ھ) عاشورا (۱۰ محرم) کا روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس دن کی تو یہود و نصاریٰ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ.

(رواہ مسلم)

اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو ۹ محرم کا روزہ (بھی) رکھوں گا (تاکہ یہود و نصاریٰ کی مخالفت ہو جائے) مگر آپ اگلے سال تک زندہ نہ رہے، ربیع الاول ۱۰ھ ہی میں وفات پا گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم!

تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات شریفہ اور رحلت مبارکہ کا بھی علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، مگر خالق و مالک جل جلالہ کی طرف سے پیغام وصال آپہنچا اور آپ (۱۰ محرم سے ۱۰، ۱۱ ربیع الاول تک) صرف دو ماہ بعد ہی اپنے رب اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم!

کتاب اللہ کی متعدد نصوص قطعہ کے بعد سنت رسول سے نو بار خود نبی الانبیاء،
خلاصہ: سید المرسلین کی ذات پاک کے لیے علم غیب و علم کل کی نفی ثابت ہے۔ اس کے بعد اور کون ماں کا لال ہے جس کے لیے علم غیب کا دعویٰ کیا جائے۔

فقہاء اسلام غیر اللہ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کے مدعی کو کافر کہتے ہیں!

کتاب و سنت کے بعد اس مسئلہ سے متعلق فقہاء امت کے اقوال درج ذیل ہیں:

۱۔ امام الفقہاء حسن بن منصور المعروف بہ قاضی خاں (المتوفی ۵۹۲ھ) رقمطراز ہیں:

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب صیام الطلوع۔

ایک شخص نے ایک عورت سے (گواہوں کے بغیر) اللہ اور رسول ﷺ کو گواہ بنا کر نکاح کیا، یہ باطل ہے....

وَبَعْضُهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ كُفْرًا لِأَنَّهُ يُعْتَقَدُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ كُفْرٌ.

(فتاویٰ قاضی خاں جلد اول کتاب النکاح)

اور بعض نے اسے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور یہ کفر ہے۔

۲۔ علامہ زین الدین ابن نجیم المصری (المتوفی ۹۷۰ھ) تحریر فرماتے ہیں:

لَوْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحَ وَيَكْفُرُ لَا عَيْتِقَادِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ.

(بحر الرائق جلد ۵ ص ۱۶)

۳۔ السلطان العادل اورنگ زیب عالمگیر رحمہ اللہ (المتوفی ۱۱۱۸ھ) کے مرتب کرائے ہوئے فتویٰ میں ہے:

تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَلَمْ يَحْضُرِ الشُّهُودَ وَقَالَ:

خَدَائِعُ رَأْسُكَ رَأْسُكَ كَرِيمٌ.... يَكْفُرُ.

(”فتاویٰ عالمگیری“ جلد ۲ ص ۴۱۲)

۴۔ نیز امام فقیہ علی بن ابی بکر صاحب ہدایہ (المتوفی ۵۹۳ھ) اپنی کتاب تجنیس ص ۲۹۷ پر، علامہ طاہر بن احمد (۵۴۲ھ خلاصۃ الفتاویٰ جلد ۳ ص ۳۵۴ پر، امام عبدالرحیم (۵۶۱ھ) فصول عمادیہ ص ۶۴ پر، امام محمد بن محمد الخوارزمی المعروف بالترازی (۸۲۷ھ) فتویٰ بزازیہ ص ۳۲۵ پر اور محدث کبیر علامہ بدرالدین عینی (۸۵۵ھ) عمدۃ القاری جلد ۱ ص ۵۲۰ پر، امام ابن ہمام محمد بن عبدالواحد (۹۶۱ھ) مسائرہ جلد ۲ ص ۸۸ مع المسامرہ پر، اور علامہ ابن عابدین الحنفی (۱۲۵۲ھ) شامی جلد ۶ ص ۳۰۶ اور دوسرے جلیل القدر و شہرہ آفاق فقہاء اسلام نے یہ تصریح کی ہے کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ رسول اللہ ﷺ کو علم غیب حاصل تھا وہ کافر ہے۔ حتیٰ کہ ”مالا بد منہ“ ص ۱۷۶ پر خاتم الفقہاء حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی (المتوفی ۱۲۲۵ھ) رحمہ اللہ بھی یہی لکھتے ہیں۔^۱

۱۔ فقہ حنفی کے مشہور فتاویٰ ”تاتارخانیہ“ میں بھی قریباً یہی الفاظ ہیں۔ اور خزائنہ المصنفین، بزازیہ، مجمع البحار، شامی وغیرہ میں بھی!

۲۔ یہ تمام تفصیلات حضرت مولانا محمد رفیع از خان صاحب صفدر کی تالیف ”ترید المناظر“ طبع ششم ص ۶۸، ۷۱، ۷۲ سے ماخوذ ہیں۔

۵۔ امام انہباء والحمد ثین حضرت ملا علی قاریؒ (متوفی ۱۰۱۶ھ) احناف کے چوٹی کے امام و فقیہ امام ابن ہمام (متوفی ۸۱۱ھ) سے شرح فقہ اکبر میں نقل فرماتے ہیں:

إِعْلَمُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يَعْلَمُوا الْمَغِيْبَاتِ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا
أَعْلَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى أَحْيَانًا وَذَكَرَ الْحَنْفِيَّةُ تَضَرُّعًا بِالتَّكْفِيرِ بِاعْتِقَادِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمَعَارِضِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ لَا يَعْلَمُ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. (كذا في المسامرة)

جان لو کہ بالیقین حضرات انبیاء علیہم السلام غیب کی چیزوں کا علم نہیں رکھتے۔
سوائے اس کے جو علم اللہ تعالیٰ انہیں کبھی دیدے اور احناف نے صراحت کے
ساتھ اس (اعتقاد رکھنے والے) کی تکفیر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے
ہیں، بایں وجہ کہ (یہ اعتقاد) قولہ تعالیٰ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ... إِلَّا اللَّهُ. (الآیة)
کے معارض و مقابل ہے۔ یہ مسامرہ میں ہے۔ (جو امام ابن ہمام کی تالیف ہے)
شریعت نے تو اس معاملہ میں یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاند کے گرد ہالہ دیکھ کر
علم غیب کا مدعی بن کر کہے کہ بارش ہوگی تو وہ بھی کافر ہو گیا۔

يُكْفِرُ بِقَوْلِهِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الدَّائِرَةِ الَّتِي تَكُونُ حَوْلَ الْقَمَرِ يَكُونُ مَطْرًا مَدْعِيًا
عِلْمَ الْغَيْبِ كَذَا فِي بَحْرِ الرَّائِقِ.

۶۔ امام الاحناف حضرت ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں:

ذَكَرَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ هَالَةِ الْقَمَرِ يَكُونُ مَطْرًا مَدْعِيًا
عِلْمَ الْغَيْبِ لَا بَعْلَامَتَهُ كُفْرًا.

جس نے چاند کے گرد دائرہ دیکھ کر بارش کی علامت کے طور پر نہ بلکہ علم غیب کا
مدعی بن کر کہا کہ بارش ہوگی، یہ کفر ہے۔

کاہنوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں کا حکم:

۷۔ فقیہ کبیر قاضی خان رحمہ اللہ، الشیخ الامام ابو بکر محمد بن الفضل رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ

۱ "شرح فقہ اکبر" ص ۱۸۵، باب الانبیاء لم یعلموا الغیبات. ۲ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲

۳ "شرح فقہ اکبر" بحث الانبیاء لم یعلموا الغیبات.

ایک شخص نے کہا:

أَنَا أَعْلَمُ الْمَسْرُوقَاتِ... هَذَا الْقَائِلُ وَمَنْ صَدَقَهُ يَكُونُ كَافِرًا.
میں چوری شدہ مال کا علم رکھتا ہوں یہ دعویٰ کرنے والا اور اس کی تصدیق کرنے والا کافر ہو گیا۔

ان سے کہا گیا کہ وہ قائل کہتا ہے کہ جن مجھے خبر دیتے ہیں اور میں ان کی خبر کی بناء پر کہتا ہوں تو فرمایا:

هُوَ وَمَنْ صَدَقَهُ يَكُونُ كَافِرًا بِاللَّهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ اتَى كَاهِنًا
فَصَدَقَهُ فِيمَا قَالَ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ لَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَخْبَارِ عَنِ
الْجِنِّ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَاتُ الْجِنِّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي
الْعَذَابِ الْمُهِينِ ۚ

وہ کافر ہو گیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی اللہ کا منکر ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: جو کاهن کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی اس نے جو کچھ محمد پر نازل ہوا، اس کا انکار کیا۔ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ نہ کوئی جن اور نہ ہی کوئی انسان۔ اللہ تعالیٰ جنوں کے حالات سے متعلق (قرآن میں) فرماتے ہیں: فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَاتُ الْجِنِّ..... یعنی جب (حضرت سلیمان بعد وفات عصاء کے دیمک خوردہ ہونے پر) گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں نہ رہتے۔

کاهن مستقبل کی خبریں بتانے والوں کو کہا جاتا ہے۔ منجم اور رمال کا بھی یہی حکم ہے۔ عہد

۱۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عصا کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کر ٹھوڑی مبارک کے نیچے لگا لیا اور تخت پر بیٹھ گئے۔ اسی حالت میں روح اقدس قبض ہو گئی۔ جنات آپ کو زندہ سمجھ کر اور بیٹھا دیکھ کر محنت شاقہ میں مصروف رہے۔ سال بھر تک اس طرح ذلیل ہوتے رہے۔ سال کے بعد دیمک نے عصا کو کھا کر کھوکھلا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنوں کو حقیقت معلوم ہوئی۔

۲۔ "فتاویٰ قاضی خاں" جلد ۳ ص ۸۸۳ (الدر الفرید ص ۷۰)۔ الدر الفرید المعروف "بمرآت التوحید" مولانا عبدالقیوم خاں کی تالیف ہے۔ عہد حاضر کے جید و فاضل عالم ہیں۔ مدظلہ۔

جاہلیت میں ان لوگوں کا رام راج تھا۔ اب بھی جاہل لوگ کاہنوں وغیرہ کے پاس جا کر اپنے متعلق مستقبل کی خبریں پوچھتے ہیں، گم شدہ یا چوری کردہ مال کا پتہ نشان پوچھتے ہیں، اور ان کا ”حق الخدمت“ ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے پاس جا کر غیب سے متعلق خبریں دریافت کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کو کفر فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ... فَقَدْ بَرِيَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

(رواہ احمد و ابوداؤد)

جو شخص کاہن کے پاس جائے اور (غیب سے متعلق) اس کی باتوں کی تصدیق کرے... تو جو کچھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل ہوا وہ اس سے بری ہوا۔ ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ کے الفاظ ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرات فقہاء رحمہم اللہ نے بھی کاہنوں کے پاس جانے اور ان کی تصدیق کرنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔

شرح فقہ اکبر میں ہے: اَنَّ تَصْدِيقَ الْكَاهِنِ بِمَا يَخْبِرُهُ مِنَ الْغَيْبِ كُفْرٌ. بزازیہ میں ہے: يَكْفُرُ بِادِّعَا عِلْمِ الْغَيْبِ وَبِاتِّبَانِ الْكَاهِنِ وَتَصْدِيقِهِ. یعنی علم غیب کا دعویٰ کرنے اور کاہن کے پاس جانے اور اس کی تصدیق کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تاتارخانیہ میں ہے: يُكْفَرُ بِقَوْلِهِ اَنَا اَعْلَمُ الْمَسْرُوقَاتِ اَوْ اَنَا اَخْبِرُ عَنْ اَخْبَارِ الْجِنِّ اِيَّايَ. یعنی میں چوری شدہ مال (کا پتہ) جانتا ہوں، یا میں جنوں سے معلوم کر کے خبریں دیتا ہوں، اس قول سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔

یہ گندہ عقیدہ کہاں سے درآمد ہوا بہر حال اہل سنت کا تو یہی اجماعی مسئلہ ہے کہ علم غیب خاصہ خدا ہے۔ کتاب اللہ،

احادیث رسول اور فقہاء اسلام سے بصراحت ثابت ہے کہ کسی غیر اللہ، نبی یا ولی، انسان یا جن یا ملک مقرب کے لیے علم غیب و علم کمال کا دعویٰ قطعی طور پر کفر ہے، پھر جاہل مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہاں سے آیا۔

۱۔ ”مکلوۃ المصاح“ باب الکہانۃ۔ ۲ شرح عقائد ص ۱۱۲۲ پر بھی قریباً یہی لفظ ہیں۔ ۲۔ ”الدر الفرید“ ص ۷۷۔

یہ عقیدہ دراصل عالی رافضیوں کا عقیدہ ہے، اور ان سے جاہل مسلمانوں میں در آیا ہے۔ چنانچہ شیخ المشائخ، امام الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۵۰ھ) ان کے عقائد کے بیان میں رقم فرماتے ہیں کہ:

أَنَّ الْإِمَامَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ حَتَّى
عَدَّةَ الْحِصْنِ وَقَطْرَ الْإِمْطَارِ وَوَرَقَ الْأَشْجَارِ...^۱

پیشک امام جو ہو چکی اور جو ہوگی ہر بات جانتا ہے خواہ وہ دنیا سے متعلق ہو خواہ دین سے یہاں تک کہ کنکریوں کی تعداد، بارش کے قطرے اور درختوں کے پتے بھی جانتا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

لَآنَ الْإِمَامِيَّةَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْإِمَامَ الْمَعْصُومَ يَعْلَمُ مَا فِي بَطْنِ الْحَامِلِ وَمَا
وَرَاءَ الْجِدَارِ.^۲

اس لیے کہ امامیہ (شیعہ) اعتقاد رکھتے ہیں کہ امام معصوم جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ کے اندر کیا ہے اور دیوار کے پیچھے کیا۔

تو دراصل یہ عقائد و تصورات فرقہ امامیہ اہل تشیع کے تھے، ان سے بوجہ جہالت اہل سنت کہلانے والوں نے بھی انہیں اپنالیا۔ العیاذ باللہ۔

۱ "غیۃ الطالبین" جلد اول فصل الرافضیۃ۔

۲ آپ عظیم محدث و مفسر مؤرخ ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، سال وفات ۹۱۱ھ ہے۔

۳ "تاریخ الخلفاء" حالات خلیفہ الناصر الدین اللہ ۷۵۵ھ۔

حاضر ناظر!

گو اللہ تعالیٰ کے معروف ننانوے اسماء الحسنیٰ میں حاضر اور ناظر دونوں نہیں ہیں لیکن اسماء حسنیٰ میں سے ”شہید“ اور ”بصیر“ اللہ رب العزت کے دو پاک نام ہیں۔ شہید کے معنی ہیں حاضر اور بصیر کے معنی ہیں ناظر یعنی دیکھنے والا۔^۱

اللہ رب العزت کے لیے ناظر کا لفظ خود لسان نبوت سے ثابت ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی طویل روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلَفُكُمْ فِيهَا فَنَظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

(رواہ الترمذی)^۲

دنیا بڑی لذیذ اور سرسبز (دلکش) ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

یہ روایت ترمذی کے علاوہ ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں بھی ہے۔

حیرت ہے کہ اس کے باوجود پاکستان کے ”ایک بزرگ“ یوں دادِ تحقیق دیتے ہیں:

”قرآن و حدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے وارد نہیں ہوا۔ نہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولا۔ کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام یا تابعین یا ائمہ مجتہدین نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا ہو۔“^۳ ایک اور ”محقق“ عصر نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور لکھا کہ: ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں.... خدا کو ہر جگہ میں ماننا بے دینی ہے۔ ہر جگہ میں ہونا تو رسول خدا ہی کی شان ہے۔“^۴ ایک مقام شرک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول خدا یا کسی اور کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانا جائے..... پر عہد حاضر کے بعض بزرگوں کو قرار نہ آیا تو وہ ایک اور جست لگا کر اس مقام بالا تک پہنچ گئے کہ خدا حاضر و ناظر نہیں۔ خدا کو ہر جگہ حاضر و موجود ماننا بے دینی ہے۔ دین و ایمان

۱۔ الشہید: حاضر۔ البصیر: دانا، بینا (المنجد)۔ ضراح میں بھی یہی معنی ہیں۔ ”لغات القرآن“ میں ہے ”بصیر“ دیکھنے والا جاننے والا، (جلد دوم لفظ بصیر)۔ ۲۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ باب الامر بالمعروف۔

۳۔ ”تسکین الخواطر“ ص ۲۔ ۴۔ ”جاہ الحق و ذہق الباطل“ ص ۱۵۳۔

کی بات تو یہ ہے کہ حاضر و ناظر اور ہر جگہ ہونا رسول خدا ہی کی شان ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ!
ثم استغفر اللہ!

آئیے کتاب اللہ میں دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و موجود اور ناظر و بصیر ہیں یا نہیں

اندازاً

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و موجود ہیں

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

(بیشک اللہ ہر چیز پر حاضر ہے)

۱۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. (پارہ ۵۔ نساء، رکوع ۵ و پارہ ۲۲۔ احزاب ع ۷)

۲ بار بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہیں۔

۲۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (پارہ ۷ آخر ماندہ) ۱ ۱۱ ۱۱

۳۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. (پارہ ۱۷۔ حج، ع ۲۔ سباء آخری رکوع) ۵ ۱۱ ۱۱

۴۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. (پارہ ۲۲۔ احزاب، رکوع ۶) ۱ ۱۱ ۱۱

۵۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ
إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. (پارہ ۱۱۔ یونس، ع ۷)

اور آپ (خواہ) کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں
اور تم جو بھی کام کرتے ہو ہم تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں جب تم اس کام
میں مصروف ہوتے ہو۔

یعنی جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے ہوں یا اس خصوصی و
امتیازی صفت و شان کے علاوہ کسی حال میں ہوں یا کوئی شخص کسی کام کو شروع کرے اور اس میں
مصروف و مشغول ہو، اللہ تعالیٰ اپنی صفت علم کے اعتبار سے وہاں حاضر و موجود ہوتے ہیں۔

۱۔ آخرم و سجدہ، و مجادلہ رکوع اول و سورہ بروج بآدنی تغیر۔

۲۔ رقیب: نگہبان، خبر رکھنے والا، نگرانی کرنے والا۔ (لغات القرآن جلد سوم لفظ رقیب)

۶۔ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ.

(آل عمران) ۱ بار

۷۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ.

(۱۱۔ یونس ع ۵) ۱ بار

میزان = ۱۲ بار

انداز

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
(اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہے)

۱۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (پارہ ۲۷۔ حدید، رکوع اول)
تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔

۱ بار

۲۔ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (پارہ ۲۸۔ مجادلہ، رکوع ۲)

تین شخصوں کی کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جہاں وہ ان میں چوتھا نہیں ہوتا، اور نہ پانچ کی، جہاں وہ ان میں چھٹا نہیں ہوتا اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، مگر وہ (ہر حالت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ لوگ جہاں کہیں ہوں، پھر ان کو قیامت کے دن ان کا کیا ان کو بتلائے گا، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔

۱ بار

۳۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ. (سورہ نساء، رکوع ۱۶)

لوگوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہیں جبکہ وہ رات کو خلاف مرضی الہی بات کا مشورہ کرتے ہیں۔

۱ بار

میزان = ۳ بار

کوئی خفیہ سے خفیہ مجلس و مشورہ ہو، سرگوشی ہو، دن کو ہو یا رات کو، اللہ تعالیٰ اپنے علم محیط کے اعتبار سے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اگر تین آدمی خفیہ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا خدا وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر پانچ آدمی چھپ کر کوئی مشورہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ چھٹا خدا موجود

ہوتا ہے۔ پھر خواہ تین سے کم، ایک یا دو ہوں یا پانچ سے زیادہ چھ سات یا دس، بیس جتنے بھی ہوں، اور جہاں کہیں ہوں اور جس حال میں ہوں اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ علم سے ان کے ساتھ ہے، وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔

اللہ ناظر و بصیر ہے:

انداز ۳

وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ

- ۱۔ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ۔ (آل عمران ع ۲۰ ع ۲، مومن ع ۵) ۳ بار اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں۔
 - ۲۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ (بنی اسرائیل ع ۳، فرقان ع ۲، خاتمہ فاطر، اور فتح ع ۳) ۴ بار
 - ۳۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ۵ (پورے قرآن میں) ۵ بار
 - ۴۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ۹ بار
 - ۵۔ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ۴ بار
 - ۶۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بِصِيرٌ۔ (سورہ مٹلک آخری رکوع) ۱ بار
 - ۷۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ (آخر شعراء) ۱۱ بار
- میزان = ۲۷ بار

اللہ سمیع و بصیر ہے

انداز ۲

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

- ۱۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ (سورہ نساء، ع ۸ و ع ۱۹) ۲ بار بیشک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔

۱۔ واللہ کی جگہ ان اللہ ہے۔ ۲۔ الفاظ میں فرق ہے۔ ۳۔ بقرہ رکوع ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶، ہود ع ۱۰، حم السجدہ ع ۵ باری تغیر۔ ۴۔ بقرہ ع ۳۶، آل عمران ع ۷۱، انفال آخری رکوع، حدید رکوع اول، محتہ رکوع اول، تغابن رکوع اول، آخر حجرات، احزاب رکوع ۲ اور سباء ع ۲، ایک دو لفظوں میں فرق ہے۔ ۵۔ بقرہ ع ۱۱، آل عمران ع ۷۱، مائدہ ع ۱۰، انفال ع ۵ باری تغیر۔ ۶۔ باری تغیر الفاظ۔

- ۲۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ۔ (حج ع ۱۰، لقمان ع ۳، مجادلہ ع ۱)^۱ ۴ // //
- ۳۔ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ۔ (مومن ع ۲)^۲ ۴ // //

میزان = ۱۰ بار

اللہ سمیع و قریب ہے
بلکہ اقرب ہے

اِنَّهٗ سَمِيعٌ قَرِيْبٌ

۱۔ اِنَّهٗ سَمِيعٌ قَرِيْبٌ۔ (سہاء ع ۶)

پیشک وہ سب کچھ سننے والا ہے، نزدیک ہے۔

۲۔ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ۔ (۲۶۔ ق، ع ۲)^۳ ۱ // //

میزان = ۲ بار

اللہ تعالیٰ سمیع و علیم ہیں

انداز ۶

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

۱۔ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ۔ (بقرہ ع ۱۵، آل عمران ع ۴) ۲ بار

۲۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ۔ (بقرہ ع ۱۶، انعام ع ۲، حججوت ع ۱) ۴ // //

۳۔ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ۔ (بقرہ ع ۲۲، حضرات ع ۱، بقرہ ع ۲۸)^۴ ۵ // //

۴۔ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ۔ (بقرہ ع ۲۸، بقرہ ع ۳۳، اعراف ع ۲۴)^۵ ۵ // //

۵۔ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ۔ (بقرہ ع ۲۸، بقرہ ع ۳۳، آل عمران ع ۴، توبہ ع ۱۳، اعراف ع ۱۳، نور ع ۸۳) ۸ // //

۶۔ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا عَلِيْمًا۔ (نساء ع ۲۱) ۱ // //

۷۔ (یوسف ع ۴، شعراء ع ۱۱، دخان ع ۱، جم السجدہ ع ۵، اور یونس ع ۷، اور مائدہ ع ۱۰)^۶ ۶ // //

۸۔ (یوسف ع ۴، شعراء ع ۱۱، دخان ع ۱، جم السجدہ ع ۵، اور یونس ع ۷، اور مائدہ ع ۱۰)^۷ ۶ // //

۹۔ (یوسف ع ۴، شعراء ع ۱۱، دخان ع ۱، جم السجدہ ع ۵، اور یونس ع ۷، اور مائدہ ع ۱۰)^۸ ۶ // //

۱۰۔ (یوسف ع ۴، شعراء ع ۱۱، دخان ع ۱، جم السجدہ ع ۵، اور یونس ع ۷، اور مائدہ ع ۱۰)^۹ ۶ // //

۱۱۔ (یوسف ع ۴، شعراء ع ۱۱، دخان ع ۱، جم السجدہ ع ۵، اور یونس ع ۷، اور مائدہ ع ۱۰)^{۱۰} ۶ // //

۱۲۔ (یوسف ع ۴، شعراء ع ۱۱، دخان ع ۱، جم السجدہ ع ۵، اور یونس ع ۷، اور مائدہ ع ۱۰)^{۱۱} ۶ // //

۱۳۔ (یوسف ع ۴، شعراء ع ۱۱، دخان ع ۱، جم السجدہ ع ۵، اور یونس ع ۷، اور مائدہ ع ۱۰)^{۱۲} ۶ // //

۱۴۔ (یوسف ع ۴، شعراء ع ۱۱، دخان ع ۱، جم السجدہ ع ۵، اور یونس ع ۷، اور مائدہ ع ۱۰)^{۱۳} ۶ // //

۱۵۔ (یوسف ع ۴، شعراء ع ۱۱، دخان ع ۱، جم السجدہ ع ۵، اور یونس ع ۷، اور مائدہ ع ۱۰)^{۱۴} ۶ // //

۱۔ وحج ع ۸، ان کی جگہ وہ ہے۔ ۲۔ دینی اسرائیل ع ۱، مومن ع ۶ و شوری ع ۲ بادل فی تغییر۔

۳۔ اور ہم انسان کے اس کی رگہ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ۴۔ ان کی جگہ ان ہے۔ ۵۔ زیر زیر کافر ہے۔

۶۔ ان اللہ کی جگہ انہ ہے۔ ۷۔ انہ نہیں ہے۔ ۸۔ انہ کی جگہ اللہ ہے۔

یاد رکھئے! اور کبھی نہ بھولئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، شہید و بصیر ہونا، ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ہونا، سمیع و قریب ہونا، یہ سب صفتِ علم کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ ذاتِ الہی تو جسم و تجسم سے پاک ہے۔ ذاتِ پاک رب العزت کا تو ادراک ہی انسانی عقل و فہم سے وراء الراء ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی صفات ہی کے ذریعہ ہے اور اللہ کا ہر جگہ حاضر و موجود ہونا، ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ہونا، ہر کسی کو دیکھنا، ہر ایک کی سننا، یہ سب صفتِ علم کی بناء پر ہے۔ چنانچہ عموماً ایسی آیات کے ساتھ صفتِ علم مذکور ہے۔

اللہ تعالیٰ سب کی دُعا سنتے اور قبول کرتے ہیں:

اندازے

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ.

۱. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

(سورۃ بقرہ رکوع ۲۳)

اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بیشک میں قریب ہوں، (ہر) پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جبکہ وہ تجھے پکارے۔ ۱ بار

۲. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝ (ہود، ۶۴)

۱ بار بے شک میرا رب قریب ہے، دُعا قبول کرنے والا۔

۳. إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ (آل عمران ع ۴، ابراہیم ع ۶۴)

۱ بار درحقیقت میرا رب دعا سننے والا ہے۔

۲ بار

میزان = ۳ بار

خلاصہ: قرآن کریم میں سات اسلوب و انداز کے ساتھ ۸۴ بار اللہ تعالیٰ کے حاضر و موجود، ناظر و بصیر، سمیع و بصیر، سمیع و قریب اور قریب و مجیب ہونے کا اثبات فرمایا گیا ہے۔ اور اس انداز و الفاظ میں کسی غیر اللہ کے لیے حاضر و ناظر یا بصیر و قریب اور ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ہونے کا پورے قرآن میں ایک بار بھی ذکر نہیں ہے۔

۱. يَسْمَعُ الدُّعَاءِ ۝ ۲ ۸۴ بار پر حصر نہیں ہے۔ نہ حصر مقصود ہے۔

سنتِ رسول اللہ: کتاب اللہ کے بعد سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مضمون ثابت اور یہی حقیقت واضح ہے۔ ملاحظہ ہو:

اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہر کسی کے ساتھ اور قریب و اقرب ہیں:

۱۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لوگ زور کی آواز سے نکبیریں کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اے لوگوں! تم اس کو نہیں پکارتے جو بہرہ اور غائب ہو۔

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ بِأَنَّ

تم تو اس خدا کو پکارتے ہو جو سننے والا دیکھنے والا ہے اور جو تمہارے ساتھ ہے اور تم سے تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔

سبحان اللہ! درجنوں آیاتِ قرآنی میں جن صفاتِ ربانی کو واضح فرمایا گیا ہے، ایک ہی ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام صفات کو اجمالی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ حاضر و موجود ہے (وَهُوَ مَعَكُمْ) قریب و اقرب ہے۔ اور سوار کے نزدیک و قریب سب چیزوں سے زیادہ اقرب اونٹ گھوڑے وغیرہ سواری کی گردن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر سَمِيعًا بَصِيرًا بھی ارشاد فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے خواہ کوئی کہیں ہو:

۲۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ عامری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

فَمَا تَزْكِيَةُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُمَا كَانَ.

(رواہ البزاز فی مسندہ)

یا رسول اللہ! کسی شخص کا اپنے نفس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا: اس بات کا یقین ہو کہ انسان جس جگہ بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہے۔

۱۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم (مکتوٰۃ الصالح باب ثواب التبیح) ۲۔ "ترجمان السنن" جلد دوم حدیث نمبر ۵۰۷۔

۳۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 إِنَّ أَفْضَلَ الْإِيْمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ. (رواہ الطبرانی)
 سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کا یقین رکھے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تیرے
 ساتھ ہے، تو جہاں بھی ہو۔

انسان کے ایمان کا درجہ کمال اور اس کے تزکیہ نفس کا انتہا یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو،
 اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ حاضر و موجود یقین کرے۔

اور یہ حضور و شہود کی صفت خاص اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور کسی کی نہ یہ صفت ہے نہ
 شان۔ اور تو اور! محبوب رب العالمین سید المرسلین خود اپنی ذات اقدس کے لیے بھی اس ہر جگہ
 حاضر و موجود ہونے کی نفی فرما رہے ہیں اور یہ صفت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص فرما رہے ہیں:

۴۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے وقت فرمایا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ.

اے اللہ تو سفر میں میرا ساتھی ہے اور اہل (وعیال) کا خلیفہ ہے۔

یعنی سفر میں ہمارا ساتھی اور رفیق اور ہمارے پیچھے ہمارے اہل و عیال کا محافظ و نگہبان اللہ
 ہے۔ تو یہ صفت اور شان اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ سفر و حضر میں ہر جگہ حاضر و موجود ہے۔
 انسان کا سفر میں صاحب و رفیق اور اس کے پیچھے اس کے بال بچوں میں اس کا قائم مقام اللہ
 ہے۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ گھر میں ہیں تو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال
 خبر گیری خود فرماتے ہیں اور سفر میں ہیں تو گھر میں نہیں پھرنے گھریار کا نگہبان و نگران اللہ ہے۔ اسی
 طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اللہ رب العزت کو ہر مسلمان پر اپنا خلیفہ فرمایا ہے۔

۵۔ حضرت نو اس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا
 اور فرمایا:

۱۔ "ترجمان السنۃ" جلد دوم حدیث نمبر ۵۰۸۔

۲۔ صحیح مسلم ("مکثوۃ الصالح" باب الدعوات فی الاوقات) ابوداؤد، مسند احمد، نسائی، ترمذی، دارمی، مؤطا مالک میں
 بسم اللہ کا لفظ پہلے ہے اور فرماتے بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ.....

ان ینخرج وَاَنَا فِيكُمْ فَآنَا حَبِيبُهُ دُونَكُمْ وَإِنَّ يَخْرُجُ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَاِمْرَةٌ
حَبِيبٌ نَفْسِهِ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (ابوداؤد)

اگر آپ ﷺ اُمت میں موجود ہیں تو آپ دجال پر حجت سے غالب ہوں گے، اور جب آپ بعد وفات اُمت میں موجود نہیں ہیں تو آپ کی جگہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کا حافظ و ناصر ہے، آپ ﷺ کی یہ شان نہیں کہ آپ بعد وفات شریفہ بھی ہر مسلمان کے ساتھ حاضر و موجود رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور خاص شان ہے۔

سبحان اللہ! لَسْتُ فِيكُمْ ارشاد فرما کر حضرت ﷺ تو بعد وفات مسلمانوں میں اپنے حاضر و موجود ہونے کی نفی فرما رہے ہیں مگر آج کے بعض شرفا ہیں جو آپ ﷺ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کے مدعی ہیں اور خدا کے حاضر و ناظر ہونے کی صفت کا انکار کر کے ہر جگہ میں ہونا خاص رسول خدا کی شان بیان کرتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

پھر جب امام المرسلین علیہم السلام اپنی ذات پاک کے لیے حاضر و ناظر ہونے کی نفی فرما رہے ہیں تو دنیا میں اور کون ناں کالال ہے جس کے لیے اس صفت کا دعویٰ و اثبات کیا جائے۔
قرآن کریم کی ۸۴ نصوص کے بعد نصف درجن کے قریب ارشادات رسول ﷺ
خلاصہ: میں گویا کتاب و سنت کی کُل نوے نصوص قطعہ سے ذات پاک رب العزت کا حاضر و ناظر، سمیع و بصیر، ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ موجود اور قریب و اقرب ہونے کا اثبات ہے۔

ہر جگہ حاضر و ناظر، سمیع و بصیر اور عالم کُل ہونے کی وجہ و علت

سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو اس طرح ہر جگہ حاضر و موجود اور ناظر و بصیر یا عالم و خیر ہیں تو کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے حاضر و ناظر اور موجود ہونے یا ہر کسی کے ہر عمل و حرکت پر نگاہ رکھنے، ہر مخفی راز، پوشیدہ بھید بلکہ دل کی بات تک سے با علم و با خبر ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن ہم نے حساب جو لینا ہے تو ہم ہر مجرم کو اس کے اعمال کی خبر دیں گے۔ اسے جتلائیں گے کہ تو نے فلاں جگہ فلاں وقت خلوت یا جلوت میں یہ کام کیا تھا، یا

۱۔ رواہ مسلم ("مشکوٰۃ المصابیح" باب العلامات بین یدی السجد)۔

یہ باہم خفیہ مشورہ کیا تھا، یا اپنے دل و دماغ میں یہ منصوبہ تیار کیا تھا۔ تو چونکہ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا ۝ (سورہ نساء، رکوع ۱۱)..... (پیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے) اس لیے اس کا علمِ کامل اور بسیط و محیط ہے اور وہ اپنی اسی صفتِ علم کے اعتبار سے ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ موجود و حاضر ہے۔ اس کی تمام حرکات و سکنات اور اس کے تمام افعال و اعمال کا ناظر ہے۔ اور قیامت میں اپنے اس وسیع و غیر محدود علم اور اپنے حضور و شہود کی بناء پر ہر شخص سے حساب لے گا۔ اور اسے جزایا سزا دے گا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقامات پر اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے مثلاً:

۱. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِغِيْنَ وَالنّٰصَارِيْ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

(حج، ۲۴)

پیشک مسلمان اور یہود اور صائبین اور نصاریٰ اور مجوس اور مشرکین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر ہے۔

تمام مذاہب اور سب فرقوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، سب کے حالات و اعمال و عقائد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف و آگاہ ہیں، اس لیے وہ سب کو ان کے کردار کے مطابق مناسب ٹھکانے پر پہنچا دیں گے۔

۲. عَالِمُ الْغَيْبِ ج لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَلَا اَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا اَكْبَرُ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ وَالَّذِيْنَ سَعَوْا فِيْ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذٰبٌ مِّنْ رِّجْزٍ اَلِيْمٍ. (پارہ ۲۲۔ شروع سہا)

عالم الغیب، اس کے علم سے ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر یہ سب کتابِ مبین میں موجود ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انہیں (اچھا) بدلہ دے، ان کے لیے مغفرت اور (جنت میں) عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے متعلق ہرانے کی کوشش کی تھی، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔

تو اللہ رب العزت کا علم غیب یا علم کل بسیط و محیط اس لیے ہے تاکہ مومنین کو جزائے خیر دے، انہیں جنت عطاء فرمائے اور کفار و مشرکین کو سخت سزا دے، انہیں جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔

علیٰ ہذا قرآن کریم میں بیسیوں مقامات پر بار بار فرمایا، مثلاً سورہ انعام میں.....
 ۳۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ ۚ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ
 فرماتے ہیں:

ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (پارہ ۷۔ انعام، ع ۷)
 پھر اسی طرف تم کو جانا ہے پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔
 سورہ توبہ میں فرمایا اور سورہ جمعہ میں بھی:

۴۔ ثُمَّ تَرْدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(پارہ ۱۱۔ شروع)
 پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔
 سورہ توبہ میں پھر فرمایا:

۵۔ ثُمَّ تَرْدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

(پارہ ۱۱۔ توبہ، ع ۱۳)
 ۶۔ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ط وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
 (پارہ ۱۸۔ خاتمہ سورہ نور)

بالیقین اللہ تعالیٰ اس حالت کو جانتا ہے جس پر تم ہو، اور جس دن اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔

۷۔ إِنَّا مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (لقمان)
 ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ط أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ط وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 (پارہ ۱۸۔ سورہ مجادلہ، رکوع اول)

خلاصہ: غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہونے، اس کے عالم الغیب والشہادۃ ہونے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہونے، عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہونے، اور عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ ہونے، خلاصہ یہ کہ اس کے عالم الغیب اور ہر جگہ حاضر و موجود ہونے کی اصل یہ ہے کہ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَا قَيْنِيبُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ^۱ تو اللہ رب العزت کے علم غیب، علم کل، علم بسیط و محیط، علم غیر محدود و غیر متناہی اور حاضر ناظر ہونے کی ایک اصل و بنیاد اور وجہ و علت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے اعمال و افعال کی تفصیلات و جزئیات سے باخبر ہو کر قیامت کے دن حساب کے وقت انہیں بتلا سکیں کہ تم نے فلاں مقام پر فلاں وقت فلاں کام کیا تھا اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر و موجود ہیں تو کس مقام رسول^۲ لیے؟ آخر آپ کے حاضر ناظر ہونے کی وجہ و ضرورت کیا ہے؟

ظاہر ہے کہ رسول کا منصب حساب لینا نہیں، نبی اور رسول کا مقام انذار و تبشیر اور ابلاغ و تبلیغ^۳ ہے۔

جب حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کا منصب و مقام لوگوں تک آیات و احکام الہی صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور جو بھی نبی یا رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اللہ کے بندوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا یا اہل ایمان کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا، امام الانبیاء و سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی صاف صاف ابلاغ و تبلیغ اور واضح طور پر انذار و تبشیر ہے، تو سوال یہ ہے اس منصب و مقام کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی کیا ضرورت ہے اور لوگوں تک دین پہنچانے اور انہیں ڈرانے کے لیے عالم الغیب ہونے یا ہر جگہ حاضر ناظر ہونے کی آخر ضرورت کیا ہے؟

ایک مسلمہ اصول: منصب و مقام اور حاجت و ضرورت کے مطابق سامان، اسباب، وسائل، استعداد و اہلیت اور صلاحیت و قابلیت و دیعت کی جاتی

۱۔ سورہ انعام ع ۱۳۰ و ع ۲۰، مائدہ ع ۱۳، یونس ع ۳، لقمان ع ۲ وغیرہ آیات میں یہی مضمون ہے۔

۲۔ قَبَعَتِ اللَّهُ النَّبِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنذِرِيْنَ وَ بَارَهُ ۲ بقرہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ (آل عمران) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (مائدہ) إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (مائدہ) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنذِرِيْنَ (انعام و کہف) فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (محل) فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (محل) وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (نور و حکوت) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (یس) إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ (شوری) فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (تغابن) وَمَا آتَانَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ (سورہ احقاف)

ہے۔ ایک سپاہی یا تھانیدار کو گھوڑا یا سائیکل اور رائفل مہیا کی جائے گی، کیونکہ اس نے نظم و امن قائم کرنا اور چوروں، ڈاکوؤں وغیرہ امن دشمن عناصر کا تعاقب کرنا ہے۔ بخلاف اس کے ایک مدرس کو کتاب، قلم، اور تختہ سیاہ فراہم کیا جائے گا، کیونکہ اس نے بچوں کو پڑھانا ہے۔ ایک وکیل کو قانون کی ضخیم کتابوں سے بھرپور ایک عظیم لائبریری کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے عدالت کے سامنے ان کی روشنی میں دلائل دینا اور بحث کرنا ہے۔ بخلاف اس کے ایک ڈاکٹر کے ہسپتال میں آلات کے علاوہ ادویہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے مریضوں کا معائنہ اور علاج معالجہ کرنا ہے۔

ایک زمیندار اور کسان کے کنوئیں اور قطعے پر آپ بیل مل اور آلات کشاوری یا آج ٹیوب ویل اور ٹریکٹر موجود پائیں گے، کیونکہ اسے اپنی اراضی پر کاشت کاری کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ بخلاف اس کے ایک صنعت کار کی مل میں آپ چاروں طرف مشینوں کی گھن گرج ہزاروں مزدوروں کی کھیپ اور بجلی کی کارفرمائی دیکھیں گے، کیونکہ وہاں سوت، کپڑا یا کھانڈ وغیرہ تیار کرنے کے لیے یہ چیزیں لاپذی ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ سکول کے کمرہ میں گھوڑا باندھا اور رائفل رکھی جائے، یا وکیل صاحب کے ہاتھ میں نشتر اور مرہم پٹی ہونی چاہئے، یا مثلاً زمیندار کی زمین پر ہزاروں مزدور اور ڈھیروں خام مال ہونا چاہئے، یا کارخانہ اور مل کے اندر مال اور بیل ضرور موجود ہوں، تو لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آخر ماسٹر صاحب کو گھوڑے اور رائفل کی، یا وکیل صاحب کو نشتر اور مرہم پٹی کی یا کسان کو ہزاروں مزدوروں یا ڈھیروں خام مال کی اور کارخانہ دار کو بیلوں، ہلوں یا ٹریکٹروں کی آخر ضرورت کیا ہے؟

کتاب و سنت میں اس اصول کی رعایت: کتاب اللہ، سنت رسول اور شریعت مطہرہ میں بھی

اس اصول کی رعایت کی گئی ہے۔ مثلاً:

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا گیا تو رب العزت نے ارشاد فرمایا:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ
مُنْتَهَاهَا ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَنِ يَخْشَاهَا

(پارہ ۳۰ - نزعات)

لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ اس کے

بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق؟ اس (کے علم کی تعین) کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے۔ اور آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو۔

قیامت کب ہوگی، یہ صرف خدا جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف قیامت کی خبر سنا کر لوگوں کو ڈرانا ہے۔ جب آپ کا کام صرف ڈرانا ہے تو اس کے وقوع کے وقت کے بیان سے آپ کا کیا تعلق؟ یہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں: ”تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے۔“ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

۲. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

(پارہ ۲۹، الملک)

اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ (قیامت) کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔

اور ڈرانے والے کو قیامت کے وقوع کے وقت سے کیا بحث؟

ایک اور مقام پر اس اصول کی رعایت ملاحظہ ہو، فرمایا:

۳. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ.

(سورہ یس، رکوع ۵)

اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور یہ آپ کے لائق نہیں، یہ تو محض نصیحت ہے اور قرآن ہے صاف، تاکہ اس شخص کو ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر الزام

ثابت ہو۔

اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا علم نہیں دیا، کیونکہ شعر و شاعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیل کے لائق نہ تھی، آپ کو قرآن دیا جو نصیحت سے بھرپور ہے اور نورانی تعلیمات سے معمور! تاکہ حضرت کے قرآن پڑھ کر ڈرانے سے وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں ابھی زندگی کی رمت باقی ہے وہ اللہ سے ڈریں اور کافروں منکروں پر حجت تمام ہو جائے..... تو نبی کے منصب جلیل و مقام عظیم کے شایان قرآن ہے نہ کہ شعر، اس لیے آپ کو شعر نہیں سکھایا، قرآن دیا۔

۴۔ اسی طرح جب مشرکین مکہ نے فضول فرمائشیں کیں:

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.....

اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے سرزمین (مکہ) سے ایک چشمہ جاری کر دیں۔

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا:

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝ (پارہ ۱۵۔ نبی اسرائیل، ع ۱۰)

آپ کہہ دیجئے، سبحان اللہ! میں بجز اس کے کہ ایک آدمی ہوں، پیغام پہنچانے والا، اور کیا ہوں!

یعنی میں تو ایک آدمی ہوں پیغمبر۔ پیغمبر کو کسی فرمائش پوری کرنے کا اختیار کہاں؟ میرا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تمہاری یہ فرمائش پوری کرنا میرا کام نہیں۔

نبی کریم کے لیے علم غیب یا حاضر ناظر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟

اس اصول کی روشنی میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب و مقام ابلاغ و انداز ہے کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے علم غیب، ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت تو عالم الغیب، عالم الكل اور ہر جگہ حاضر و شہید، ناظر و بصیر اور ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کے ساتھ تو اس لیے ہیں کہ انہوں نے کل اپنے بندوں کا حساب لینا ہے اور انہیں ان کے کرتوتوں سے آگاہ کرنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حساب سے کوئی تعلق نہیں، لہذا علم بسیط و محیط اور حاضر ناظر ہونے سے آپ کا کیا کام؟

اللہ کی شان اور نبی کا مقام: اللہ رب العزت نے جہاں اپنی صفات "قدرت"، "علم" اور "شہود و حضور" کو پورے

قرآن میں بیسیوں جگہ بیان فرمایا ہے اور اپنے رسولوں کا منصب و مقام بھی متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، وہاں چند مواقع پر اپنی شان اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب ایک ساتھ بھی بیان فرمادیا ہے۔ ارشاد فرمایا:

۱. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (پارہ ۱۳۔ سورہ رعد)

پس آپ کے ذمہ تو صرف (احکام کا) پہنچا دینا ہے اور حساب لینا تو ہمارا کام ہے

اسی طرح ارشاد فرمایا:

۲. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۚ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۚ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۚ
فَعَذَابُ اللَّهِ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ ۚ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۚ

(پارہ ۳۰۔ الناشیہ)

پس آپ نصیحت کر دیجئے۔ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ ہاں جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، تو خدا سے بڑا عذاب دے گا۔

پیشک ہمارے پاس ان کو پھر آنا ہے پھر ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے۔

تو اللہ کے رسول تو صرف مذکر و مبلغ ہیں۔ تذکیر و تبلیغ اور بلاغ و نصیحت کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہے۔ آگے اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرے گا، اعراض و روگردانی اور کفر و انکار کرے گا تو اسے مال کار بارگاہ رب العزت میں پیش ہونا ہے اور اس سے حساب لینا اور اسے اس کے اعمال کے مطابق جزا سزا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو رسول خدا کو اپنے منصب کے پیش نظر، علم غیب یا حاضر ناظر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہر جگہ حاضر و موجود ہونا (باعتبار صفت علم) یہ اللہ کی صفت ہے تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن ان کے کرتوتوں سے آگاہ کر سکیں۔ اور حساب کے وقت انہیں بتلا اور جتلا سکیں کہ فلاں جگہ فلاں وقت تم نے یہ کام کیا تھا، یا یہ بات کی تھی، یا دل میں یہ منصوبہ باندھا تھا۔

ایک اور مقام پر اس حقیقت کو نہایت تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور اپنی شان علمِ کل اور مقامِ فصل و حساب کے ساتھ اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا منصب انذار و بلاغ ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا:

۳. يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظَلْمَ الْيَوْمَ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفِيفِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظَلِيمِينَ ۖ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۖ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۚ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۚ

(۲۴. مومن ۲۴)

جس دن سب لوگ (خدا کے سامنے) ظاہر ہوں گے۔ اللہ پر ان کی کوئی بات چھپی نہ رہے گی۔ اس دن کس کی بادشاہی ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو اکیلا ہے

غالب۔ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ آج (کسی پر) قلم نہ ہوگا۔ بیشک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کو قریب آنے والے دن (قیامت) سے ڈرائیے، جس وقت کلیجے منہ کو آجائیں گے، غم سے گھٹ گھٹ جائیں گے، (اس دن) ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے (بلکہ) ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انصاف سے فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، (کیونکہ) اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔

رسول کا منصب انذار ہے۔ اللہ کے رسول کا کام لوگوں کو قیامت کے ہولناک دن سے ڈرانا ہے۔ باقی اس دن حکومت و بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی۔ حساب اللہ تعالیٰ لیں گے۔ وہ پورے انصاف اور حق و عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ کیونکہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے پوشیدہ راز تک کو جانتے ہیں، لہذا کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اور صحیح فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو حقیقت حال کو جاننے والا ہو۔

اللہ رب العزت جو عالم الغیب، عالم الکل اور سمیع و بصیر اور علیم مآخسی الصدور اور بد نظری تک کو جاننے والے ہیں، تو اس لیے کہ وہ سریع الحساب ہیں اور قیامت کے دن اپنے علم سمع و بصر کی بناء پر حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ باقی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کام صرف لوگوں کو قیامت سے ڈرانا اور اللہ کا دین اور حکم پہنچانا ہے، آپ کو علم غیب یا علم کل یا سمیع و بصیر ہونے یا حاضر و ناظر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد فرمایا:

فَلَنَسْتَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَلَنَقْضُنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ
وَمَا كُنَّا بِغَائِبِينَ ۝

(پارہ ۸۔ اعراف، رکوع اول)

سو ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے، پھر ہم ان کو اپنے علم سے (ان کے گناہ) بیان کریں گے اور ہم غائب نہیں تھے۔

اللہ تعالیٰ سے کسی کا اچھا برا، قلیل و کثیر عمل مخفی نہیں، وہ اپنے علم محیط کی بناء پر ذرہ ذرہ سے

خبردار ہیں، وہ چونکہ باعتبار اپنے علم کے ہر جگہ ہر آن حاضر ہیں، کہیں سے بھی کبھی غائب نہیں، لہذا سب کے ظاہری باطنی احوال اور بھلے بُرے اعمال انہیں قیامت میں بتلا کر ان کا فیصلہ کریں گے۔

تو علمِ کل، علمِ غیب، علمِ محیط اور ہر جگہ حاضر ناظر ہونا یہ دو صفتیں اللہ رب العزت کی ہیں، جن کے موافق قیامت میں وہ اپنے بندوں کا فیصلہ کریں گے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے کردار و اعمال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سروکار نہیں، ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، وہ قیامت میں ان سے خود بات کریں گے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَإِنَّمَا أَمْرُهُمْ
إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ (پارہ ۸۔ انعام، آخری رکوع)

پیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت سے فرتے ہو گئے آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا کام اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو بتلا دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔

شانِ خَلْقِ وَرِزْقِ: آخرت اور حساب سے قطع نظر خالق اور رازق ہونے کی صفت کے تقاضے سے بھی اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کا علم

کل ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:

۱. خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ (پارہ ۷۔ انعام ع ۳)

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔

۲۔ دوسری جگہ فرمایا:

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ (پ ۲۳، آخرین)

ایک کھڑی والا جانتا ہے کہ میں نے آج اتنے گز کپڑا بنا ہے..... ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنے گھرے اور اتنے لوٹے تیار کیے ہیں..... میرے بھتے میں اتنے برتن ہیں..... ایک لوہار جانتا ہے کہ میں نے کل اتنے توے بنائے تھے اور آج اتنی کلباڑیاں تیار کی ہیں..... ترکھان جانتا ہے کہ میں نے اتنے پنگ بنائے ہیں اور اتنی کرسیاں تیار کی ہیں..... تو خلاق العظیم کو کیسے ہر چیز کا علم کل نہ ہو..... جس نے ہر چیز کی تخلیق فرمائی ہے۔

۳. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمُ مَا تَوْسُوں بِهِ نَفْسُهُ. (ق. ۲۶)

اور بیشک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم وہ جانتے ہیں۔

۴. **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.** (۲۹. ملک)

کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا۔ اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔

اللہ تعالیٰ ایک تو خالق، پھر بازیک بین اور پورے خبردار، پھر وہ نہ اپنی مخلوق کے حالات جانیں تو اور کون جانے؟

۵. **وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ** (آغاز پارہ ۱۲)

اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہر ایک کی قرار گاہ اور چند روز رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔

جب ٹھیکیدار نے فوج کو راشن وغیرہ مہیا کرنا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہئے کہ آج فوج کا پڑاؤ کہاں ہے؟ صبح کس جگہ تیار ہے؟ اور یہاں سے کوچ کرنے کے بعد پچھلے پہر کی چائے کہاں پینی ہے اور رات کا کھانا کہاں کھانا ہے۔

تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو جو رزق دینا ہے تو اسے اپنی مخلوق کے متعلق بسیط و کل علم کیسے نہ ہو کہ فوق الافلاک ہے یا تحت الارض؟ یا ان کے درمیان؟ پھر پانی میں ہے یا ہوا میں؟ پتھر کے اندر ہے یا آگ میں؟ جہاں بھی جو مخلوق ہے اس کا علم رازق کو ہے، وہیں اس کا رزق پہنچاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ خالق اور رازق ایک اللہ کی ذات پاک ہے۔ رسول اللہ ﷺ نہ تو کسی کے خالق ہیں نہ رازق، بلکہ خود اللہ کے مخلوق و مرزوق ہیں۔ جب آپ ﷺ کسی چیز کے خالق و رازق نہیں تو آپ کے لیے علم غیب و علم کل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا منصب ابلاغ و تبلیغ اور انداز و تبشیر ہے اور اس کے لیے علم غیب کی ضرورت ہے نہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی!

غیر رسول کے متعلق: جب رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پاک کے لیے علم غیب، علم کل اور ہر جگہ حاضر و موجود ہونے کی کوئی وجہ و

ضرورت نہیں اور آپ نے خود اپنی ذات سے ان صفات کی صاف نفی فرمادی تو غیر رسول کے

لیے اس کی بدرجہ اولیٰ کوئی وجہ اور ضرورت نہ ہوگی۔ مگر حیرت و استعجاب کا مقام ہے کہ عہد حاضر کے بعض ”شرفا“ اولیاء کرام رحمہم اللہ کے لیے ہر جگہ حاضر و موجود ہونے کا اثبات کرتے ہیں..... اور ہر آن!

چنانچہ خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں:

”انہی سیدی احمد سلجاسی کے دو بیویاں تھیں، سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رات تم نے ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہمبستری کی، یہ نہیں چاہئے۔“ عرض کیا: ”حضور وہ اس وقت سوتی تھی۔“ فرمایا: ”سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈال لی تھی۔“ عرض کیا: ”حضور کو کس طرح علم ہوا؟“ فرمایا: ”جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا۔“ عرض کیا: ”ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔“ فرمایا: اس پر میں تھا۔“ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہر آن ساتھ ہے۔^۱

تو یہ صرف حضرت دباغ رحمہ اللہ کی خاص صفت نہیں بلکہ ”ہر شیخ مرید سے جدا نہیں ہر آن ساتھ ہے“ اور یہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان لوگوں میں قریباً سبھی ”شیخ“ ہیں۔ تو مرید بے چاروں کو، میاں بیوی کو اپنے علاوہ ایک خالی پلنگ کا انتظام بھی بہر حال کرنا پڑے گا کیونکہ کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے مگر یہ ”ارشاد“ نہیں فرمایا کہ جب مریدین ماشاء اللہ بیٹھا رہیں، تو حضرت شیخ کورات کی خلوت و تنہائی اندھیرے میں سینکڑوں ہزاروں جگہ وقت ”بے وقت“ تکلیف فرما کر مرید کے ساتھ ہونے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ ایک اور ”بزرگ“ ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں، لکھتے ہیں:

لَا تَسْتَقِرُّ نُطْفَةٌ فِي فَرْجِ اُنْثَى اِلَّا يَنْظُرُهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ اِلَيْهَا.^۲

کسی مادہ کی شرمگاہ میں کوئی نطفہ قرار نہیں پکڑتا مگر وہ کامل اس کو دیکھتا ہے۔

سچ فرمایا کون انکار کرے۔ مگر اتنا تو فرما دیجئے کہ آخر وہ ”رجل کامل“ یہ تکلیف کس وجہ

سے فرماتے ہیں؟

۱۔ ”مخوفات“ حصہ دوم ص ۴۹ (”تعمیر النواظر“ ص ۴۳) یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز صاحب مدظلہ کی

تالیف ہے۔

۲۔ نجم الرحمن بحوالہ صاعقۃ الرحمن ص ۵۰ (”تعمیر النواظر“ ص ۴۳)۔

فقہاء اسلام کی طرف سے حضرات انبیاء و اولیاء کو حاضر ناظر ماننے والوں کی تکفیر

عہد حاضر کے ”فقہا شہر“ کے ”ارشادات عالیہ“ تو آپ نے سن لیے، اب شریعت محمدی کا فیصلہ اور حضرات فقہاء امت کا حکم ملاحظہ ہو:

خاتم الفقہاء امام وقت حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنویؒ (۱۳۰۴ھ) رحمہ اللہ رقمطراز ہیں ہمچو اعتقاد کہ حضرات انبیاء و اولیاء ہر وقت حاضر و ناظر اند وبہمہ حال بر فناء ما مطلع میشوند اگرچہ از بعید باشد، شرک است، چہ این صفت از مختصات حق جل جلالہ است، کسے را در ان شرکت نیست، در فتاویٰ بزازیہ مے نویسد تزوج بلا شہود و قال خدامے و رسول خدا و فرشتگان را گواہ کردیم یکفر لآنہ اعتقدہ ان الرسول والملك يعلمان الغیب انتہی ونیز در بزازیہ است وعن هذا قال علماءنا من قال ان ارواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر۔ انتہی....!

اس قسم کا اعتقاد کہ حضرات انبیاء و اولیاء ہر وقت حاضر و ناظر ہیں اور ہر حال میں ہماری پکار سنتے ہیں، گو دور سے بنی پکاریں، شرک ہے، کیوں کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی خصوصیات سے ہے۔ اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں۔ فتاویٰ بزازیہ میں لکھتے ہیں: گواہوں کے بغیر نکاح کیا اور کہا: خدا اور رسول خدا اور فرشتے گواہ ہیں، یہ کافر ہو گیا کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ رسول اور فرشتے غیب جانتے ہیں نیز بزازیہ میں ہے کہ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جس نے کہا: بزرگوں کی ارواح حاضر ہیں، اور وہ جانتی ہیں، یہ کافر ہو گیا۔

فتاویٰ بزازیہ کے علاوہ فقہاء حنفیہ رحمہم اللہ کا یہ قول بحر الرائق مطبوعہ مصر جلد ۵ صفحہ ۱۲۲ پر

بھی ہے۔

۱۔ ”مجموعۃ الفتاویٰ“ از حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ مطبوعہ ۱۳۱۲ھ۔

شریعت محمد و دین اسلام کی مجبوری و مظلومی ملاحظہ ہو کہ فقہاء اُمت،، نہ اعلام دین کے فتاویٰ و احکام بلکہ خود کتاب و سنت کے برعکس و برخلاف آج جاہل و بے دین لوگ مفتی و مجتہد بن کر فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ ”جو اولیاء اللہ اور خصوصاً امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کو حاضر ناظر نہ جانے وہ کافر ہے۔“ کہاں علماء اُمت کا یہ فرمان کہ جو ارواح مشائخ کو حاضر سمجھے وہ کافر ہے اور کہاں آج اُلثانیہ ہفتوات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شیخ و مرشد کو ہر وقت حاضر نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ انا اللہ.....

قدرت و اختیار

”عبادت“ کی تیسری اور عظیم شرط و بنیاد ”قدرت و اختیار“ ہے۔ خاتم المفسرین حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

اِذْ شَرَطَ اسْتِحْقَاقِهَا الْقُدْرَةَ الْكَامِلَةَ التَّامَّةَ عَلَى دَفْعِ الضَّرْرِ وَجَلْبِ النِّفْعِ.

عبادت کی شرط و بنیاد یہ ہے: دفع ضرر و جلب منفعت پر قدرتِ کاملہ تامہ!

قدرتِ کاملہ و اختیارِ کل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اثبات اور عدم قدرت و اختیار کی بنا پر عبادتِ غیر اللہ کی نفی و مذمت

۱. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط قُلْ لِمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ط وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(پارہ ۶۔ مائدہ، رکوع ۶)

بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہے۔ آپ پوچھئے کہ اگر اللہ، مسیح ابن مریم کو، اذراں کی والدہ کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہیں تو کون اللہ سے (بچانے کا) ذرا بھی اختیار رکھتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے

۱۔ ”روح البانی“ جلد ۵ ص ۹۸۔

خاص ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کی حکومت۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
تو جو اللہ خالقِ کُل، قادرِ مطلق، زمین و آسمان کا بادشاہ اور غالبِ علیٰ کُل ہے، عبادت اسی کا حق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کیا خدا ہوں گے جن کو اپنے تحفظ تک کا اختیار نہیں۔ اگر اللہ نہیں ہلاک کرنا چاہیں تو کوئی انہیں بچا نہیں سکتا۔ بے اختیار مخلوق بھلا اللہ ہونے کا کیا حق رکھتی ہے؟
۲۔ عبادت خالق و مالک، عالمِ کُل و کارسازِ عالم کا حق ہے۔ یہ صفات صرف ذاتِ واحد باری تعالیٰ میں ہیں۔ لہذا اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا عبادت کسی کا حق ہی نہیں۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط أَنَسَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ط
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ (۷۔ انعام ۱۳۷)
وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی بیوی تو ہے نہیں۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا خالق ہے تو تم اس کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔

۳۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ تَقْدِيرًا ۝ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً
لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝ (۱۸۔ آغاز سورہ فرقان)

وہ (اللہ) جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے کسی کو (اپنی) اولاد نہیں بنایا، اور نہ (ہی) کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے۔ اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ اندازہ رکھا۔ (ان صفتوں کے مالک اللہ کو چھوڑ کر) مشرکین نے اللہ کے سوا (دوسرے) معبود بنا لیے جو نہ (تو) کوئی چیز پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور خود اپنے لیے نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت و حیات کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ (قیامت کے دن) دوبارہ اٹھنے کا!

اللہ زمین و آسمان کا حاکم و بادشاہ ہے۔ واحد بادشاہ۔ کوئی اقتدار و شاہی میں اس کا شریک

نہیں۔ پھر وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ مگر کتنے ظالم ہیں مشرک کہ ان صفتوں کے مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان معبودوں کی پرستش کرتے ہیں جو خود مخلوق ہیں، کسی اور کو کیا پیدا کریں گے، اور خود اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، موت و حیات پر قدرت نہیں، ان بے بس و بے اختیار معبودوں کو عبادت کا حق کہاں سے حاصل ہو گیا؟

۴. مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا جِ وَ مَا يُمَسِّكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ط وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ط هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تَوْفِيقُونَ ۝ (پارہ ۲۲۔ قاطر شروع)

اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اللہ جو کچھ بند کر دے اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ اور وہ غالب، حکمت والا ہے۔ اے لوگو! تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہو۔ (جب نہ کوئی خالق ہے نہ رازق تو پھر) اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق (بھی) نہیں، سو تم کہاں اُلٹے جا رہے ہو؟

جب خالق و مالک اور رحیم و رازق صرف اللہ ہے، اس کے سوا نہ تو کوئی خالق ہے نہ رازق نہ رحیم ہے نہ منعم، تو پھر اس کے سوا کسی کو عبادت کا کیا حق ہے؟ پھر عبادت کسی کا بھی حق نہیں۔

۵. يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يُجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ (پارہ ۲۲۔ قاطر ۲)

وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سلطنت (بھی) اسی کی ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔

اللہ رب العزت دن رات کو گھنٹاتے بڑھاتے ہیں، موسموں میں تغیر تبدیل کرتے ہیں، پھر سلطنت و بادشاہی اسی کی ہے، لہذا عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ مگر ظالم مشرک اللہ کے ساتھ ان معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں کھجور تو کھجور، کھجور کی گٹھلی تو گٹھلی، گٹھلی کے اوپر باریک سے

پردے کا بھی اختیار نہیں۔

۶ . ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَانِي تُوَفَّقُونَ كَذَلِكَ
يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ۚ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ

(۲۴. مومن ۷۷)

یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس تم کہاں اٹھے چلے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ (پہلے) لوگ بھی اٹھے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی جگہ بنایا اور آسمانوں کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت بنائی، سو عمدہ صورتیں بنائیں، اور تم کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، پس بڑا برکت والا ہے اللہ سارے جہانوں کا پروردگار۔ وہی (ازلی، ابدی) زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم خالص اعتقاد کر کے اسی کو پکارو۔

خالق، مالک، رازق، مصور، شکم مادر میں احسن و اجمل تصویریں بنانے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ زمین و آسمان اس نے بنائے، ان عظیم اختیارات کے واحد مالک کا حق ہے کہ ہر قسم کی عبادت اس کی کی جائے۔ اس کے سوا عبادت کسی کا حق ہی نہیں۔

عبادت کی بنیاد اور الوہیت و معبودیت کے لوازم نفع نقصان کا ملک و اختیار ہے۔ معبود کے نفع و ضار ہونے کے علم و یقین ہی کے اندر اس کی الوہیت و معبودیت کا سارا راز مضمر ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اس اصل و اساس کی بناء پر اپنی عبادت کا اثبات فرمایا ہے وہاں اس کے عدم و فقدان پر یعنی تمام ماسوی اللہ کے نفع نقصان کا مالک نہ ہونے پر اب ان کی معبودیت کی نفی فرما رہے ہیں۔ چند آیات ملاحظہ ہوں:

۷ . وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. (یونس، ۲۷)

۸ . قُلْ اتَّعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝ (مائدہ، ۱۰۷)

۹۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ

اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝
 اور خدا کے سوا اس کی عبادت نہ کرنا جو تجھے نفع نہ پہنچا سکے نہ نقصان، پھر اگر
 (بالفرض) آپ نے ایسا کیا تو تم اس حالت میں اللہ کا حق ضائع کرنے والوں
 میں سے ہو جاؤ گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

۱۰۔ قَالَ اتَّعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَ
 لِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
 (پارہ ۱۷۔ انبیاء، ۵۷)
 کہا: تو کیا تم خدا کے بغیر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے نہ
 نقصان، تف ہے تم پر اور ان چیزوں پر جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل
 نہیں رکھتے۔

۱۱۔ يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ.

(پارہ ۱۷۔ حج، ۲۷)

خدا کے سوا اس چیز کی عبادت کرتا ہے جو نہ تو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، یہ
 انتہاء درجہ کی گمراہی ہے۔

۱۲۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ
 ظَهِيرًا.

(سورہ فرقان، ۵۷)

اور (مشرک) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نفع دے سکتی
 ہیں نہ نقصان، اور کافر اپنے رب کا مخالف ہے۔

اس مضمون کی آیات سورہ رعد، بنی اسرائیل، شعراء، سباء، زمر اور شوریٰ وغیرہا میں بھی
 بکثرت موجود ہیں جن کا احاطہ بڑا مشکل ہے۔ نہ ہی احاطہ مقصود ہے۔

خلاصہ: پہلے چند وہ آیات بطور مثال پیش کی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ تامہ
 اور ذاتِ پاک رب العزت کے تصرفاتِ مطلقہ عامہ و اختیاراتِ کلیہ کا ذکر و بیان
 ہے اور اسی اقتدارِ اعلیٰ و اختیارِ کُل اور تصرفِ مطلق کو لوازمِ الوہیت و اساسِ عبادت قرار دیا گیا
 ہے، بعد میں چند وہ آیات پیش کی گئی ہیں جن میں غیر اللہ کے اختیار و تصرف کی کلیہ نفی کر کے
 ان کی اسی بے اختیاری و بے بسی کو ان کی عدم عبادت کی وجہ و دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے،

اور ان بے اختیار و مجبور معبودوں کی پرستش کو کفر و ضلال بعید فرمایا گیا ہے، کیونکہ عجز و بے اختیاری شان الوہیت کے منافی ہے۔

یہ محض مثال کے طور پر چند آیات ذکر کی گئی ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کی قدرتِ تامہ مطلقہ اور غیر اللہ کی یکسر بے بسی و بے اختیاری سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ و اختیارِ کُل سے متعلق چند آیات ملاحظہ ہوں:

قدرتِ کاملہ اور کُل اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا:

۱. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْخِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝
(پارہ ۳۔ آل عمران، رکوع ۳)

آپ کہتے! اے اللہ سارے ملک کے مالک آپ جس کو چاہیں ملک دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں ملک چھین لیتے ہیں اور جس کو چاہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں ذلت دیتے ہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے سب بھلائی، بیشک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکالتے ہیں (جیسے انڈے سے بچہ) اور بے جان چیز کو جاندار سے نکالتے ہیں (جیسے پرندہ سے انڈہ) اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔

۲. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
(انعام، ۲۷)

اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچادیں تو اللہ ہی کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ تجھے کوئی نفع پہنچادے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں

۳. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا

رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

(پارہ ۱۱۔ آخر سورہ یونس)

اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچادے تو اسے دور کرنے والا بجز اس کے کوئی نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں اپنا فضل کرتے ہیں اور وہ بخشنے والے بڑی رحمت والے ہیں۔

تو تکلیف و راحت، بھلائی، بُرائی، نفع و ضرر پر کامل اختیار اور قبضہ تامہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اس ذات پاک کے سوا کسی کو بھی سود و زیاں اور دُکھ، سکھ پر قطعاً کوئی اختیار نہیں۔ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف اور دُکھ درد کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور جس پر وہ فضل و کرم فرمائیں کسی کو طاقت نہیں کہ روک دے۔ مالک علی الاطلاق اور قادر مطلق فقط ایک ذات اللہ واحد کی ہے۔

۴۔ صرف ایک موقع اور ملاحظہ ہو، ارشاد ہوتا ہے:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اِنَاثًا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُوْرَ ۝ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَاِنَاثًا ج وَيَجْعَلُ مَن
يَشَاءُ عَقِيْمًا ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

(پارہ ۲۵۔ آخر سورہ یونس)

آسمانوں اور زمین کی سلطنت و بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطاء فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے اور جس کو چاہے (محض) بے اولاد رکھتا ہے۔ بیشک وہ بڑا جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔

زمین و آسمانوں کی حکومت اللہ ہی کی ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ بیٹے، بیٹیاں، دینا نہ دینا، محض اس کے اختیار میں ہے۔ وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی، علمِ کُل اور قدرتِ کاملہ خاص اس کی صفات ہیں۔ وہ اپنے علم کی بناء پر اپنی قدرت سے جس کو چاہے جو اولاد دے یا مطلق نہ دے۔

بطور اجمال اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا بیان:

جہاں پورے قرآن میں اللہ رب العزت کی قدرتِ کاملہ و اختیارِ عامہ کی تفصیلات موجود

ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں، وہاں قرآن کریم میں ۲۲۲ مقامات پر بطور اجمال ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ملاحظہ ہو:

۱۔	إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ	پورے قرآن میں ۳۵	مقامات پر ہے
۲۔	وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا	۱	کہنہ ۶۷
۳۔	عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وَاللَّهُ قَدِيرٌ، قَدِيرٌ أَوْ قَدِيرًا	۱۱	"
۴۔	بِقَادِرٍ، الْقَادِرِ	۷	اور قادر وغیرہ
۵۔	وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ	۱۱	الوکیل اور وکیلا
۶۔	وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيِتًا	۱	"
۷۔	وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطًا	۱	"
۸۔	عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ	۲	"
۹۔	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ	۲	القاهر
۱۰۔	لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَغَيْرُهُ	۶	القہار

۱۔ "قدیر" اسے کہتے ہیں جو اتنا بخت کے مطابق جو چاہے کرے (مفردات القرآن)

۲۔ دو مقام پر "قدیراً" ہے باقی ۳۳ مقامات پر "عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" ہے۔ شروع میں کہیں إِنَّ اللَّهَ ہے، کہیں اَنَّ اللَّهَ ہے، کہیں وَاللَّهُ ہے، کہیں وَهُوَ ہے۔

۳۔ مقتدر: با اقتدار، ہر طرح کی قدرت والا (لغات القرآن جلد ۵ ص ۴۲۷) اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔

۴۔ قادر: قابو پانے والا، طاقت رکھنے والا، گرفت کرنے والا، غالب ("لغات القرآن" جلد ۵ ص ۶۵)

اسماء حسنیٰ میں سے ہے

۵۔ وکیل: کارساز، نگران، نگہبان ("لغات القرآن" جلد ۶ ص ۱۳۳) اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔

۶۔ مقیتا: قادر، نگران، محافظ ("لغات القرآن" جلد ۵ ص ۴۳۲) "المقیت" صاحب اقتدار، نگہبان و محافظ (لمنجد) اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔

۷۔ محیطا: ہر طرف سے گھیرے ہوئے، پورا پورا قابو رکھنے والا ("لغات القرآن" جلد ۵ ص ۳۳۶)

۸۔ حفیظ: نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔ کیونکہ وہ کل کا نگہبان ہے

("لغات القرآن" جلد ۲ ص ۲۸۷)

۹۔ قاهر: غالب ("مفردات القرآن" و "لغات القرآن" جلد ۵ ص ۱۱۸)

۱۰۔ القہار: ایسا زبردست غالب جس کے مقابلے میں سب ذلیل ہیں ("لغات القرآن" جلد ۵ ص ۱۴۳)

مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔

۱۰	وَلِيًّا	۱۱۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ
۸	قَوِيًّا	۱۲۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَغَيْرِهِ
۳	الْوَهَّابِ	۱۳۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَغَيْرِهِ
۲	مُحِيًّا	۱۴۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيٍّ الْمَوْتَى وَغَيْرِهِ
۵	الْمَلِكِ	۱۵۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمَلِكِ، مَالِكِ الْمَلِكِ وَغَيْرِهِ الْمَلِكِ
۵	الْمَلِكِ	۱۶۔ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ..... وَغَيْرِهِ
۳	پورے قرآن میں	۱۷۔ الْمُؤْمِنِينَ ۱۸. الْمُهَيِّمِينَ ۱۹. الْجَبَّارِينَ
۸۶	پورے قرآن میں	العزیز

۱۔ ولی: مددگار، کارساز، محافظ، نگہبان، بچانے والا ("لغات القرآن" جلد ۶ ص ۱۳۲)

اسما حسنیٰ میں سے ہے۔

۲۔ قوی: طاقتور، قوت والا ("لغات القرآن" جلد ۵ ص ۱۱۸) غالب، طاقتور، زبردست، (مفردات القرآن)

اسما حسنیٰ میں سے ہے۔

۳۔ الوہاب: مبالغہ کا میضہ۔ بہت عطاء کرنے والا ("لغات القرآن" جلد ۶ ص ۱۳۵)

اسما حسنیٰ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بقدر استحقاق بخشتا ہے، اس لیے "الوہاب" کہا جاتا ہے (مفردات القرآن)

۴۔ محی: زندہ کرنے والا، حیات بخشنے والا (لغات القرآن)

۵۔ مالک الملک: سارے جہان کے حکمران، ہر ذرہ پر قدرت اور قابو رکھنے والے

("لغات القرآن" جلد ۵ ص ۲۷۲)

۶۔ الملک: بادشاہ، اقتدار ("لغات القرآن" جلد ۵ ص ۲۳۲)۔ عے المؤمن: امن دینے والا۔

۷۔ المہیمن: نگران (ایضاً ص ۳۹۳) نگہبانی و حفاظت کرنے والا۔

۸۔ الجبار: جبر سے مبالغہ کا میضہ زبردست دباؤ والا۔ خود اختیار چوں کہ باری تعالیٰ اپنے فیضانِ نعمت سے سب لوگوں

کی حالتیں درست کرنا اور ان کے نقصانات پورے فرماتا ہے، اس لیے اس کا نام جبار ہے۔ امام بیہقی کتاب الاسماء

والصفات میں محمد بن کعب سے روایت کرتے ہیں: "وہ جبار ہے اس لیے موسوم ہے کہ مخلوق کو اپنے ارادہ کے آگے

مجبور کر دیتا ہے۔" ("لغات القرآن" جلد ۲ ص ۲۳۲)

۹۔ العزیز: غالب، زبردست، قوی، مبالغہ کا میضہ ہے۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں: "عزیز وہ ہے جو غالب ہو،

مغلوب نہ ہو" زجاج نے اس کے معنی کیے ہیں "ایسا زبردست جس پر کوئی چیز غالب نہ ہو سکے" دوسرے لوگوں نے اس

کا ترجمہ کیا ہے: "قوی جو ہر شے پر غالب ہو" اور ابوسلیمان و امام خطابی صاحب "معالم السنن شرح سنن ابی داؤد" رحمہ

اللہ کہتے ہیں کہ "عزیز" ایسا غالب جو مغلوب نہ ہو ("لغات القرآن" جلد ۲ ص ۳۰۰)

۱۸۔	المتین ^۱	پورے قرآن میں	۱	مقام پر
۱۹۔	وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ، اِنَّا مُنْتَقِمُونَ. وغيره	مُنْتَقِمٌ ^۲	۶	" "
۲۰۔	اِنَّ اللّٰهَ وَاَسْعَ عَلِيْمٌ. وَاللّٰهَ وَاَسْعَ عَلِيْمٌ.	وَاَسْعَ ^۳	۸	" "
۲۱۔	اللّٰهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.	الْقَيُّوْمُ ^۴	۳	" "
۲۲۔	وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ، اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ^۵		۵	" "
۲۳۔	خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ ^۶ اَوْ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ^۷		۲	" "
۲۴۔	عَلِيٌّ هَذَا اِيك اِيك مَقَامٍ پَرِ حَكْمٍ ^۸ ، وَالِ ^۹ (وَالِي) اَوْ الْفَتْاحُ ^{۱۰}		۳	" "

میزان = ۲۲۳ مقامات

خلاصہ: اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں قریباً سوا دو سو مقامات پر اپنی قدرت عامہ، اپنے غلبہ و اقتدار تامہ اور اپنی قوت و حاکمیت مطلقہ کا بیان و اثبات تو فرمایا ہے، مگر ایک جگہ پر بھی غیر اللہ، کسی بت اور قبر نہیں، کسی فرشتہ یا ولی حتیٰ کہ نبی کے لیے قدرت و اختیار کا ذکر نہیں فرمایا۔

۱۔ المتین: قوی، طاقت والا۔

۲۔ مُنْتَقِمٌ: بدلہ میں سزا دینے والے ("لغات القرآن" جلد ۲ ص ۲۸۹)

۳۔ وَاَسْعَ: بہت دینے والا، ہر چیز پر محیط (المنجد)

۴۔ الْقَيُّوْمُ: اسماء حسنی میں سے ہے، یعنی ذات الہی ہر چیز کی نگران اور محافظ ہے اور ہر چیز کو اس کی ضروریات زندگی بہم پہنچاتی ہے (مفردات القرآن)

۵۔ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ: سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم۔

۶۔ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ: سب حکم کرنے والوں سے بہتر۔

۷۔ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ: بہتر حکم کرنے والا۔

۸۔ الْحَكْمُ: حکم جاری کرنے والا، فیصلہ کرنے والا (المنجد)

خَكْمًا: فیصلہ کرنے والا۔ یہ حاکم سے زیادہ بلخ ہے ("لغات القرآن" جلد ۲ ص ۲۸۹)

۹۔ وَالِ: اصل میں والی ہے، وَاَلَيْتُ مصدر، مددگار، حامی، مدد پر قادر ("لغات القرآن" جلد ۶ ص ۱۱۳)

۱۰۔ الْفَتْاحُ: بہت بڑا فیصلہ کرنے والا، صیغہ مبالغہ، حاکم (المنجد)

اسماء الحسنیٰ: نیز قرآن کریم میں مذکورہ بالا صفات و اسماء الہی کے علاوہ، قابض^۱، باسط^۲، خافض^۳، رافع^۴، مُعزّز^۵، مُذلّ^۶، وَّاجِد^۷، مُمیت^۸، مُغنی^۹، مُنفع^{۱۰}، مُضارّ^{۱۱}، مُنعم^{۱۲}، وغیرہ اسماء الحسنیٰ اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ نفع، نقصان، عزت و ذلت، موت و حیات سب اللہ ربّ العزت کے ہاتھ میں ہے۔

یہ تو صرف اجمالی طور پر صفات و اسماء الہی سے سوا دو سو مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور اختیار و اقتدارِ عامہ کا ذکر ہے، ورنہ یوں تو سارے قرآن کا موضوع ہی یہی ہے اور پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ ربّ العزت نے اپنی قدرتِ کاملہ، ربوبیتِ عامہ اور رحمتِ واسعہ کو بیان فرمایا ہے۔

نیز انسان اگر چشم بصیرت سے دیکھے تو ساری کائنات، سارا جہان اور خود اس کا اپنا وجود اللہ ربّ العزت کی قدرت کا مظہر و شاہد ہے۔ لیل و نہار کی گردشیں، دن رات کا گھٹنا بڑھنا، موسم کے تغیرات، گرمی سردی، خزاں، بہار، برسات، بجلی، گرج، کڑک، چمک، پھر دریا، پہاڑ، زمین، آسمان، چاند، تارے، سورج، پھر خاک، نوری، ناری، بری، بحری اور آسمانی مخلوقات، پھر ساری مخلوق کے لیے ضروریاتِ زندگی کا اہتمام، زمین سے فصلوں، غلوں، پھلوں اور میوؤں کی پیدائش کیا یہ سب کچھ کسی ان دیکھی طاقت اور غیر محدود و لامتناہی قدرت کا پتہ نہیں دیتا؟ اگر یہ تمام مناظرِ قدرت اور مشاہدِ فطرت کسی کی آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں تو پھر اسے کم از کم اپنے وجود کو دیکھنا چاہئے کہ اس کی اصل کیا ہے۔ کیا ناپاک پانی کے قطرے سے یہ کوہ پیکر اور پیل تن جوان، یہ سڈول جسم کا تو مند پہلوان خود بخود بن گیا؟ کتنی تبدیلیوں کے بعد اور کتنی منزلیں طے کرنے کے بعد اسے یہ جسم ملا۔ پھر یہ جوانی خود بخود بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی اور زور و قوت، صحت و توانائی کا یہ مجسمہ خود بخود ضعف و نقاہت کی نذر ہو کر موت کے منہ میں چلا جائے گا اور ایک دن اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا؟ یہ تبدیلی پر تبدیلی لانے، یہ گندے پانی سے خوبرو، قوی تن بدن بنانے اور پھر ایسے حسین و جمیل چہروں کو مٹی کی مٹھی بنا کر رکھ دینے والی ذات

۱ قابض: جگہ دینے والا۔ ۲ باسط: کشادگی کرنے والا۔ ۳ خافض: پست کرنے والا۔ ۴ رافع: بلند کرنے والا۔

۵ مُعزّز: عزت دینے والا۔ ۶ مُذلّ: ذلت دینے والا۔ ۷ وَّاجِد: قادر (المجد)۔ ۸ مُمیت: مارنے والا۔

۹ مُغنی: بے پروا کرنے والا۔ ۱۰ مُنفع: نفع دینے والا۔ ۱۱ مُضارّ: نقصان پہنچانے والا۔

۱۲ مُنعم: روکنے والا، حفاظت کرنے والا۔

کا انکار ممکن ہے؟ یا اس ذات پاک کی قدرت اور ربوبیت اور رحمت اور اس کے اختیارِ کل کا احساس و ادراک یا اقرار و اعتراف کوئی مشکل ہے؟

معبودانِ باطل نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے!

جہاں قدرت و اختیار کی اس بحث کے شروع میں اللہ رب العزت کی قدرتِ کاملہ کے ساتھ معبودانِ من دُونِ اللہ کی بے بسی و بے اختیاری واضح ہو چکی ہے، ان کی بے اختیاری کا یہ حال ہے کہ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ یہ کھجور کی گٹھلی تو کیا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک پردے تک کے مالک نہیں، وہاں ان آیات کے علاوہ پورے قرآن میں نہایت شرح و بسط اور تکرار کے ساتھ بار بار معبودانِ باطل کی بے اختیاری ثابت کی گئی ہے۔

غیر اللہ کی پوجا پاٹ کا فلسفہ: غیر اللہ کی پرستش کا منشاء دراصل ان کی مفروضہ و مزعومہ قدرت و طاقت ہے۔ انسان فطرتاً ”لا الٰہی“

ہے۔ یہ ہر وقت اپنے لیے نفع کی تلاش اور نقصان سے بچنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کی پوری زندگی کا تانا بانا سود و زیاں کی ادھیڑ بن ہے۔ اسے ہمہ وقت یہی فکر دامنگیر رہتی ہے کہ اس کے وارے نیارے ہو جائیں۔ اسے کاروبار میں لین دین میں نفع ہی نفع ہو۔ مال و دولت میں زیادتی اور گھربار، اہل و عیال، آل و اولاد میں افزائش ہو۔ کمی نقصان اور خسارے کے تصور سے یہ لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے۔

تجارت، مال و دولت میں نقصان کا اندیشہ ہو یا جان اور بال بچوں کی بیماری یا موت کا خطرہ! تو یہ گھبرا کر چارہ سازی کی فکر میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے تو ہر کڑی سے کڑی آزمائش میں اپنے قادر و کریم مولا کو یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ لیکن نفس اور شیطان کے بندے اللہ کے نیک، صالح بندوں، اماموں، ولیوں اور نبیوں کو قدرت اور اختیار کا مالک سمجھ کر انہیں پکارتے ہیں، ان کی منتیں مانتے ہیں، اور جب اللہ کریم رب رحیم ان کی مشکل حل کر دیتے ہیں تو یہ بزرگوں کی خانقاہوں پر نذریں پیش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مزاروں کو چومتے چانتے ہیں، اور اگر ممکن ہو تو قبر کی خاک مٹی تک پھانک جاتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت صاف معلوم ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی اصل و اساس جلبِ منفعت کا جذبہ ہے، یا دفعِ مضرت کا! حرص و ہوس کے بندوں نے جب بھی کسی غیر اللہ کی

عبادت کی ہے، کسی نفع کے لالچ میں یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے! غیر اللہ کی پرستش کا سارا فلسفہ آپ کو ان دو ہی لفظوں..... جلبِ منفعت یا دفعِ مضرت..... کے گرد گھومتا نظر آئے گا۔

مثال کے طور پر دیکھئے جاہل انسان نے دیکھا، پانی پر اس کی زندگی کا مدار ہے، دریا اس کی فصلوں کو سیراب کرتا ہے، تو اس نے پانی اور دریا کی پوجا شروع کر دی۔ سورج کو دیکھا اس کے اندھیروں کو اُجالے میں بدلتا ہے، اسے نور و ضیاء دیتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے، اس کی فصلیں اور اس کے پھل، میوے پکاتا ہے، اس کی پرستش شروع کر دی۔ چاند تاروں کو دیکھا کہ رات کو ٹھنڈی روشنی بہم پہنچاتے ہیں، ان کی پوجا میں لگ گیا۔ ہندی مشرکین نے دیکھا گائے بیٹھا دودھ دیتی ہے، ٹھنڈی لسی پلاتی ہے، اس کی پوجا پاٹ میں مصروف و منہمک ہو گئے۔ ہالی دھوپ میں ہل چلا کر آیا، تھکا ماندہ تھا، پیپل یا بڑ کے گھنے سائے میں بیٹھ کر ستانے لگا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگی، تن بدن میں جان آئی تو پیپل اور بڑ کی پوجا شروع کر دی۔ آگ کو دیکھا یہ کھانا پکاتی ہے اور مشتعل ہو جائے تو جلا ڈالتی ہے۔ اس کے ضرر سے بچنے کے لیے اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ بعض احمقوں نے دیکھا کہ سانپ موت کا سبب بنتا ہے تو ڈر کر اس کی پرستش شروع کر دی اور بعض عقل کے اندھوں نے بعض بیماریوں کو موت اور تکلیف کا سبب بنتے دیکھ کر ان بیماریوں کی مثلاً چیچک کی پوجا شروع کر دی۔ اور عقل کے ساتھ حیا و شرافت کا بھی جنازہ اٹھ گیا جب آبرو باختہ بے اولاد ہندو رانیوں نے شو ”جی“ کے مندر میں جا کر شو لنگ کے ساتھ مس و مساس کر کے مخصوص انداز میں شو لنگ تک کی پوجا کی، محض اس لالچ میں کہ اس کی ”کرپا“ سے رانی کو بچل جائے گا۔ انا اللہ و نالہیہ راجعون۔

بتوں کی پوجا کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اکابر و اعظم رجال کے ناموں پر یا ان کی صورتوں پر گھرے ہوئے ہیں۔ یہ ان اولیاء و صلحاء کی پرستش کے گویا قبلہ و ذریعہ ہیں۔ ان کی پوجا سے وہ اولیاء و اکابر ہم سے خوش ہوں گے، اور ان کی خوشی سے ہمارے سارے کام سنور جائیں گے۔

اولیاء اللہ کی مزاروں کی پوجا پاٹ، ان سے متعلق جمیع یادگاروں، ان کے جملہ آثار و نشانات کی حد سے بڑھی ہوئی تعظیم، اماموں کے نام نہاد تعزیوں، جھنڈوں، حتیٰ کہ ان سے منسوب گھوڑوں تک کی پرستش، ختیش نذریں یہ سب اسی لیے تو ہیں کہ یہ اولیاء و ائمہ ہم سے راضی ہوں اور ہماری بگڑی بن جائے۔ ہمارے دین و دنیا کے سارے کام سنور جائیں۔

سید الاولیاء سیدنا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر گیارہویں کا دودھ وغیرہ

محض اس ڈر سے بانٹا جاتا ہے کہ کہیں ان کی گائے بھینسیں بیمار نہ ہوں یا مرنے جائیں یا ان کا دودھ، مکھن کم نہ ہو جائے۔ حضرت رحمہ اللہ ان کو ان کے مال مویشی کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھیں گے۔ قصہ کسی غیر اللہ کی پرستش کا آپ کھوج لگائیں گے تو یہی اصل وجہ پائیں گے۔ اس عبادت اور پوجا کی تہہ میں یہی نفع کی طمع و طلب، فائدے کی ہوس، کوئی نہ کوئی لالچ کار فرما ہوگا یا نقصان اور زیان و ضرر سے بچنے کی غرض پوشیدہ ہوگی۔

انتہائی تعظیم، انتہائی محبت، آخری درجے کی انکساری و عاجزی، بے حد و نہایت شکر گزاری..... جسے عبادت سے تعبیر کرتے ہیں..... حق ہی اسی کا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہو..... جس کے ہاتھ میں سود و زیاں کی باگ ڈور ہو۔ جاہل و فریب خوردہ بندوں نے جس کسی کو بھی نفع نقصان، سود و زیاں کا مالک سمجھا اسی کی عبادت شروع کر دی۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بنیاد: ایک بندہ، ایک عاجز و محتاج بندہ، ایک سراپا غرض مند بندہ قدم قدم پر بلکہ اپنی زندگی کے ہر سانس

پر مدد و اعانت کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ ذات پاک ربّ قدیر کی طرف بندے کے میلان و توجہ کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ نفع و نقصان اور سود و زیاں اسی کے ہاتھ میں سمجھتا ہے۔ درحقیقت نادیدہ خدا اور غیر محسوس و غیر مرئی خدا، لاکھوں حجابوں بلکہ بے شمار پردوں میں مستور و مخفی خدا پر صحیح ایمان کی بنیاد درحقیقت بندے کا یہی وجدان و تصور ہے۔ ایک موحد مسلمان خوف و طمع اور بیم و رجاء کے لیے اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ یہ نفع و نقصان کا مالک صرف اپنے نافع و ضار خدا کو سمجھتا ہے۔ اور اس نے تمام غیر اللہ سے سود و زیاں کے تمام رشتے اور علاقے قطع کر لیے۔

غیر اللہ کی پرستش کی بنیاد: بخلاف اس کے جب اس ایمان و یقین میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے تو ایک محتاج و غرض مند بندہ غیر اللہ کو

نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی توجہ و میلان کا مرکز بھی غیر اللہ بن جاتے ہیں۔ اب وہ اپنا سر جھکاتا ہے تو انہی غیر اللہ کی چوکھٹ پر، اور ذکر اذکار میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے تو غیر اللہ کے! **وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.** (سورہ زمر رکوع ۵)

اب یہ ”یا رسول اللہ“ اور ”یا علی“ اور ”یا عبدالقادر جیلانی“ کے نعروں میں جو کیف و سرور محسوس کرتا ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے میں کہاں؟

اب اس کی محبت کا مرکز و محور بھی یہی غیر اللہ بن جاتے ہیں۔
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.

(پارہ ۲۰۰۔ بقرہ، ع ۲۰۰)

اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔

پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ ان کے دل میں تمام غیر اللہ کی محبت لے لیتی ہے۔ اب تمام تر محبت ہے تو ان کی اور خوف ہے تو ان کا۔ جس محبت اور ذوق شوق سے بزرگوں کی نذر نیاز دیتے ہیں، اولیاء و مشائخ کے چالیسویں نکالتے ہیں، خدا کی زکوٰۃ عشر اور اس کے نام پر نحر و قربانی میں اس جوش و محبت کا عشر عشر بھی نظر نہیں آتا۔ گائے بھینس کے مرجانے یا ان کا دودھ مکھن کم ہو جانے کے خوف سے جس اصرار و التزام شدت و سختی کے ساتھ حضرت سید الاولیاء شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ”گیارہویں“ نکالتے، بانٹتے اور کھاتے ہیں، کیا اس لزوم و التزام کا ہزارواں حصہ بھی عشر نکالنے اور قربانی کرنے اور قربانی کا گوشت کھانے میں پایا جاتا ہے؟

تمام ماسوی اللہ مطلق بے اختیار ہیں کسی کو قطعاً کوئی اختیار نہیں

تو شرک کی اصل و بنیاد یہی غیر اللہ کے نافع و ضار ہونے کا احساس و ایقان ہے۔ اللہ رب العزت نے شرک کی یہ بنیاد ہی ڈھادی۔ عبادت غیر اللہ کی اس اصل و اساس ہی کو زیر و زبر کر ڈالا۔ اپنے کلام پاک قرآن کریم میں بیسیوں جگہ تمام ماسوی اللہ کی مطلق بے اختیاری کو واضح فرمایا اور غیر مبہم الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرما کر شرک کی رگ گردن کاٹ دی کہ کسی بھی غیر اللہ کو ذرہ بھر بھی کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ مثلاً ارشاد ہوتا ہے:

۱. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَخْوِيلًا ۝

(۱۵۔ بنی اسرائیل، ع ۶۴)

آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا (مشکل کشا) سمجھتے ہو، (ذرا) ان کو پکارو (تو سہی) وہ تم سے نہ تو تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا۔

اللہ کے سوا کسی بھی معبود کو قطعاً کوئی اختیار نہیں، نہ وہ کسی کی کوئی تکلیف ڈور کر سکتا ہے نہ اس میں کمی کر سکتا ہے نہ ایک کی تکلیف دوسرے پر ڈال سکتا ہے۔ پھر ایسی بے اختیار و عاجز مخلوق کو معبود بنالینا کہاں کی عقل مندی ہے؟

۲. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝
(پارہ ۲۲- سہ ماہ، رکوع ۳)

آپ کہتے ہیں جن کو تم خدا کے سوا (مشکل کشا) سمجھ رہے ہو ان کو پکارو وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔

ماسوی اللہ، کسی معبود کو بھی ایک ذرہ برابر اختیار حاصل نہیں، نہ زمین و آسمان کی تخلیق و ایجاد میں کسی کا کوئی ساجھا ہے، نہ اللہ رب العزت کو کسی کام میں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی معین و مددگار ہو۔

پھر ایسی بے اختیار چیز کو مشکل کشا سمجھنا اور اسے معبود قرار دینا عقل و دانش کا منہ چڑانا نہیں تو اور کیا ہے؟

۳. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۚ
(پارہ ۲۰- عنکبوت، ۲۴)

جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کارساز تجویز کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بلاشبہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکڑی کا گھر ہے۔ گھر جان و مال کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے ہوتا ہے مگر مکڑی کا جالا کیا حفاظت کرے گا۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا محافظ و مددگار اور کارساز سمجھا ان کی مثال مکڑی اور مکڑی کے جالے کی ہے۔ جیسے مکڑی کی پناہ گاہ غایت ضعف کی وجہ سے کالعدم ہے، اسی طرح مشرک لوگ جن باطل معبودوں کو اپنا حمایتی، مددگار، محافظ اور پناہ دہندہ سمجھتے ہیں درحقیقت وہ کوئی حمایت و حفاظت نہیں کر سکتے، اور مصیبت کے وقت اپنے پرستاروں کو قطعاً پناہ نہیں دے سکتے۔

۴. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝
(طہ، ۲۴)

اور اس (اللہ) کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے پردے کے برابر

بھی اختیار نہیں رکھتے۔

ماسوی اللہ تو کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا پردہ یا جھلی سی ہوتی ہے، اس کے بھی مالک نہیں۔ اگر کوئی مشکل کے وقت انہیں پکارے اوّل تو وہ کسی کی پکار کو سنتے نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو کام نہیں آسکتے۔

۵. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۝ (پارہ ۱۷- آخری رکوع الحج)

اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے سنو! بلاشبہ خدا کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے گو سب کے سب (کیوں نہ) جمع ہو جائیں اور (پیدا کرنا تو بڑی بات ہے) اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو اس سے چھڑا ہی نہیں سکتے، ایسا مانگنے والا اور جس سے مانگتا ہے بودا ہے۔

اللہ رب العزت نے غیر اللہ کو پکارنے والوں کو کس درجہ موثر اور عبرت انگیز مثال دی ہے کہ دکھ سکھ میں تم جنہیں اپنا مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو ان کے ضعف ان کی بے اختیاری کا یہ حال ہے کہ وہ سب مل ملا کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی سے اپنی کوئی چھنی ہوئی چیز نہیں چھڑا سکتے۔ جب ان کے اپنے زور و قوت اور اختیار و قدرت کا یہ حال ہے تو وہ تمہاری دعا پکار پر تمہاری خاک مدد کریں گے۔

غالیوں کی مذمت میں علامہ آلوسی کا عجیب بیان:

خاتم المفسرین علامہ آلوسی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: فی قوله تعالیٰ.

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا.)

اشارة الى ذم الغالين في اولياء الله تعالى حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى وينذرون لهم النذر والعقلاء منهم يقولون انهم وسائلنا الى الله تعالى وانما نذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولى لا يخفى انهم في دعوتهم الاولى اشبه الناس بعبدة الاصنام القائلين انما نعبدهم ليقرّبونا الى الله زلفى ودعواهم الثانية لا باس بها لو لم

يطلبوا منهم بذلك شفا مريضهم او رد غائبهم او نحو ذلك والظاهر من حالهم الطلب و يرشد الى ذلك انه لو قيل: انذروا الله تعالى واجعلوا ثوابه لوالديكم فانهم اخرج من اولئك الاولياء لم يفعلوا ورأيت قبورا منهم يسجد على اعتاب حجر قبورهم..... وكل ذلك باطل لا اصل له في الكتاب والسنة وكلام سلف الامة. وقد افسد هؤلاء على الناس وصاروا ضحكة لاهل الاديان المنسوخة من اليهود والنصارى وكذا لاهل الملل والدهرية نسأل الله تعالى العفو والعافية.

اللہ تعالیٰ کے اس کلام (إِنَّ الَّذِينَ) میں اولیاء اللہ کی شان میں غالیوں کی مذمت کی طرف اشارہ ہے جب کہ وہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ان کی نذر میں مانتے ہیں اور ان غالیوں میں سے جو عقل مند ہیں وہ کہتے ہیں: یہ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ تک (پہنچانے کے لیے) ہمارے وسیلے ہیں، ہم منت تو صرف اللہ عزوجل کے لیے مانتے ہیں، ولی کو تو صرف ثواب پہنچاتے ہیں۔“ اور یہ حقیقت مخفی نہیں کہ یہ اپنے پہلے دعویٰ میں بتوں کے ان پجاریوں کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ”ہم تو بتوں کی پوجا محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔“ اور ان کے دوسرے دعویٰ میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ یہ ان اولیاء اللہ سے یہ منت مان کر اپنے مریض کی شفاء یا اپنے غائب ہو جانے والے کی واپسی وغیرہ کا مطالبہ نہ کریں۔ اور ان کے حال سے یہ مطالبہ ظاہر ہے اور یہ حقیقت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ اگر انہیں کہا جائے کہ تم منت اللہ تعالیٰ کے لیے مان کر اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشو جو ان اولیاء اللہ سے ثواب کے زیادہ محتاج ہیں تو وہ ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ان میں سے اکثر اولیاء اللہ کی قبروں کی چوکنوں پر سجدہ کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض تو تمام اہل قبور کے لیے علی فرق مراتب اختیار ثابت کرتے ہیں.... اور ان میں سے بعض کا یہ گمان بھی ہے کہ اولیاء اللہ قبروں

۱۔ ”روح المعانی“ جلد ۱، ص ۲۱۲، ۲۱۳، الکلام علی الآیات من باب الاشارة.

سے نکل کر مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے عالم کہتے ہیں کہ ان کے روح شکلیں اختیار کر کے ظاہر ہوتے ہیں اور جہاں چاہیں چکر لگاتے پھرتے ہیں اور کبھی شیر کی یا ہرن کی یا اسی طرح کسی جانور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ تمام باتیں باطل ہیں کتاب و سنت اور سلف امت کے اقوال میں اس کی کوئی اصل نہیں اور انہوں نے لوگوں کا دین خراب کر دیا ہے اور یہی ہیں جو یہود و نصاریٰ اور دوسرے الہ مذاہب اور دہریوں کے لیے ہنسی مخول کا سامان بن کر رہ گئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر اور اس بلاء و برائی سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔

اختیار صرف ایک اللہ کو ہے تمام حضرات انبیاء و رسل مجبور و بے اختیار ہیں

جہاں قرآن کریم سے اس حقیقت کا وضوح و انشراح ہو گیا کہ تمام معبودان غیر اللہ بے بس و بے اختیار محض ہیں، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام بھی مجبور و بے اختیار ہیں، اختیار صرف ایک اللہ کو ہے۔ چنانچہ یہ حضرات دکھ، درد اور مصیبت کے وقت مدد و نصرت اور مشکل کشائی کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی انہیں ان مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔

۱۔ حضرت نوح علیہ السلام:

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

(۱۷۔ انبیاء، رکوع ۶)

اور نوح جبکہ پہلے اس نے دعا کی پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو اور اس کے تابعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی۔

۲۔ حضرت ایوب علیہ السلام:

وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَلَيْسَ لِي بِمَنْ أُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْلُ حَمَلٍ مُنْقَلَبٍ ۚ وَاتَّخِذْنَا لَهُ نُجُومًا مَنظُومًا ۚ وَنَادَى رَبَّهُ نَادًى أُخْرًا ۚ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَلِكَ نُنزِلُ الْكُتُبَ ۚ وَذِكْرَى لِلْعَبِيدِ ۝

(۱۷۔ انبیاء، رکوع ۶)

اور ایوب جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو کچھ تکلیف تھی اس کو دور کر دیا اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطاء فرمایا اور ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاصہ سے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار۔

۳۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ جب سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا اور کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝

(۱۷۔ انبیاء، رکوع ۶)

پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس گھٹن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔

۴۔ حضرت زکریا علیہ السلام:

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ.

(۱۷۔ انبیاء، رکوع ۶)

اور زکریا جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھ کو لا وارث مت رکھو اور سب وارثوں سے بہتر آپ ہیں۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا فرمایا، اور ہم نے ان کی خاطر سے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل کر دیا۔

۵۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھیں، حضرت زکریا نے اپنے لیے وارث یعنی فرزند کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام عطاء فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝

(الصف، ۳۷)

(دعا کی) اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔

۶۔ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام:

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ۝

وَنَصَرْنَا هُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝ (۲۳۔ العنکبوت، ۲۴)

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ہم نے بڑے غم سے نجات دی۔ اور ہم نے ان سب کی مدد کی، پس وہی غالب آئے۔

۷۔ حضرت لوط علیہ السلام:

وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝ (۲۳۔ العنکبوت، ۲۴)

اور بے شک لوط (علیہ السلام) بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ جبکہ ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین سب کو نجات دی۔

۸۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کے لیے

ہوا کو مسخر کر دیا۔

(سورہ ص، ۳۷)

خلاصہ: ان تمام آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ ہر نبی اور برگزیدہ سے برگزیدہ رسولؐ نے دکھ، درد، تکلیف اور مصیبت کے وقت مجبور و بے بس ہو کر ایک اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان تمام پیارے بندوں کی دعا کو سنا، قبول کیا، اور دکھ، درد، کرب و بال، غم و مصیبت سے نجات دی۔

تو یہ تمام حضرات انبیاء علیہم السلام مجبور محض اور بالکل بے بس و بے اختیار تھے۔ اور تو اور، اپنی ذاتی تکلیف و مصیبت بھی دور نہ کر سکے۔

۹. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ

(پارہ ۷۔ سورہ انعام، رکوع ۲۴)

نَصَرْنَا ج

اور بلاشبہ آپ سے پہلے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی گئی، انہوں نے اس اپنے

جھٹلائے جانے اور ایذا دیئے جانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچی۔

یہ آیت کریمہ اس حقیقت پر صراحت سے دلالت کرتی ہے کہ اختیار کسی رسولؐ کو حاصل

نہیں تھا۔ ظالم کفار و مشرکین نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ انہیں طرح طرح کی اذیتیں اور

تکلیفیں دیں۔ وہ حضرات علیہم السلام ان ستم گاروں کے ظلم و ستم کا ہدف و نشانہ بنے اور صبر و

تکلیب کا مظاہرہ کیا۔ آخر اللہ رب العزت، قادر و قدیر کی مدد و نصرت آئی اور حق غالب آیا۔

۱۰۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے اختیاری:

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا: مصر شہر میں داخل ہوتے وقت سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا۔ یہ نظریہ بد و غیرہ سے بچنے کی محض ایک ظاہری تدبیر تھی، اس لیے ساتھ ہی فرمادیا کہ:

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ. (پارہ ۱۳۔ یوسف ۸۷)

اور میں تم کو اللہ سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے۔

یعنی یہ صرف لوگوں کے حسد یا نظریہ بد سے بچانے کی میں صرف ایک تدبیر بتلا رہا ہوں۔ باقی ہوگا وہی جو تقدیر الہی میں ہے۔ میں قضا و قدر کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا۔ تمام کائنات میں حکم صرف اللہ رب العزت ہی کا چلتا ہے۔ ہوگا وہی جو حکم الہی ہوگا۔ میں حکم الہی کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتا۔

آگے اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں:

مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ....

ان کا باپ ان کو اللہ کی کسی بات سے کچھ بھی نہ بچا سکتا تھا۔

اور کسی کو کیا اختیار ہوگا جب محبوب خدا، سید
الانبياء، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک کو

امام المرسلین کی بے اختیاری:

ذرا بھرا اختیار نہیں، ارشاد ہوتا ہے:

۱. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

(پارہ ۹۔ اعراف، رکوع ۲۳)

آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نقصان کا، مگر جو چاہے اللہ۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

۲. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. (یونس، ۵۷)

آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی نفع کا، مگر جو چاہے اللہ۔

۱۔ خاتم المفسرین علامہ آلوسی رقمطراز ہیں کہ:

استثناء منقطع عند جمع أى ولكن ما شاء الله تعالى كائن یعنی سب کے نزدیک استثناء منقطع ہے، یعنی (میں اپنی ذات کے لیے نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا) لیکن جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔

۲۔ علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود اللنسی (متوفی ۱۰۷۱ھ) اپنی تفسیر ”مدارک المتزیل“ میں رقمطراز ہیں:

قُلْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا مِنْ مَرُضٍ أَوْ فَقْرٍ وَلَا نَفْعًا مِنْ صِحَّةٍ أَوْ غِنَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اسْتِثْنَاءً مَنْقُوعٌ أَيْ وَلَكِنْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ كَائِنًا ۲

اے محمد کہہ دیجئے بلا شک و شبہ میں اپنی جان کے لیے بھی مرض و فقر وغیرہ ضرر اور صحت و مالداری وغیرہ نفع کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے۔ یہ استثناء منقطع ہے یعنی لیکن جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔

۳۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ (پارہ ۲۹۔ جن، رکوع ۲)

آپ کہتے کہ بلاشبہ میں نہ تمہارے ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نفع و ضرر کے اختیار کی نفی کا واضح اعلان فرمایا ہے، ان کے جواب میں بعض کج ذہن و کج بحث یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے فرمایا ہے۔ اپنی ذات کے لیے اختیار نہ ہونا اس کو کہاں لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے متعلق بھی نفع و ضرر اور سود و زیاں کا کوئی اختیار نہیں۔ اگر آپ کو اپنے متعلق کوئی اختیار نہیں، لیکن ہمارے ہر قسم کے نفع نقصان کے مالک آپ ہیں، معاذ اللہ۔ کج بحثی کے ساتھ کج سختی کا تو کوئی علاج نہیں، ورنہ اگر نصیب بھلے ہوں اور انسان کی عاقبت اچھی مقدر ہو تو اس آیت میں نہایت صراحت سے فرما دیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کے مالک و مختار نہیں۔

۱۔ ”روح المعانی“ جلد ۱۱، ص ۱۳۰، سورہ یونس۔

۲۔ مدارک تفسیر آیت قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعاً.

اقلیم بلاغ و ہدایت کے تاجدار کو ہدایت دینے کا اختیار بھی نہیں

گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقلیم بلاغ و تبلیغ کے تاجدار اور مسندِ رشد و ہدایت کے صدر نشین ہیں مگر آپ کو کسی محبوب سے محبوب شخص کو بھی ہدایت دینے اور راہِ راست پر لانے کا اختیار نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

۵. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ۝ (پارہ ۳۰- سورہ قصص، رکوع ۶)

تحقیق آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ جس کو اللہ چاہیں ہدایت دیتے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتے ہیں۔

تفسیر ”موضح القرآن“ میں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے واسطے بہت سعی کی کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، اس نے قبول نہ کیا، اس پر یہ آیت اتری۔ ”اس آیت کا شانِ نزول صحیح بخاری، کتاب التفسیر سورہ القصص، صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں بھی اسی طرح مروی ہے۔“

۶. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ (شروع شعر ۱)

شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر (رنج کرتے کرتے) اپنی جان دے دیں گے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بنی نوع انسان سے محبت و رحمت کا جو بحر و دریا موجزن تھا، اس کے طوفان و تلاطم کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی بھی کافر و مشرک جہنم میں نہ جائے۔ سب مسلمان ہو کر جنت میں جائیں۔ اس جوشِ رحمت اور دردمحبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بن گئی تھی۔ اس سوز و گداز کے مہلک اثرات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے روکا، فرمایا کہ اس فکر اور غم میں آپ کی جان نہ نکلے، آپ کی جان بڑی قیمتی جان ہے۔

۷. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ

حَسْرَاتٍ. (قاطر، ۲۴)

بیشک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، سو ان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔

اللہ اللہ! بے اختیار کی حد ہو گئی کہ سوز و گدازِ رحمت کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے

لا لے تو پڑ گئے مگر آپ کو ایک مشرک کو بھی ہدایت دینے کا اختیار نہیں۔

۸. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ۝

(پارہ ۲۔ آل عمران، ۱۳۷)

آپ کا کچھ اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرمائے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔

جنگِ اُحد میں کفار کے ہاتھوں ستر صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ مشرکین نے ظلم و تعدی میں انتہا کر دی۔ حضرت علیؑ کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کا وحشیانہ طور پر مٹلہ کیا۔ ناک، کان، ہونٹ کاٹے۔ پیٹ مبارک چاک کیا۔ جگر نکال کر چبایا۔ حضور علیؑ شدید زخمی ہوئے۔ دندانِ مبارک شہید ہو گیا۔ ابنِ قیمہ کہتے ہیں بڑھ کر سر اقدس پر تلوار سے وار کیا۔ جس سے خود کی کڑیاں ٹوٹ کر رخسار مبارک میں گھس گئیں۔ چہرہ پاک مجروح ہوا، اور سارا وجود اطہر لہو میں نہا گیا۔ آپ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت کفار نے مشہور کر دیا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، یعنی حضور علیؑ قتل ہو گئے۔ اس سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کے حواس بجا نہ رہے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس وقت زبانِ مبارک سے نکلا: وہ قوم کیسے فلاج پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: (صحیح بخاری، غزوة اُحد، باب لیس لک...)

۹. اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ

(پارہ ۱۰۔ س توبہ، ۱۰۷)

آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں۔ (اور) اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔

صحیح بخاری اور جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے رسول اللہ علیہ السلام سے اپنے باپ کے کفن کے لیے قمیص کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے قمیص دے دیا۔ پھر درخواست کی کہ آپ اس کی نمازِ جنازہ پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس کی نمازِ جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اس پر نماز پڑھتے ہیں حالانکہ یہ منافق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نماز پڑھنے سے روکا ہے۔“ مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار

دیا ہے اور فرمایا ہے: **اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ... اور اگر میں چاہتا کہ میرے ستر سے زیادہ بار استغفار پر اللہ سے بخش دے گا تو میں ستر سے زیادہ بار بخشش طلب کرتا۔** غرض آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ نماز پڑھ کر پھرے ہی تھے کہ آیت نازل ہوئی: **وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ... وَهُمْ فَاسِقُونَ.**

(صحیح بخاری کتاب التفسیر)

اس کے بعد کفار و منافقین کا جنازہ پڑھنے یا ان کے کفن و دفن میں شریک ہونے کی صراحت سے ممانعت کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اختیاری صاف ظاہر ہے کہ کرتے بھی دیا، جنازہ بھی پڑھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس لعین رئیس المنافقین کو نہ بخشا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ منافقین کا جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔

۱۰. **وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** (۱۰۔ انفال، ۸۷)

اور (اللہ تعالیٰ نے) ان (مسلمانوں) کے دل میں اُلفت ڈال دی، اگر آپ روئے زمین کا سارا مال خرچ کر ڈالتے (تو بھی) ان کے دلوں میں اُلفت نہ ڈال سکتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں اُلفت ڈال دی، بیشک وہ زور (وقت) والا حکمت والا ہے۔

اس ارشادِ الہی میں جہاں اللہ رب العزت کی صفتِ قدرت و اختیار اور حکمت کا بیان ہے کہ اس نے اپنی قدرت اور اپنی حکمت سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے افراد کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ان کے قلوب میں اُلفت و محبت کے دریا بہا دیئے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال بے اختیاری اور عدم قدرت کا بیان ہے کہ دنیا بھر کے خزانے خرچ کر کے بھی آپ قبائل عرب کی بھی دیرینہ عداوتوں اور بغض و کینے مٹا کر ان کو باہم شیر و شکر نہیں بنا سکتے۔

۱۱۔ **قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ**
(پارہ ۷۔ انعام، ۵۷)

آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔

اہل شرک و ہوا علی الاعلان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال دی ہیں، اور حضرت اللہ کے تمام خزانوں کے مالک و مختار ہیں۔ انا قاسم واللہ يعطی کی صحیح حدیث سے غلط استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے سارے خزانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاء کر دیئے ہیں، ان کی تقسیم حضرت کے اختیار میں ہے، نیز کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، نیز آپ بشر نہیں۔

اس آیت میں ان تینوں عقیدوں کی تغلیط کی گئی ہے اور نہایت واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ نہ تو اللہ کے خزانوں کے مالک و مختار اور قاسم و مقسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ ہی آپ عالم الغیب ہیں اور نہ ہی آپ کا تعلق نوع بشر کے علاوہ کسی اور نوع یعنی ملائکہ سے ہے۔ منصب نبوت کے لیے ان تینوں باتوں کی احتیاج و ضرورت نہیں، نہ کسی نبی نے ان میں سے کسی بات کا دعویٰ کیا ہے۔ بخلاف اس کے ہر نبی اللہ نے اپنی بشریت، اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی اور عدم اختیار و تصرف کا واضح اعلان فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام قریباً انہی الفاظ میں اپنی قوم سے خطاب فرماتے ہیں: وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. (پارہ ۱۲- سورہ ہود، رکوع ۳۴)

دوسرے حضرات انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بے بسی و بے اختیاری کے **خلاصہ:** بعد خاص سیدنا نبیاء امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اختیاری قرآن کریم میں گیارہ مقامات پر بیان فرمائی گئی ہے۔

مگر یہ نہ سمجھا جائے کہ ان گیارہ مقامات پر حصر ہے۔ پورے قرآن میں اس نوعیت کی بیشتر آیات موجود ہیں۔ مگر احاطہ نہ مقصود ہے نہ آسان۔

سنت رسول سے نبی کریم کے ملک و اختیار کی نفی

قرآن کریم کتاب اللہ کے بعد سنت رسول احادیث نبویہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم قدرت و بے اختیاری کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ سب کا احاطہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ صرف چند ارشادات درج ذیل ہیں:

۱. لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ نے وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ قریش! (تم ایمان لا کر)

اپنے آپ کو عذاب سے بچالو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا۔ اے بنو عبد مناف! میں اللہ کے سامنے ذرہ بھر تیرے کام نہیں آسکتا۔ اے صفیہ! رسول اللہ کی پھوپھی! میں اللہ کے سامنے ذرہ بھر تیرے کام نہیں آسکتا،

یا فاطمة بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئاً
اور اے فاطمہ بنت محمد! میرے مال میں سے جو چاہے مجھ سے طلب کر لے، میں
اللہ کے مقابلے میں ذرہ بھر تیرے کام نہیں آسکتا۔

حضرت ابوامامہ اسعد بن زرارہ
رضی اللہ عنہما اہل مدینہ میں سب سے اول

۲. لَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْئاً

نکہ آ کر اسلام لانے والے، مدینہ میں سب سے اول اسلام کے ساتھ داخل ہونے والے، عقبہ کی ہر بیعت میں شامل ہونے والے، انصار کے بارہ نقیبوں میں سے ایک نقیب اور جنت البقیع میں (بقول انصار) سب سے اول دفن ہونے والے عظیم المرتبت صحابی رسول تھے۔ انہیں ایک مہلک پھنسی نکلی۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسعد بن زرارہ کی بیمار پرسی کو تشریف لے گئے۔ انہیں شوکہ (یعنی مہلک پھنسی) تھی۔ فرمایا: قاتل اللہ یہود یقولون لولا دفع عنہ ولا املک له ولا لنفسی شیئاً لایلو مؤمنی فی ابی امامتہ^۱ یعنی اللہ یہود کو ہلاک کرے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوامامہ اسعد بن زرارہ کی تکلیف کیوں نہ دور کر دی اور حال یہ ہے کہ نہ تو میں ان کے لیے کوئی اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہی اپنے لیے، مجھے تم ان کے بارے میں ملامت نہ کرو۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج (مطہرات) کے درمیان تقسیم

۳. تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

فرماتے تھے، پس عدل فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمِني فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

(رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی)

۱ صحیح مسلم ("مکتوٰۃ الصالح" باب الاذکار والحدیث)

۲ "طبقات" جلد ۳ ص ۶۰۸، ۶۱۲، "استیعاب" ترجمہ ابوامامہ۔

۳ طبقات ابن سعد جلد ۳ ص ۶۱۰، ذکر حضرت اسعد بن زرارہ۔

اے اللہ! جو (باری بان و نفقہ وغیرہ ظاہری) تقسیم میرے بس میں تھی وہ میں نے کر دی، اب جس چیز کا تو مالک ہے میں مالک نہیں تو آپ اس میں میرا مواخذہ نہ فرمائیں۔
(”مشکوٰۃ المصابیح“ کتاب النکاح)

حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی الحب والمودة حضرت علیؑ کے دل میں حضرت طاہرہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت و مودت دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ مگر اس پر حضور علیؑ کا اختیار نہ تھا۔ لہذا آپ بارگاہ رب العزت میں معذرت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو اپنے دل کی محبت و اُلفت پر بھی اختیار نہیں، بے اختیاری کی حد ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت
عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے اور امام بخاری

۴. تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ (استخارہ)

رحمہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں (دعاء) استخارہ کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی سورۃ کی تعلیم دیتے تھے۔ فرماتے تھے: جب تم میں سے کوئی کسی امر کا ارادہ کرے تو وہ دو رکعت نماز (نفل) پڑھے پھر کہے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
(رواہ البخاری)

الہی! میں تیرے علم کے واسطے سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے تجھ سے قوت طلب کرتا ہوں اور تیرے فضلِ عظیم سے آپ سے سوال کرتا ہوں، بلاشبہ آپ قدرت رکھتے ہیں اور میں طاقت نہیں رکھتا اور آپ کو علم ہے اور میں علم نہیں رکھتا اور آپ علام الغیوب ہیں۔

خود فرمائیے! کس قدر صراحت کے ساتھ قدرت و اختیار اور علمِ غیب کو اللہ رب العزت کے لیے خاص فرما رہے ہیں اور اپنی ذات اور ہر شخص سے ان دونوں صفات ربانی کی نفی کی جا رہی ہے۔

۱ ”مشکوٰۃ المصابیح“ باب التطوع. ابوداؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔

۵۔ اپنی موت و حیات پر اختیار نہیں

اسی طرح آپ ﷺ کی ایک اور دعا میں آیا ہے:

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَخْبِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي.....

(رواه النسائي "مشكرة المصايح باب جامع الدعاء")

الہی! اپنے علمِ غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے واسطے سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں میری زندگی میرے لیے خیر ہو اور مجھے وفات دے جب تیرے علم میں وفات میرے لیے بہتر ہو۔

اس حدیث سے جہاں علمِ غیب اور قدرتِ کاملہ کا خاصہ خدا ہونا ثابت ہوتا ہے، وہاں اپنے لیے حضرت ﷺ اپنی وفات کے علم کی نفی فرما رہے ہیں نیز یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ موت و حیات اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ﷺ کو اپنی حیات و وفات کا بھی اختیار نہیں۔

ایک قطرہ بارش پر اختیار نہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عہد رسالت میں لوگوں کو قحط پیش آیا۔ بنی مضر نے جمعہ کے

دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کھڑا ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! مویشی ہلاک ہو گئے، بال بچے بھوکے ہیں، فاذع اللہ لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے (بارش کی) دعا فرمائیے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے (دعاء کے لیے) دونوں ہاتھ اٹھالیے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت نے اپنے ہاتھ نہیں گرائے حتیٰ انار السحاب امثال الجبال، یہاں تک کہ بادل پہاڑوں کی طرح گھرا آیا۔ پھر آپ ﷺ منبر سے نہیں اترے، حتیٰ رايث المطر يتحاذر علي لحيته، یہاں تک کہ میں نے آپ کی ڈاڑھی مبارک سے بارش کا پانی گرتے دیکھا۔ پھر ہم پر اس دن دوسرے دن تیسرے دن حتیٰ کہ دوسرے جمعہ تک بارش برتی رہی۔ (جمعہ میں) وہی دیہاتی یا کوئی اور صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مکان گر گئے، مال غرق ہو گیا۔ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائیے، فاذع اللہ لنا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی: اللَّهُمَّ حَوِّالِنَا وَلَا عَلَيْنَا..... الہی! ہمارے گرد و نواح میں برساؤ! اب ہم پر نہ برساؤ! یہ کہہ کر آپ ﷺ

بادل کی طرف اشارہ فرماتے تھے تو بادل پھٹتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مدینے کی فضا پر بادل کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ مگر وادی میں مہینہ بھر پانی بہتا رہا۔ نواحی علاقہ سے جو بھی آدمی آتا تھا وہ شدید بارش کی خبر دیتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: (حضرت کی دعا کے بعد) بادل ختم ہو گیا اور ہم (مسجد سے) نکلے تو دھوپ میں چلے۔ صحیح مسلم (مشکوٰۃ الصالح باب فی الحجرات)

اللہ اللہ! دو قطرے پانی کی ضرورت ہے تو صحابی درخواست کرتا ہے کہ فَادُّعُ اللّٰهَ لَنَا، آپ ہمارے لیے اللہ سے اس کی دعاء فرمائیں۔ اور اگر بارش رُکوانی ہے تو بھی عرض کرتے ہیں آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے کہ پانی کے قطروں کے لیے بارگاہِ رب العزت میں دست بدعا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہی بارش ختم کرانی ہے تو بھی رب قادر و قدیر کی بارگاہِ قدس میں دستِ سوال دراز کر کے دعا کرتے ہیں: اَللّٰهُمَّ حَوِّ اَلْبِنَا وَ لَا عَلَيْنَا۔ محبوبِ رب العالمین کی شانِ محبوبیت و مقبولیت کا کمال ملاحظہ ہو کہ اگر مطلق بارش کی دعا کرتے ہیں اور وقت کی تعیین نہیں کرتے تو اللہ رب العزت بھی وقت کی تعیین نہیں فرماتے اور آٹھ دن لگاتار رات دن بارش برسائے جاتے ہیں لیکن بایں ہمہ بے اختیاری و بے بسی کا حال یہ ہے کہ بارش کے قطرے مانگتے ہیں تو اسی ذاتِ قادر سے! اور بارش ختم کرنے کا سوال کرتے ہیں تو اسی ربِ قدیر سے!

۷. اَنْتَ الْغَنِيُّ وَ نَحْنُ الْفُقَرَاءُ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اللہ

رب العزت کے لیے قدرت و اختیار اور اپنے لیے فقر و بے اختیاری بیان فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا اور منبر عید گاہ میں رکھ دیا گیا۔ آپ نے منبر پر بیٹھ کر اللہ کی تکبیر اور حمد بیان کی پھر فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ الْغَنِيُّ
وَ نَحْنُ الْفُقَرَاءُ.....

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الٰہی تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں....

اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی.... پھر آپ نے منبر سے اتر کر دو

رکعت نماز پڑھی۔ پس اللہ نے بادل بھیج دیا، بجلی کڑکی اور چمکی، پھر اللہ کے حکم سے بارش شروع ہو گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد (نبوی) تک واپس نہیں پہنچے تھے کہ نالے بہنے لگے۔ جب آپ نے لوگوں کو جلدی سے مکانوں کو جاتے دیکھا تو آپ خوب ہنسے، اور فرمایا:

أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

رواہ ابو داؤد (مشکوٰۃ المصابیح باب الاستسقاء)

میں گواہی دیتا ہوں کہ بالیقین اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بیشک میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

سب خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، حضرت سائل ہیں:

لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے خزانوں کا مالک قرار دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو خیر و شر کے تمام خزانوں کا مالک قرار دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں:

۸. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ.

الہی! میں تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے خزانے تیرے قبضہ میں ہیں اور میں ہر برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کے خزانے تیرے پاس ہیں۔

(مستدرک حاکم جلد اول ص ۵۲۵)

معطی اللہ ہے اور حضرت قاسم:

روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ.

رواہ البخاری (مشکوٰۃ المصابیح باب رزق الولاية)

نہ تو میں تمہیں اپنی طرف سے کچھ دیتا ہوں اور نہ روکتا ہوں، میں تو صرف ایک تقسیم کرنے والا ہوں۔ جہاں مجھے (اللہ تعالیٰ کا) حکم ہوتا ہے وہاں رکھ دیتا ہوں۔

سبحان اللہ! توحید کی حقیقت کتنی عمیق سمجھائی جا رہی ہے کہ گو بظاہر مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، مگر ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ یہ ”منع“ و ”اعطا“ درحقیقت من جانب اللہ ہے، میں تو صرف ایک واسطہ ہوں۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے دے دیتا ہوں اور جہاں

اللہ نہ دینے کا حکم دیتا ہے نہیں دیتا۔ تو رسول کی حیثیت صرف واسطہ و وسیلہ کی ہے۔ حقیقت میں معطی و مانع ذات پاک رب العزت ہے۔

۱۰۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي.

(متفق علیہ)

اللہ تعالیٰ جس کے متعلق بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا فہم عطاء فرماتے ہیں اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا اللہ ہے۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم) مال و دولت کی طرح علم و فہم بھی اللہ تعالیٰ عطاء فرماتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف قاسم ہیں، وہ تو اپنی ساری امت کو وحی الہی کی برابر تبلیغ فرمادیتے ہیں۔ اگر مراتب علم و فضل میں کوئی فرق ہے، کوئی زیادہ عالم و فاضل ہے، فقیہ و مجتہد ہے، کوئی کم، تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل نہیں۔ یہ فرق و امتیاز مراتب ہم میں فرق کی وجہ سے ہے۔ اور یہ خدا کی دین ہے۔ وہ جس کی بہتری چاہتے ہیں اسے دین و علم کا فہم و فقہ دے دیتے ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ”صاحب مشکوٰۃ“ کی طرح اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر ”کتاب العلم“ میں روایت کیا ہے۔ اس سے بھی اسی حقیقت پر دلالت ہوتی ہے اور حدیث شریف کے سباق سے بھی صاف ظاہر ہے کہ یہاں دین کا علم و فہم مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے متعلق بہتری چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ اور فقہ عطاء فرمادیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: ”دیتے اللہ ہیں، میں تو صرف بانٹتا ہوں۔“ یعنی میں تو صرف قرآن و حدیث بیان کر کے علم تقسیم کرتا ہوں، باقی رہی اس کی سمجھ، سو وہ جتنی خدا چاہتا ہے دیتا ہے۔

یار لوگوں نے اس حدیث پاک سے الٹائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف و اختیار ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ اہل علم و نظر کے نزدیک تو اس ارشاد رسول سے خود آپ کے ملک و اختیار کی نفی واضح ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں:

أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا حَالَ حَيَاتِهِمْ كَمَا أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ إِنَّهُ قَاسِمٌ لَا غَيْرَ

۱۔ ”مشکوٰۃ الصالح“ کتاب العلم۔

وَلَا مَلِكَ لَهُ أَصْلَابًا

بالیقین حضرات انبیاء علیہم السلام زندگی میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے جیسا کہ ان کی وفات کے بعد ان کا کوئی اختیار نہیں، اور انہوں (یعنی شیخ الاسلام، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ) نے اسی حدیث (إِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِي) سے استدلال کیا ہے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قاسم ہیں، اور ملک و اختیار آپ کا بالکل نہیں۔

۱۔ مجھے اللہ بچائے گا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں گئے۔ واپسی پر دوپہر کے وقت ایک وادی میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول اجلال فرمایا۔ لوگ سایہ دار درختوں کے نیچے ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے فروکش ہو گئے، اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ہم سوئے ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور ایک گنوار شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ آپ نے فرمایا: میں سو رہا تھا کہ اس شخص نے میری تلوار کھینچ لی۔ میں جاگ اٹھا (دیکھا) تو تلوار اس کے ہاتھ میں بے نیام تھی۔ اس نے کہا: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي. یعنی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا: اللہ۔ تین بار فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اس شخص سے کوئی انتقام نہ لیا۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم) ابوبکر اسمعیل نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اس نے کہا: آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اللہ! یہ (یہ جوان بن کر ہیت کی وجہ سے) اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی! تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھالی اور فرمایا: اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟..... کتاب الحمیدی اور ریاض (یعنی ریاض الصالحین للنووی) میں اسی طرح ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اختیاری ظاہر ہے کہ اپنا بچاؤ اور تحفظ بھی آپ نہیں فرما سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دشمنوں سے اللہ ہی آپ کو بچاتے ہیں۔

۱۔ "فیض الباری" جلد اول ص ۱۷۱۔ "فیض الباری" چار جلدوں میں صحیح بخاری کی شرح ہے۔ امام احمد شیخ الاسلام حضرت النور شاہ رحمہ اللہ کی تقریر ہے اور اہل حضرت مولانا بدر عالم رحمہ اللہ کی۔

۲۔ صاحب "روح المعانی" نے جو روایت نقل کی ہے اس میں ہے کہ وہ دشمن خدامندہ کے بل گر پڑا۔ فَاكْبَ عَدُوَّ اللَّهِ تَعَالَى لَوْجِهَهُ.... "تفسیر روح المعانی" سورہ نساء آیت: وَخَذُوا حذرهم.

۳۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب التوکل والعبر۔

۱۲۔ أَفْقِرُ إِلَى اللَّهِ: رزین (متونی ۵۲۰ھ) نے روایت کی ہے کہ (مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہؓ کے ساتھ اینٹیں وغیرہ اٹھا

رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اینٹ تھی، ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِذْهَبْ فَخُذْ غَيْرَهَا فَلَسْتَ بِأَفْقَرِ إِلَيَّ اللَّهُ مِنِّي...!

جاؤ تم دوسری اینٹ اٹھا لاؤ، تو مجھ سے زیادہ اللہ کا محتاج نہیں ہے۔

سبحان اللہ! رحمۃ للعالمین ہیں، امام المرسلین ہیں، سید الاؤلین والآخرین ہیں، مگر رب العزت کے اسی طرح محتاج ہیں جس طرح کوئی دوسرا، تو کیا فقیر و محتاج بھی مختارِ کل ہو سکتا ہے؟

۱۳۔ دعا: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت بارگاہ رب العزت میں طالبِ دُعا رہتے تھے۔ اسی کتاب کے گزشتہ ابواب میں آپ کی دعاؤں کا کچھ حال آپ کو معلوم ہو چکا

ہے۔ ہمہ وقت دعا، صبح و شام، رات دن دعا، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعا، سفر پر جاتے، گھر سے نکلتے، واپس آتے دُعا، وضو اور نماز کے بعد دعا، نماز کے اندر دعا، باہر دُعا، ہر وقت، ہر مجلس میں خلوت و جلوت میں اللہ سے دُعا، حتیٰ کہ بیت الخلاء جاتے اور نکلتے دعا، غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا طول و عرض دعا تھا۔ اور یہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ دعا کی اصل و اساس ہی دعا کرنے والے کی بے بسی و بے اختیاری ہے، مجبوری و لاچارگی ہے۔ اگر اختیار و اقتدار ہو تو دعا کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور جب ہر وقت دستِ طلب و دعا دراز ہے تو اختیار کہاں؟ دعا تو نام ہی اختیار کی نفی کا ہے۔

۱۴۔ شفاعت: شفاعت کے معنی ہیں سفارش، کسی کو کسی کے لیے سفارش کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اُمت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ و ایمان ہے۔ قیامت

میں سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمائیں گے، اور شفاعت کی حقیقت ہے بے اختیاری۔ اگر مجھے کسی بات کا خود اختیار ہے تو میں اس کے متعلق کسی دوسرے کو سفارش کیوں کروں گا، وہ کام خود ہی کیوں نہ کر لوں گا۔ تو شفاعت کا منشاء بے بسی و بے اختیاری ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

۱۔ ”وقام الوفاء“ جزاؤل ص ۳۳۳۔ وقام الوفاء: تاریخ مدینہ طیبہ پر علامہ سمودی کی چار جلدوں پر مشتمل بے نظیر کتاب ہے۔ علامہ نور الدین علی بن احمد السمودی المصری المدنی رحمہ اللہ مدینہ طیبہ کے مفتی مدرس اور مؤرخ تھے۔ ۹۱۱ھ میں وفات پائی۔

شفاعت مسلم ہے تو آپ کی بے اختیاری کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا۔ اور اگر آپ کے مختارِ کل ہونے کا پختہ یقین ہے تو شفاعت کا انکار لازم آئے گا۔ شفاعت نام ہی اختیار کی نفی کا ہے۔ اگر شفاعت ہے تو اختیار کہاں؟

خلاصہ: قرآن کریم میں ۱۱ مقامات پر اور سنتِ رسولؐ سے ۱۴ مقامات پر کل ۲۵ بار ثابت ہے کہ نبی کریم امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع و نقصان کا مالک و اختیار حاصل نہیں تھا۔ کیا بے بسی و بے اختیاری کے ان پچیس شواہد و نصوص کے بعد بھی آپ کے مختارِ کل ہونے کا ادعاء باطل برابر جاری رہے گا؟ پھر قرآن کریم کے دس مقامات سے دوسرے حضرات انبیاء علیہم السلام کی بے اختیاری ثابت ہو چکی ہے۔ امام المرسلین سید الانبیاء سمیت تمام حضرات انبیاء علیہم السلام کی پینتیس نصوص کتاب و سنت سے مطلق بے اختیاری ثابت و واضح ہونے کے بعد اور کون "تمیں مار خاں" ہے جس کو اختیار حاصل ہو؟

سنتِ رسولؐ سے کل اختیار و قدرتِ خاصہ خدا ہونے اور غیر اللہ کے اختیار کی مطلق نفی کا بیان!

کتاب اللہ کے بعد سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ قدرتِ کاملہ و اختیارِ کلیہ خاصہ خدا ہے۔ احادیثِ نبویؐ میں نہایت صراحت و تکرار کے ساتھ اس حقیقت کو واضح فرمایا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور وظیفہ خود بھی اس قسم کے الفاظ عموماً پڑھا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کو بھی ان وظائف کی تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً:

۱۔ بروایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے تھے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(متفق علیہ)

۱۔ ان پر حصر نہیں، نہ حصر مقصود ہے اور نہ ہی یہ کوئی آسان کام ہے۔

۲۔ "مکذوۃ الصالح" باب الذکر بعد الصلوۃ۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سلطنت ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، الہی! جو تو عطاء فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو نہ دے وہ کوئی نہیں دے سکتا، اور تیرے سامنے کسی دولت والے کو اس کی دولت نفع نہیں دے سکتی۔ (یا اللہ تیری بارگاہ میں کسی عزت والے کو اس کی عزت کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی)

ایک مرد مومن حضرت علیؑ کی سنت کے اتباع میں ان صفات ربانی کو آٹھ پہر پانچ وقت دہراتا ہے کہ جب اس کے سوا معبود کوئی نہیں اور جب ملک و بادشاہی اسی کی ہے تو منع و اعطاء کی دو صفتوں میں بھی وہ واحد و لا شریک ہے۔ وہی دینے والا ہے اور وہی نہ دینے والا۔ وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔

اللہ رب العزت کے اقتدار و اختیار کا اثبات اور غیر اللہ کی اختیار کی نفی کا کیا مہر و انداز ہے۔

صبح و شام کا وظیفہ: رسول اللہ ﷺ نے اسے صبح و شام کا ورد وظیفہ فرمایا ہے:

۲۔ بعض بنات النبیؐ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ انہیں تعلیم دیتے تھے کہ صبح و شام کہا کریں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.

اللہ پاک ہے اور تعریف اسی کی ہے اور اللہ کے سوا کسی کو کوئی زور و قوت نہیں، جو اللہ چاہے وہی ہوگا اور جو وہ نہ چاہے وہ نہ ہوگا، میں جانتا ہوں کہ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بیشک اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔

فرمایا جو شخص صبح کو یہ کہے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے اور جو شام کو یہ کہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔^۱

تو مسلمان کا صبح و شام کا وظیفہ یہی ہے کہ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ رب العزت ہے، اور علم کل و علم محیط و بسیط بھی اسی کی شان ہے۔

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب ما یقول عند الصبح والمساء۔

۳۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا: جس نے دن میں سو بار دن میں سو بار: بار پڑھا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسے دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے لیے سونکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی سو برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور یہ سارا دن اس کے لیے شیطان سے بچاؤ (کا ذریعہ) ہے، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ۔ (متفق علیہ) اور اس سے کوئی شخص بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر وہ شخص جس نے ان کلمات کو اس سے بھی زیادہ پڑھا۔

سبحان اللہ! صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی ان خاص صفات کا درود وظیفہ کرنے والے کے لیے کتنا اجر و ثواب ہے۔

۴۔ اور حضرت ابو عیاش رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے فرمایا: جس نے صبح کو کہا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے لیے اولادِ اسمعیلؑ میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کی دس برائیاں گرا دی جائیں گی، اور اس کے دس درجے بڑھا دیئے جائیں گے اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور اگر شام کو یہی کلمات کہے گا تو یہی اجر ملے گا۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ)

صرف انہی وظائف پر بس نہیں، بلکہ اس کتاب کے صفحہ ۱۲ تا ۱۳۱ پر چودہ (۱۴) احادیث پاک پیش کی جا چکی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ مطلقہ سے متعلق اذکار اور ان کے فضائل کا بیان ہے۔ ان احادیث کو ایک بار پھر ملاحظہ فرمایا جائے۔

اسلام کا تیسرا کلمہ تجید ہے: سُبْحَانَ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اس کلمہ پاک کا ایک حصہ ہے، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے معنی ہیں: نہیں ہے طاقت اور نہ قوت مگر ساتھ اللہ کے، گویا جس مضمون کو قرآن کریم میں عَلِيٌّ قَدِيرٌ سے بیان فرمایا گیا ہے نہ صرف اس مضمون کو حدیث پاک لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ میں بیان فرمایا گیا ہے، بلکہ غیر اللہ سے قدرت و طاقت کی نفی مستزاد

۱۔ ”مکتوٰۃ الصالح“ باب ثواب التبیح... ۲۔ ”مکتوٰۃ“ باب ما یقول عند الصبح والمساء۔

ہے۔ قدرت و طاقت اور قوت کا سرچشمہ صرف ذات پاک رب العزت ہے۔ اللہ کے سوا نہ تو کسی کو قدرت و طاقت حاصل ہے نہ قوت۔ تو اس انداز اور ان الفاظ میں بھی قدرت و اختیار کو اللہ تعالیٰ کا حق ثابت کیا گیا ہے۔ اور غیر اللہ کے اختیار کی مطلقاً نفی کی گئی ہے۔ اب دیکھئے یہ انداز و الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں شامل ہیں:

۵۔ بروایت حضرت ابو ہریرہؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
گھر سے باہر نکلتے وقت کا وظیفہ: جب اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو یہ کہتے:

بِسْمِ اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَالتَّكْلَانِ عَلَى اللّٰهِ

اللہ کے نام کے ساتھ، اور قدرت و طاقت سوائے اللہ کے نہیں ہے اور اللہ کے سپرد ہوں۔

۶۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور کہے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

اللہ کے نام کے ساتھ، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، قدرت اور طاقت و قوت اللہ کے سوا نہیں ہے۔

تو (بذریعہ فرشتہ) اسے جواب دیا جاتا ہے: تو ہدایت دیا گیا، اور کفایت کیا گیا اور تو محفوظ ہو گیا۔ (ابوداؤد، ترمذی)

نہ صرف گھر سے نکلتے وقت بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہر وقت کا وظیفہ قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

۷۔ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ

(رواہ الترمذی)

لا حول ولا قوۃ..... کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ جنت کا خزانہ ہے۔

۸۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے عبداللہ بن قیس! کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے

۱۔ ابن ماجہ باب ما یدعو بالرجل اذا خرج.... ۲ "مکلوۃ" باب الدعوات فی الادات۔

۳ "مکلوۃ" باب ثواب التبیح۔

کی خبر نہ دوں۔ میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔
(متفق علیہ)

۹۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کفرت عنہ ذنوبہ وان كانت اکثر من زبد البحر۔
اس کے گناہ معاف کر دیئے گئے گو سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔

۱۰۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ دَوَاءٌ مِنْ تِسْعَةِ وَتِسْعِينَ دَاءً أَيْسَرَهَا اللَّهُمَّ لِحَوْلِ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ نَوَاءٌ يَبْرَأُ بِهَا مِنَ الْبِطْنِ وَالْجَمْرِ وَالْمِطْرِ وَالْمَلَمِ وَالْمَلَمِ وَالْمَلَمِ۔

۱۱۔ انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تجھے وہ کلمہ نہ بتلاؤں: من تحت العرش من كنز الجنة لا حول ولا قوة الا بالله۔

رواهما البيهقي في الدعوات الكبير۔

جو تحت العرش جنت کا خزانہ ہے (وہ عرش و جنتی خزانہ ہے) لا حول ولا قوة الا بالله۔ ان دونوں روایتوں کو پہنچتی نے روایت کیا ہے۔

صبح و شام گھر سے نکلتے وقت، اور ہر وقت کا وظیفہ، جنت کا اور تحت العرش خزانہ لا حول ولا قوة الا بالله ہے۔ اس کی عظمت کا سارا راز اسی میں مضمر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثبات اور غیر اللہ کے اختیار کی نفی ہے۔

اللہ کے حکم کے خلاف ساری دنیا مل کر نفع نقصان نہیں دے سکتی

۱۲۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا: میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا:

اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ (دارین میں) تمہاری حفاظت کرے گا اور جب بھی تو سوال کرے اللہ سے سوال کر اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ سے مدد طلب کر۔

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب ثواب التبیح۔ ۲۔ مستدرک حاکم، جلد اول ص ۵۰۳، کتاب الدعاء۔

۳۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب ثواب التبیح۔

وَأَعْلَمَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ.

اور جان لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نفع دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو کچھ اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اگر سب تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر کر دیا ہے۔ (تقدیر کے) قلم لکھ چکے اور رجسٹر خشک ہو چکے۔

(رواہ احمد والترمذی)

سبحان اللہ! سوال کرنا، دعا کرنا، مدد طلب کرنا، یہ اللہ ہی کی ذات سے لازم ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی مشیت اور تقدیر الہی کے خلاف کسی کو نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ نفع نقصان پہنچانا یہ صرف خاصہ خدا ہے۔ غیر اللہ کے اختیار و اقتدار کی نفی کا اس سے بہتر انداز اور کون سا ہو سکتا ہے؟

۱۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو عزم کے ساتھ دعا مانگے۔

إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرَهَ لَهُ.

بالیقین وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر زبردستی کرنے والا کوئی نہیں۔ (صحیح بخاری)

ساری دنیا پر اس کی مشیت و قدرت غالب ہے۔ کسی کی کیا مجال ہے جو اس قادر مطلق پر دباؤ ڈال سکے، زبردستی کر سکے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ.

تو کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول سے بھی اسی حقیقت کا وضوح و اثبات ہوا کہ قدرت و اختیار خاصہ خدا ہے، نفع نقصان کا مالک واحد اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے سوا کسی کو بھی نفع نقصان کا قطعاً کوئی اختیار نہیں۔

آثار صحابہ و اقوال سلف: کتاب و سنت کے بعد اب حضرات صحابہ و کبار اولیاء کے آثار و اقوال سے اللہ رب العزت کے لیے اختیار

و قدرت کا اثبات اور غیر اللہ کے لیے اس کی مطلق نفی ملاحظہ ہو:

۱۔ "مکتوٰۃ الصالح" باب التوکل والاصر۔ ج ۲ "ترجمان السنۃ" جلد دوم حدیث نمبر ۶۳۹۔

حجرِ اسود سے حضرت عمرؓ کا خطاب:

حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہم سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حجرِ اسود کو بوسہ دیا، اور (حجرِ اسود سے) فرمایا:

إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

(متفق علیہ) میں خوب جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بحوالہ دارقطنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔^۱

ایک عظیم و معظّم پتھر ہے، شعائر میں داخل ہے، اسے بوسہ دینا سنتِ ثابتہ و معمول صحابہؓ و اہل امت ہے، مگر حضراتِ شیخینؓ اس کے نافع و ضار ہونے کی نفی فرما رہے ہیں تاکہ کل کوئی اس کی عظمت کی وجہ سے اسے نفع نقصان کا مالک نہ سمجھنے لگ جائے۔

حضرت محبوب سجانیؒ کا ارشاد: سرخیل صلحاء اُمت امام الاولیاء سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور کیا

خوب فرماتے ہیں، اور الفاظ مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے کس درجہ مشابہ ہیں:

وَأَنَّ الْخَلَائِقَ لَوْ جَاهَدُوا أَنْ يَنْفَعُوا الْمَرْءَ بِمَا لَمْ يَقْضِهِ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوْ جَاهَدُوا أَنْ يَضُرُّوهُ بِمَا لَمْ يَقْضِهِ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَسْتَطِيعُوا كَمَا وَرَدَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ تَعَالَى وَإِنْ يَمْسُكِ اللَّهُ بَصِيرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. (الآیة)^۲

۱ "مشکوٰۃ المصابیح" باب دخول المکة والطواف۔ نیز موطا امام مالک باب تقبیل الرکن الاسود۔ ابوداؤد باب فی تقبیل الحجر اور ترمذی باب فی تقبیل الرکن میں بھی یہ روایت ہے۔

۲ "تاریخ الخلفاء" فصل فیما روی عن ابی بکر۔

۳ "نغیۃ الطالبین" جلد اول فصل بیان عذاب۔

۱۔ آپ کی مرض وفات میں آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالوہاب رحمہ اللہ نے آپ سے وصیت کی استدعا کی تو فرمایا:

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَخَفْ أَحَدًا سِوَى اللَّهِ وَلَا تَرْجُ أَحَدًا سِوَى اللَّهِ وَلِكُلِّ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ وَاطْلُبْهَا جَمِيعًا مِنْهُ تَعَالَى وَلَا تَشُقْ بِأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ خذ التوحيد والتوحيد اجماع الكل بال

اپنے اوپر خدا کے تقویٰ کو لازم رکھو، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاؤ، نہ کسی سے اُمید رکھو، تمام حاجتیں اللہ کو سونپ دو، اس کے سوا کسی پر تکیہ نہ کرو، سب کچھ اسی سے طلب کرو، اور اللہ سبحانہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو، توحید پر قائم رہو کہ توحید پر سب کا اجماع ہے۔

شیخ المشائخ ایک اور موقع پر رقمطراز ہیں:

۳۔ لَا يَمْلِكُ مَعَهُ تَعَالَى فِي مَلِكِهِ أَحَدٌ شَيْئًا لَا ضَارٌّ وَلَا نَافِعٌ وَلَا دَافِعٌ وَلَا جَالِبٌ وَلَا مَسْقُمٌ وَلَا مَبْلَى وَلَا مَعَانِي وَلَا مَبْرَى غَيْرَهُ فَلَا تَشْتَغِلْ بِالْخَلْقِ لَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا فِي البَاطِنِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۱

اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ملک و اختیار میں کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں، اللہ کے سوا نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع، نہ کوئی تکلیف دفع کرنے والا ہے نہ کوئی بھلائی کرنے والا، نہ کوئی بیمار کرنے والا ہے نہ کوئی آزمائش میں ڈالنے والا، اور نہ کوئی صحت دینے والا ہے نہ کوئی نجات دینے والا، لہذا مخلوق میں مشغول نہ ہو، نہ ظاہر نہ باطن، کیونکہ یہ بالیقین اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتے۔

اللہ اللہ! اقلیم علم و تصوف کے اس تاجدار نے کس زوردار انداز اور موثر الفاظ میں اللہ رب العزت کی قدرت و اختیار کے اثبات کے ساتھ ساری مخلوق تمام ماسوی اللہ کے اختیار کی مطلق نفی فرمائی ہے۔

۱۔ کلمہ "فتوح الغیب"۔ ۲۔ "فتوح الغیب" مقالہ ۵۹۔

مگر آہ! آج جھوٹے مدعیانِ تصوف غیر اللہ کے لیے اختیار ثابت کرنے اور انہیں نفع نقصان کا مالک قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ مگر ان تاجدارانِ اقلیم و ولایت و صدرِ نشینانِ مسندِ تصوف کے مقابلے میں ان کی بے سند و بے دلیل بات ایک بڑے زیادہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ:

**کفار کا عقیدہ تھا کہ بت نفع نقصان کے مالک ہیں
مگر اسلام اس باطل عقیدہ کی نفی کرتا ہے!**

سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ جن سات مظلوم و مقہور اولین سابقین اصحابِ رسول کو خرید کر آزاد فرمایا، ان میں ایک مظلوم صحابیہ حضرت زینہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔

۱. وَأَصِيبَ بَصْرَهَا حِينَ اعْتَقَهَا فَقَالَتْ قَرِيشُ مَا أَذْهَبَ بَصْرَهَا إِلَّا
اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ فَقَالَتْ كَذَبُوا وَبَيْتَ اللَّهِ مَا تَضُرُّ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ وَمَا
تَنْفَعَانِ فَرَدَّ اللَّهُ بَصْرَهَا ۚ

جب انہیں (خرید کر) آزاد کیا گیا تو ان کی بینائی جاتی رہی۔ قریش کہنے لگے: اس کی بینائی لات و عزیٰ نے ختم کر دی ہے۔ حضرت زینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”یہ جھوٹ بکتے ہیں، رب کی قسم! لات و عزیٰ نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع!“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔

۳۔ علیٰ ہذا مشرکین مکہ جنگ میں بتوں کو پکارتے تھے۔ غزوہٴ اُحد میں فرمایا:

نادی المشركون بشعارهم، يا للُعزى يا لهبل!

مشرکین نے اپنے معمول کے مطابق پکارا: اے عزیٰ! اے ہبل!

اُحد ہی کے دن فتح کے نشے میں مخمور ہو کر ابوسفیان نے ہبل کی بے پکارتے ہوئے کہا تھا:

۱۔ ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول ص ۳۳۰، ”استیعاب“ و ”اصابہ“ ترجمہ حضرت زینہ۔

۲۔ ”طبقات ابن سعد“ جلد ۲ ص ۴۲۔

أَعْلُ هَبْلٍ أَعْلُ هَبْلٍ. ہبل کا بول بالا، ہبل کا بول بالا۔

حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کو جواب نہیں دیتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: کن الفاظ سے یا رسول اللہ؟ فرمایا: تم کہو:

اللہ اعلیٰ واجل۔ اللہ ہی سب سے بالا ہے اور اللہ ہی بڑی شان والا ہے۔

اس سلسلہ میں صحابہ کرامؓ کے نادر و حیرت انگیز واقعات اور ان کی ایمان افروز کرامات

ہمارے اسلاف کرام کو اس ایمان و یقین میں..... کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی..... اس درجہ غلو تھا کہ وہ اشیاء میں ان کی خداداد تاثیر و خاصیت کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور اپنے اس یقین کامل کی بنا پر موثر حقیقی اللہ رب العزت کا نام لے کر سمندر میں کود پڑتے تھے اور نہیں ڈوبتے تھے، آگ کے شعلوں میں ڈالے جاتے تھے اور نہیں جلتے تھے، زہر پھانک لیتے تھے اور نہیں مرتے تھے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

۱۔ خلافت صدیقی میں حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ نے بحرین کے مرتدین پر حملہ کر کے انہیں گاجرمولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ چونچ گئے وہ کشتیوں میں سوار ہو کر دارین پہنچ گئے اور دارین خلیج فارس کا ایک جزیرہ ہے، ساحل سے بذریعہ کشتی چوبیس گھنٹوں کی مسافت پر!

حضرت علاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ نے ان کے تعاقب میں اس جزیرے پر حملہ کا فیصلہ کیا مگر کشتیاں تھی نہیں، لہذا انہوں نے اپنے لشکر سے خطاب میں فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ سمندر میں بھی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا سکتا ہے۔ لہذا تم سمندر میں کود پڑو۔“ سارے لشکر نے کہا: ”ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔“ اور پورے لشکر نے توکل علی اللہ سمندر میں اپنے اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے ڈال دیئے۔ حضرت علاء رضی اللہ عنہ اور سارے لشکر نے یہ دعا کی: یا ارحم الراحمین! یا کریم، یا حلیم، یا احد، یا صمد، یا محی الموتی، یا حی یا قیوم، لا الہ الا انت یا ربنا۔ اللہ کے حکم سے سب پار ہو گئے۔ وہ سمندر میں ایسے جا رہے تھے جیسے نرم ریت پر چل رہے ہوں۔ سمندر کے پانی سے اونٹوں کے صرف پاؤں تر ہوئے۔ دارین پہنچ کر تمام مرتدین کو قتل کر دیا۔ (لشکر کے ایک جرنیل) حضرت عقیف بن الہمدان نے اس واقعہ پر کہا:

وَأَنْزَلَ بِالْكَفَّارِ إِخْدَى الْجَلَالِ
بِأَعْجَبَ مِنْ فَلَقِ الْبِحَارِ الْأَوَائِلِ
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ذَلَّلَ بَحْرَهُ
دَعْوَنَا الَّذِي شَقَّ الْبِحَارَ، فَجَاءَنَا

”کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تابع کر دیا۔ اور کفار پر ایک مصیبت عظمیٰ ڈال دی۔ ہم نے اس ذات کو پکارا جس نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، پس وہ ہماری مدد کو آن پہنچا۔ اور پہلی دفعہ سمندر کو پھاڑ دینے کی نسبت زیادہ عجب انداز میں آن پہنچا۔“

۲۔ عہد صدیقی میں اسود عتسی کذاب نے حضرت عبداللہ بن ثوب ابو مسلم خولانی کو اپنی نبوت کے انکار اور رسالت محمدی کے اقرار پر آگ کے شعلوں میں ڈال دیا، مگر آگ نے ان کا بال بھی بیک نہ کیا۔ یہ خلافت صدیقی میں مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے لگایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا: اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس وقت تک نہ مارا جب تک مجھے اُمت محمدیہ میں ایسا شخص نہ دکھا دیا جس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہوا تھا۔ (”استیعاب“ ترجمہ ابو مسلم خولانی)

۳۔ اسی طرح مشہور ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر زہر ہلاٹل پھانک لی مگر زہر نے ان پر کچھ بھی اثر نہ کیا۔

یہ گندہ عقیدہ کہاں سے در آمد ہوا
کتاب اللہ اور سنت رسول، آثار صحابہ اور
اقوال و ارشادات فقہاء اُمت و اولیاء اللہ

رحمہم اللہ سے یہ ثابت ہے کہ تصرف و اختیار صرف ذات پاک رب العزت کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا خیر و شر اور نفع نقصان کا مالک کوئی بھی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر اللہ کے اختیار کا گندہ عقیدہ مسلمانوں میں کہاں سے در آمد ہوا؟

اس عقیدہ کا ماخذ ”تشیع“ ہے۔ یہ اہل تشیع کا ایمان و عقیدہ ہے کہ تدبیر امور حتیٰ کہ خلق مخلوق اور تحلیل و تحریم کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ شیعوں کی بنیادی کتاب اصول کافی میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ خَلْقِهِ
بیشک اللہ عزوجل نے اپنی مخلوق کے کام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیئے ہیں

۱۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنادینے کی طرف اشارہ ہے۔
۲۔ طبری جلد ۲ ص ۵۲۷ تا ۵۲۸، اصحابہ ترجمہ عقیف بن المندر۔ ۳۔ اصول کافی باب التوہیض الی رسول اللہ۔

دوسرے مقام پر ہے: فَهَمْ يُحْلُونَ مَا يَشَاؤْنَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤْنَ ۚ
 شیخ المشائخ امام الاولیاء حضرت شیخ جیلانی رحمہ اللہ رقم فرماتے ہیں:
 وَأَمَّا الْمَفْرُوضَةُ فَهَمُّ الْقَائِلُونَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ تَدْبِيرَ الْخَلْقِ إِلَى
 الْأُمَّةِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَقْدَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَلْقِ
 الْعَالَمِ وَتَدْبِيرِ الْخَلْقِ وَمَا خَافَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي
 حَرِّ عَلِيٍّ ۚ

مفوضہ اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے امور کی تدابیر ”ائمہ“ کے سپرد کر
 دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق عالم اور تدبیر کائنات پر قادر فرما
 دیا ہے۔

اور دنیا کی کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی۔ اور اسی طرح حضرت علیؑ کے حق میں کہتے
 ہیں (کہ خلق و تدبیر عالم اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دیا)

ذاتی نہ! بلکہ عطائی مفوضہ شیعوں کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علیؑ کو
 ذاتی قدرت و اختیار حاصل ہے۔ ان کا ایمان و یقین یہ تھا کہ
 اللہ رب العزت نے انہیں خلق و تدبیر عالم کے اختیارات تفویض کر دیئے ہیں۔ اسی طرح
 کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ مشرکین کا بھی اپنے معبودین سے متعلق یہ ایمان و
 یقین نہیں تھا کہ وہ ان کی مشکل کشائی و حاجت روائی پر ذاتی طور پر قادر ہیں۔ نہ وہ اپنے معبود
 اللہ کے نیک اور صالح و مقبول بندوں کو صفات ربانی میں ذاتی طور پر شریک مانتے تھے۔ ان کا
 عقیدہ صرف یہ تھا کہ اللہ کے یہ بندے ہمیں خدا سے قریب کر سکتے ہیں، بارگاہ الہی میں ہماری
 سفارش کر کے ہمارے کام کر سکتے ہیں۔

گویا وہ بالواسطہ طور پر اپنے معبودوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے اور ان کی من
 جانب اللہ عطائی ملک و قدرت پر ایمان رکھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 روایت ہے کہ مشرکین طواف کرتے وقت کہتے تھے: لَيْتَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَاهُ
 لَكَ فَمَلِكُهُ وَمَا مَلَكَ... ۚ

۱۔ ”اصول کافی“ باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقات۔

۲۔ ”نعمیہ الطالبین“ حصہ اول فصل اضافة الرقعة۔ ۳۔ صحیح مسلم باب التلبیہ۔

یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اے اللہ! ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، مگر وہ آپ کا شریک (ضرور) ہے، جس کا تو مالک ہے اور اس کی تمام مملوکات کا بھی تو ہی مالک ہے۔

تو وہ ذاتی طور پر کسی کو بھی ملک و قدرت میں خدا کا شریک نہیں مانتے تھے، اور جن کو وہ خدا کا شریک مانتے تھے، ان میں عطائی قدرت و مالکیت اور اختیار و اقتدار کے قائل تھے نہ کہ ذاتی طور پر انہیں قادر و مالک مانتے تھے۔

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ:

إِعْلَمُ أَنَّ لَيْسَ فِي الْعَالَمِ أَحَدٌ يَبْتُلِ لِّلَّهِ شَرِيكًا يُسَاوِيهِ فِي الْوَجُودِ
وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ وَهَذَا مِمَّا لَمْ يُوجَدْ إِلَى الْآنِ ۱

جان لو کہ سارے جہان میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کا ایسا شریک ماننا ہو جو وجود، قدرت اور علم و حکمت میں اللہ کے برابر ہو۔ اور ایسا عقیدہ اس وقت تک (دنیا میں کہیں) موجود نہیں۔

تو اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت، علم اختیار و ملک جو بھی ہیں ذاتی ہیں، اس طرح ذاتی صفات کا مالک دنیا میں کسی مشرک نے اپنے معبودین کو نہیں مانا۔ جس نے مانا اپنے معبود کو عطائی صفات کا مالک مانا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملک و قدرت اور علم و حکمت عطاء کی ہے۔ مالک حقیقی نے یہ صفات انہیں بخشی ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

ان (مشرکین) میں سے بعض کا اعتقاد یہ تھا کہ: بیشک آقا اور مدبر تو اللہ ہی ہے،

لكنه قد يخلع على بعض عبده لباس الشرف والتأله ويجعله مُتَصَرِّفًا

في بعض الامور الخاصة.

لیکن وہ اپنے بعض بندوں کو بزرگی اور الوہیت کا لباس پہنا دیتا ہے اور ان کو بعض خاص کاموں کا اختیار دے دیتا ہے.... اس وجہ سے ایسے اشخاص کو بندگان خدا (عباد اللہ) کہنے کی لوگوں کو جرات نہیں ہوتی، وہ ان کو "ابن اللہ" اور "محبوب اللہ" کہتے ہیں اور اپنا نام ایسا رکھتے ہیں جن میں ان کا عبد (غلام) ہونا ظاہر ہو جیسے عبد المسیح اور عبد العزیز۔

۱ "تفسیر کبیر" ج ۲ ص ۱۱۲، تفسیر آیت قَلَّا نَجْعَلُوْا لِلّٰہِ اَنْدَادًا.

وَهَذَا مَرَضُ جَمْهُورِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَشْرِكِينَ وَبَعْضُ الْغَلَاةِ مِنْ
مُنَافِقِي دِينِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَنَا هَذَا
يَهْرُضُ عَامُ يَهُودٍ وَنَصَارَى مُشْرِكِينَ أَوْ آجِ دِينِ مُحَمَّدٍ كَيْ لِبَعْضِ غَالِي مَنَافِقُونَ كَوَلَا حَقِّ
هِيَ۔

عام یہود و نصاریٰ مشرکین تو اس مرض میں مبتلا تھے ہی، وہ اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اختیارات کا مالک یقین کرتے تھے، اپنے آپ کو ان کا غلام اور عبد سمجھتے تھے اور اپنے نام عبد اسحٰق اور عبد العزیز وغیرہ رکھتے تھے، مگر آہ! کہ آج بعض مسلمان کہلانے والے بھی اس مرض کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ بھی حضرات انبیاء و اولیاء کو عطائی اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں۔ اپنے نفع نقصان اور سود و زیاں کا اختیار نہیں دیتے ہیں۔ دکھ، درد مصیبت اور تکلیف کے وقت انہیں پکارتے ہیں۔ انہیں اپنا آقا، مالک و مختار جانتے ہیں۔ خود کو ان کا عبد (غلام) مانتے ہیں اور اپنا نام عبد الرسول، عبد النبی وغیرہ رکھتے ہیں۔ حضرت محدث دہلوی انہیں ”دین محمد کے غالی منافق“ کہتے ہیں، ”الغلاة من منافق دین محمد“۔

خلاصہ: کتاب اللہ سے نہایت صراحت کے ساتھ قدرت اور علم غیب اور ہر جگہ، ہر وقت حاضر و ناظر ہونا یہ تین صفات خاص اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہوتی ہیں، اور غیر اللہ سے واضح طور پر ان تینوں صفتوں کی بار بار نفی کی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب رسول، قرآن کریم میں بھی اور احادیث صحیحہ میں بھی اپنے لیے ان تینوں صفات کی بصراحت نفی فرما رہے ہیں۔ پھر حضرات صحابہ و تابعین اور اجلہ ائمہ دین و اکابر اولیاء اللہ رحمہم اللہ بھی ان صفات کو غیر اللہ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت کرنے اور ماننے کو صاف صاف کفر قرار دے رہے ہیں۔ تو پھر انکل بچو باتوں اور جاہل و بے دین لوگوں کی ہزلیات و خرافات کی بناء پر قدرت و اختیار یا علم غیب یا حاضر ناظر ہونا کسی غیر اللہ کسی ولی، کسی نبی حتیٰ کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و شان قرار دینے کا آخر کیا جواز ہے؟ اگر یہ صفات کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہوتیں تو چونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ تھا لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب پاک قرآن کریم میں صاف صاف فرما دیتے کہ میرے محبوب رسول کو بھی میری طرح قدرت و اختیار، علم غیب اور ہر جگہ ہر وقت حضور و شہود حاصل ہے۔ تم انہیں بھی قادر و قدیر، عالم الغیب اور حاضر و ناظر مانو، ورنہ مسلمان نہیں رہو

۱۔ ”حجة اللہ البالغہ“ مطبوعہ جماعت اسلام پریس لاہور جلد اول ص ۱۱۲۔

سکتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قادر و متصرف، عالم الکل، اور حاضر و ناظر ہونے کا دعویٰ فرماتے، لوگوں کو اسے ماننے کی دعوت دیتے، نہ ماننے والوں کو وعید شدید کا مستحق قرار دیتے۔ پھر اصحاب رسول و سلف صالحین کا ہر فرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار و اختیار، عامہ، علم بسیط و محیط اور ہمہ وقت ہر جگہ حاضر و موجود ہونے کی صفات سے متصف مانتا۔ حدیث و فقہ کا ہر امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقلی کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور عالم الغیب تسلیم کرتا اور جمیع ائمہ و عقائد و کلام اپنی مصنفات میں اس عقیدہ کو صراحت کے ساتھ رقم کرتے، اور اسلاف میں یہ عقیدہ عام شائع ہوتا۔

بہر حال کتاب و سنت اور توابع سنت سے یہ ثابت ہو گیا کہ علم غیب، حضور و شہود اور اقتدار و اختیار کُلِّ یہ تینوں صفات خاصہ خدا ہیں۔ پھر یہی تینوں صفات اصل و اساس عبادت و لوازم الوہیت ہیں۔ جب عبادت کی بنیاد انہی تین صفات پر قائم ہے اور یہ تینوں صفات خاصہ خدا ہیں تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عبادت خاصہ خدا ہے اور اس میں خدا کے سوا کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں۔

اب اگر کوئی بندہ خدا کسی غیر خدا یعنی کسی نبی یا ولی کو ان تینوں صفات یا ان میں سے کسی ایک صفت سے متصف جانتا ہے، یعنی کسی بزرگ کو ہر جگہ حاضر و موجود یا عالم الغیب یا ہر بات پر قادر اور صاحب اختیار یقین کرتا ہے تو وہ گویا اسے اپنا الہ یعنی خدا مانتا ہے، خواہ زبان سے اسے خدا نہ کہے بلکہ پیر و مرشد یا ولی اور نبی کہے۔ کیونکہ جب یہ صفات خاصہ خدا ہیں تو کوئی شخص جس کسی میں یہ صفات ماننے کا گویا وہ اس شخص کا خدا ہوگا، گودر حقیقت وہ خدا نہیں ہے۔

جیسے ایک شخص مانتا ہے کہ فلاں صاحب کا اس کی ماں کے ساتھ نکاح ہے اور وہ صاحب خانہ ہے۔ پھر یہ بھی مانتا ہے کہ میں اپنی ماں کے لطن سے اس نکاح کے بہت مدت بعد پیدا ہوا ہوں اور ہمارا نان نفقہ سب اس پر ہے۔ تو اب وہ صاحب اس شخص کا باپ ہوگا خواہ یہ ناخلف اسے باپ نہ مانے اور واقعہ میں بھی وہ اس کا باپ نہ ہو بلکہ یہ شخص کسی دوسرے آدمی کا خون ہو۔ لیکن شرعاً قانوناً اور عرفاً بھی وہ صاحب اس کا باپ ہے، کیونکہ باپ کی صفات خاصہ اس میں موجود ہیں۔

دُعا

”دُعا“ اور ”دُعوت“ دونوں کے معنی ہیں پکار، دُعا، بلانا، پکارنا، مانگنا، سوال کرنا۔

دُعَا يَدْعُوْا کا مصدر ہے، دُعا اور ندا ہم معنی ہیں۔ (لغات القرآن جلد ۳ ص ۱۱، ۱۲)

الدُّعَاءُ کے معنی نداء کے ہیں، بلانا، پکارنا، سوال کرنا یا مدد طلب کرنا۔

(”مفردات القرآن“ ص ۳۰۹)

دُعا و استعانت یعنی حاجت و مصیبت کے وقت بلانا، پکارنا اور مدد و اعانت طلب کرنا عبادت ہے۔ لہذا یہ خاص خدائے قادر و کریم کا حق ہے۔ نَهْ دَعْوَةُ الْحَقِّ.

ایک داعی، حاجت اور تکلیف، دُکھ اور مصیبت کے وقت جب اپنے آپ کو دُکھ اور مصیبت کے ازالہ و مداویٰ سے عاجز پا کر رب کریم کی بارگاہ میں اس ایمان و یقین کے ساتھ رجوع کرتا ہے کہ وہ ذات پاک اس کی دعا پکار کو سننے والی ہے، اس کے دُکھ درد، ضرورت و حاجت کو جانتی ہے اور اس کے ازالہ اور پورا کرنے پر قادر ہے تو یہ اپنے عجز و نقص، اپنی بے بسی و بے چارگی کا احساس و ادراک اور رب کریم کی قدرت و اختیارِ کامل کا عرفان و ایقان بلا شک و شبہ نہ صرف عبادت بلکہ روح عبادت ہے، اعظم العبادات ہے۔ چنانچہ لسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے عبادت بھی فرمایا گیا ہے اور رخ العبادت بھی!

۱۔ بروایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ لِعِنِّي دُعَا عِبَادَتِ هِيَ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَقَالَ رَبُّكُمْ.....

اسے امام احمد، ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مستدرک حاکم کی روایت میں ان الذعاهو العبادة کے الفاظ ہیں۔ (جلد اول ص ۳۹۱)

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ ”مکتوٰۃ الصالح“ کتاب الدعوات۔

الدَّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ. دُعا عبادت کا مغز ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔^۱

۳۔ بروایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

الدُّعَاءُ سَلَاخُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّينِ وَنُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.^۲

دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور دعا آسمان و زمین کا نور ہے۔

سبحان اللہ! دُعا کی کیا شان ہے۔ یہ عبادت ہے، مغز و روح عبادت ہے، یہ مومن کا

ہتھیار ہے۔ کوئی شک نہیں یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ دین کا ستون ہے۔ یہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اے کاش کہ ہم دعا کی عظمت سے پوری طرح آگاہ ہوتے۔

جب دعا مومن کا ہتھیار ہے تو ہر وقت مومن کو اس سے مسلح رہنا چاہئے تاکہ شیطان کے

حملوں سے محفوظ رہے، اور کبھی ہلاک نہ ہو۔

۴۔ بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

لَا تُعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدًا.

ہذا حدیث صحیح الاسناد۔^۳

دعا میں کمی نہ کرنا بیشک دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا۔

دعا سے زیادہ بارگاہِ الہی میں کوئی چیز مکرم و معظم اور معزز نہیں۔

۵۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ. (ترمذی، ابن ماجہ)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معظم و پسندیدہ چیز کوئی نہیں۔

حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔^۴

۶۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ:

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ هُوَ الدُّعَاءُ ^۱ بہترین عبادت دعا ہے۔

دعا کی بنیاد و احساسات پر قائم ہے۔ ایک تو دعا مانگنے

والا اپنے آپ کو دفعِ مضرت و رفعِ تکلیف سے بکسر

دعا صرف اللہ کا حق ہے

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب الدعوات۔ ج ۲ "مستدرک حاکم" جلد اول ص ۴۹۲ کتاب الدعاء۔

۲۔ "مستدرک حاکم" جلد اول ص ۴۹۳۔ ج ۲ "مشکوٰۃ المصابیح" کتاب الدعوات۔

۳۔ "بلوغ المرام" از ابن حجر عسقلانی باب الذکر والدعاء۔ ج ۱ "مستدرک حاکم" جلد اول ص ۴۹۱ کتاب الدعاء۔

عاجز و بے بس پاتا ہے۔ اسے یہ احساس و یقین ہوتا ہے کہ اسباب کے تحت اور اپنے ممکن وسائل و ذرائع کی حد تک میں اس تکلیف و مصیبت کو دور کرنے یا کسی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے سے بالکل عاجز ہوں، لہذا وہ اس غرض کے لیے ایسی ہستی کو پکارتا ہے جس کے متعلق اس کا ایمان و یقین ہوتا ہے کہ وہ مافوق الاسباب اختیار و اقتدار کی مالک ہے، نیز وہ ہر جگہ ہر وقت ہر پکارنے والے کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، اسے دیکھ رہی ہے، اس کی پکار سن رہی ہے، اس کی مشکل اور حاجت کو جانتی ہے، علیم وخبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، اور پھر اس درجہ وسیع و لامحدود اختیار و اقتدار اور قدرت و ملکوت کی مالک ہے کہ جو بھی اور جہاں بھی اور جب بھی اسے پکارے، اس کی دعا قبول کرتی ہے، اس کی مدد کو پہنچتی ہے، اس کی مشکل حل کرتی ہے اور بگڑی بناتی ہے۔

ان دو احساسات و حقائق کے پیش نظر یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے اور دعا کی اس حقیقت کے علم و وضوح کے بعد یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ دعا اللہ ہی کا حق ہے، اور اس قادر مطلق کے سوا کسی کو پکارنا صریح شرک ہے، کیونکہ جب تک کوئی کسی کو علم کمال اور قدرت کاملہ و مطلقہ صفات خداوندی کا مالک نہ مانتا ہو اور عالم الغیب، سمیع و بصیر، علی کل شیء قدیر نہ جانتا ہو، مشکل کشا اور حاجت روا یقین نہ کرتا ہو، وہ اسے پکارنے اور اس سے دعا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

حقیقت یہ ہے کہ سمیع و بصیر، علیم بذات الصدور، عالم الغیب والشہادۃ، قادر مطلق اور مختار کمال صرف ایک ذات پاک رب العزت ہے۔ اس کے سوا کوئی عظیم سے عظیم ہستی بھی ان صفات کی مالک نہیں۔ حضرات اولیاء و انبیاء علیہم السلام تک سب بے بس و بے اختیار ہیں۔ سب اس بارگاہ احدیت و صمدیت میں سائل ہیں۔ سب اسی الہ واحد کے محتاج ہیں۔ سب نے مشکلات و مصائب میں اسی کو پکارا ہے اور اسی ذات پاک نے سب کی دعا پکار سن کر مشکل کشائی و حاجت روائی کی ہے، لہذا دعا صرف اس قادر کریم کا حق ہے۔

کتاب اللہ: قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. (سورہ فاتحہ)

ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔

ایک مرد مومن بارگاہِ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ رب العالمین! ہم عبادت صرف تیری ذات کی کرتے ہیں اور مدد و اعانت کی طلب و درخواست بھی آپ ہی کی ذات سے کرتے ہیں۔ پھر یہ فکر و تصور اور یہ علم و ایمان ہمہ وقت مسلمان کے پیش نظر بلکہ وردِ زبان رہتا ہے، رات دن صبح و شام یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہی پڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ وتر کی آخری رکعت میں دعاء قنوت پڑھتا ہے، اس کا پہلا جملہ یہ ہے: **اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ** یعنی اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔

تو مدد طلبی، دعا و استعانت یہ اللہ واحد کا حق ہے۔ جب دعا عبادت ہے، روح عبادت، افضل العبادت، تو پھر غیر اللہ کے لیے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اللہ کی کیا کریم ذات ہے کہ سوال کرنے والے سے خوش اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے!

اللہ رب العزت وہ ذاتِ کریم و رحمن و رحیم ہے کہ جو اس کے در پر آئے، اس سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور جو نہ آئے اس سے ناراض و ناخوش ہوتا ہے۔ جو اس ذاتِ کریم کے سامنے دستِ سوال دراز کرے، اس کے فضل و کرم کا طالب ہو، اسے وہ محبوب رکھتے ہیں۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ. (رواہ الترمذی)

اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل و کرم طلب کرو۔ بالیقین اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے۔

اور جو اس رحمن و رحیم ذات سے سوال نہ کرے، اس پر غضب ناک ہوتے ہیں۔

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ. (رواہ الترمذی)

جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوتے ہیں۔

”مستدرک حاکم“ کی روایت میں من لا یدعوا اللہ یغضب علیہ کے الفاظ ہیں۔ (جلد اول ص)

وہ ایسی ذاتِ کریم ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں دستِ سوال دراز کرے، اسے وہ خالی نہیں پھیرتا۔

۱۔ ”مکتوٰۃ الصالح“ کتاب الدعوات۔ ۲ ایضاً۔

۳۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ رَبَّكُمْ حَتَّىٰ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يُرَدَّهُمَا صِفْرًا.

(رواه الترمذی و ابوداؤد والبیہقی) ۱

پیشک تمہارا رب بہت زیادہ صاحب حیا اور بہت زیادہ صاحب کرم ہے۔ وہ اپنے

بندے سے حیا کرتا ہے جبکہ بندہ (دعا کے لیے) ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ انہیں

خالی پھیرے۔ اسے ترمذی، ابوداؤد اور بیہقی نے ”دعوات کبیر“ میں روایت کیا ہے

”مستدرک حاکم“ میں بھی یہ روایت ہے۔ جلد اول (کتاب الدعاء)

اس ذات کریم کو چھوڑ کر بندہ اور کس کے آگے سوال کرے جو اپنے عاجز و محتاج بندے

کی ہر دعا قبول کرتا ہے، اور کبھی اپنے مضطر بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔

وہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

(بقرہ، رکوع ۲۳)

اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پس بے شک میں

قریب ہوں۔ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کہ وہ مجھے پکارتا ہے۔

جب کہیں اور جہاں کہیں عاجز بندے نے اپنے اللہ کریم کو پکارا، فوراً اللہ کریم اپنے

بندے کی مدد کو آیا، اس کی دعا و درخواست پوری فرمائی۔ لہذا حق یہ ہے کہ بندہ اپنی ہر دعا و

درخواست اسی ذات کریم سے کرے اور جو بھی ضرورت اور حاجت ہو وہ اپنے مولا کریم سے

طلب کرے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کا سوال کرے تو اپنے اللہ کریم سے کرے۔

چنانچہ بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ:

لِيسْأَلَ أَحَدَكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا حَتَّىٰ يَسْأَلَ سِئَعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ.

(رواه الترمذی) ۲

تم کو چاہئے کہ اپنی سب حاجتیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرو۔ یہاں تک کہ جب

چیل کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔

۱ ”مکلوۃ الصاع“ کتاب الدعوات۔ ۲ ایضاً۔

مگر آہ! آج لوگ اور پھر مسلمان کہلانے والے اولیاء اللہ رحمہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر طرفہ تماشا یہ کہ صرف جاہل نہیں بلکہ عالم کہلانے والے بھی، پھر کمال یہ ہے کہ اپنے اس شرک و کفر پر احادیث و روایات بھی پیش کرتے ہیں۔

حضرت خاتم المفسرین رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہ:

آج لوگ اللہ تعالیٰ کو قسمیں (واسطہ وسیلہ) دینے میں حد سے بڑھ گئے ہیں اور اللہ عز شانہ کو ہر ایرے غیرے کا واسطہ دیتے ہیں۔

وَاعْظُمُ مِنْ ذَلِكَ انْهَم يَطْلُبُونَ مِنْ اصْحَابِ الْقُبُورِ نَحْوًا شَفَاءَ الْمَرِيضِ
وَإِغْنَاءَ الْفَقِيرِ وَرَدَّ الضَّالَّةَ وَتَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ وَتَوْحِيَّ الْيَهُمِ شَيَاطِينِهِمْ
خبر: "اذا اعيتكم الامور فعليكم باهل القبور" وهو حديث مفترى
على رسول الله صلى الله عليه وسلم باجماع العارفين بحديثه لم يروه
احد من العلماء ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة وقد
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ولعن على
ذلك، فكيف يتصور منه عليه الصلوة والسلام بالاستغاثة والطلب
من اصحابها؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!

اور اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ قبر والوں سے شفا، فراخ دستی، گمشدہ چیز کی واپسی اور ہر مشکل کی آسانی کا سوال کرتے ہیں، اور ان کے شیاطین نے ان پر ایک روایت القا کر رکھی ہے کہ "جب تم امور میں تھک ہار کر بیٹھ جاؤ تو اہل قبور سے مدد طلب کرو" یہ روایت علماء حدیث کے اجماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ اسے کسی ایک عالم نے بھی روایت نہیں کیا نہ حدیث کی معتبر کتب میں اس کا سراغ ملتا ہے۔ اور بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور اس فعل پر لعنت فرمائی ہے تو آپ سے یہ کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ آپ قبر والوں سے مدد کے لیے دعا و فریاد کا حکم فرمائیں۔ تو اس سے پاک ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔

۱ "روح المعانی" تفسیر آیۃ الوسیلہ۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ "إِذَا تَخَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ
قَوْلَ مَجَاوِرٍ! فَاسْتَعِينُوا بِأَهْلِ الْقُبُورِ" کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: اس حدیث از

قول مجاوران است برائے اخذ نذرو نیاز بر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افتراء کردہ اند۔
یعنی یہ مجاوروں نے نذرو نیاز بٹورنے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا
ہے۔ (لعنہم اللہ)

بعض جہال و فساق مصیبت کے وقت زندہ یا
مدکن یا معین الدین چشتی! وفات یافتہ بزرگان دین کو مشکل کشائی کے لیے

پکارتے ہیں، مثلاً: یا بہاؤ الحق بیڑا دھک

یا..... بگرداب بلا افتاد چشتی، مدکن یا معین الدین چشتی

یا..... امداد کن امداد کن، از بند غم آزاد کن

وردین و دنیا شاد کن، یا شیخ عبدالقادر!

اور اسے وہ از قبیل وسیلہ سمجھتے ہیں، حالانکہ وسیلہ تو یہ ہے کہ دعا خالص اللہ تعالیٰ سے کی جائے اور
کسی بزرگ کا واسطہ پیش کیا جائے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور یہ دکھ درد مصیبت اور تکلیف
کے وقت غیر اللہ کو پکارنا یہ تو عین شرک ہے یہ وسیلہ کہاں؟ اس کے متعلق علامہ آلوسی رحمہ اللہ
لکھتے ہیں:

إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا مِنْ دَعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

وَالْأَمْوَاتِ وَغَيْرِهِمْ مِثْلَ "يَا سَيِّدِي فَلَانَ أَغْشِي" وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ

التَّوَسُّلِ الْمَبَّاحِ فِي شَيْءٍ وَاللَّائِقُ بِحَالِ الْمُؤْمِنِ عَدَمُ التَّفَوُّهِ بِذَلِكَ

وَقَدْ عَدَّهُ أَنَسٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ شِرْكَاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ. ۱

اللہ تعالیٰ کے سوا زندہ اور وفات یافتہ اولیاء سے دعا کرنے میں بہت زیادہ لوگ مبتلا

ہیں۔ مثلاً: "یا فلاں میرے سردار میری مدد فرما" یہ مباح توسل میں سے نہیں ہے اور

مومن کی شان کے شایان یہ ہے کہ اس پر التفات نہ کرے اور بہت سے علماء نے

اسے شرک قرار دیا ہے۔ اور اگر شرک نہ ہو تو شرک کے قریب (توضیروں) ہے۔

۱ "البلاغ المبین" باب ۵ فصل ۳۔ ۲ اگر یہ شرک نہیں تو پھر شرک اور کیا ہے؟ بالیقین شرک ہے۔

۳ "روح المعانی" ایضاً تفسیر آیت الوسیلہ۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

چنانچہ بعضے وظیفہ یا بہاء الدین مشکل کشا در نشست و برخاست اشتغال داشتہ خود را از محبان حضرت بہاء الدین علیہ الرحمۃ شمرده اند و بعضے برائے کشائش رزق یا نظام الدین اولیاء زری زر بخش ورد نموده اند و گروہے اختراع کرده اند کہ از برائے ہر مہم ورد یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً للہ کفایت مے کند، خبردار باید شد کہ این ہمہ افتراء و بہتان است مثل ایس معنی اصلا ز اہل طریقت مستقیمہ روایات نمے کنند و از مردم ثقہ مروی نشدہ است؛

”یا بہاؤ الدین مشکل کشا“، ”یا نظام الدین اولیاء زری زر بخش“، ”یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً للہ“، وغیرہا نوعیت کے نعرے، وظیفے اور پکاریں حضرت رحمہ اللہ کے نزدیک یہ سب افتراء و بہتان ہیں، نہ شریعت میں ان کا کوئی ثبوت ہے اور نہ اہل طریقت سے یہ مروی و منقول ہیں۔ جہلا کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے مانگ کر ہم کو دیتے ہیں۔ ہم ان کو مستقل با اختیار دینے والا تو نہیں سمجھتے۔ دیتا تو اللہ ہے مگر یہ سب ہیں۔ اس کے متعلق حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَاعْلَمُ أَنْ طَلَبَ الْحَوَائِجِ مِنَ الْمَوْتَى عَالِمًا بِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِنْجَاحِهَا كُفْرًا...
وَالنَّاسُ الْيَوْمَ فِيهَا مِنْهُمْ كُونَ ۱

جاننا چاہئے کہ مردوں سے یہ جانتے ہوئے حاجتیں طلب کرنا کہ وہ حاجتیں پوری ہونے کا محض سبب ہیں، کفر ہے، مگر اس زمانہ میں لوگ اس میں مشغول ہیں۔ وفات یافتہ بزرگوں سے حاجتیں، مرادیں مانگنا، خواہ انہیں سبب جان کر ہی مانگی جائیں کفر ہے۔ اور جب حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۷۶ھ) کے عہد میں لوگ اس میں مشغول و منہمک تھے تو آج قریباً اڑھائی سو سال بعد کیا حال ہوگا؟
فقہ ابواللیث رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

الْاِسْتِعَاذَةُ بِالْمَخْلُوقِ لَا تُغْنِي مِنْ شَيْءٍ ۲

۱ ”ابلاغ الہدیین“ حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عجیب تصنیف ہے۔ باب ۴، فصل ۳ (شرکیہ و طائف)۔

۲ ”الخبیر الکبیر“ ص ۱۰۵۔ ۳ ”بتان العارفین“ باب ۲۲۔

مخلوق سے پناہ طلب کرنا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کسی مصیبت سے نہیں بچا سکتا
فقہاء اُمت و عمائدِ شریعت کے بعد اکابر اولیاء، مشائخِ طریقت کے ارشادات
ملاحظہ ہوں:

حضرت ابو یزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا:

اِسْتِغَاثَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْمَخْلُوقِ كَاِسْتِغَاثَةِ الْمَسْجُونِ بِالْمَسْجُونِ.
مخلوق کا مخلوق سے (ما فوق الاسباب) مدد طلب کرنا ایسا ہے جیسے قیدی کا قیدی
سے مدد طلب کرنا (حالانکہ ایک قیدی بے چارہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے!)
اور حضرت سجاد (امام زین العابدین علی بن حسینؑ) (متوفی ۹۴ھ) رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ:
سَفَةٌ فِي رَأْيِهِ وَضَلَّةٌ فِي عَقْلِهِ^۱

محتاج کا محتاج سے طلب کرنا بے وقوفی و جہالت اور عقل کی خرابی و گمراہی ہے۔

سید المشائخ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ (متوفی ۵۱۱ھ) فرماتے ہیں:
وَحَقِيقَةُ الْفَقْرِ اَنْ لَا تَفْتَقِرَ اِلَى مَنْ هُوَ مِثْلَكَ.^۲

فقر کی حقیقت یہ ہے کہ تو اپنی جیسی (محتاج) ہستی کا محتاج نہ ہو۔

علامہ محمد بشیر السہوانی نے ”استغاثۃ المخلوق بالمخلوق کاستغاثۃ المسجون
بالمسجون“ شیخ ابو عبد اللہ القرشی کا قول نقل کیا ہے اور ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کا قول لکھا ہے:
اِسْتِغَاثَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْمَخْلُوقِ كَاِسْتِغَاثَةِ الْغَرِيقِ بِالْغَرِيقِ.^۳
مخلوق کا مخلوق سے مدد طلب کرنا ایسا ہے جیسے ڈوب مرنے والے کا ڈوب مرنے
والے سے مدد طلب کرنا۔

خلاصہ: کتاب و سنت کے بعد اکابر اُمت فقہاء اسلام و اولیاء عظام رحمہم اللہ کے اقوال و
ارشادات سے یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آگئی کہ دعا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے،
ذات پاک رب العزت کے سوا کسی غیر اللہ سے ما فوق الاسباب طور پر دعا و استعانت اور
استغاثہ و استعاذہ ضلالت و حماقت ہے اور کفر و شرک۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطاء فرمائے۔ آمین

۱۔ حضرت بایزید بسطامی اکابر و اعظم مشائخ اُمت سے ہیں۔ حضرت مخدوم علی ہجویری رحمہ اللہ (متوفی ۷۶۵ھ) نے
”کشف المحجوب“ میں آپکو صوفیہ کے ایک سلسلہ جن طیفور یہ کا بانی لکھا ہے۔ اصل میں نام آپکا طیفور ہے۔ (متوفی ۱۶۱ھ)
۲۔ ”روح المعانی“ تفسیر آیت الویلہ۔ ۳۔ ”فتوح الغیب“ مقالہ ۷۵۔ ۴۔ ”صیلة الانسان“ ص ۱۵۳۔

وسیلہ

”وسیلہ“ کے معنی ہیں ذریعہ تقرب۔ (المجد)
 ”لغات القرآن“ میں ہے: خطیب اور رازی (رحمہما اللہ) کے نزدیک ”وسیلہ“ کا معنی ہے: قرب کا ذریعہ، قریب کر دینے والا۔
 امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”الوسیلہ“ کے معنی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے کے ہیں۔ قرآن میں ہے:
 ”وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.“ ”اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو۔“
 درحقیقت ”توسل الی اللہ“ علم و عبادت اور مکارم شریعت کی بجا آوری سے طریق الہی کی محافظت کرنے کا نام ہے۔ اور یہ معنی تقرب الی اللہ کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے والے کو ”واسل“ کہا جاتا ہے۔^۱

جمع حضرات مفسرین نے آیت کریمہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ میں وسیلہ سے طاعت و عبادت مراد لی ہے۔
 مثلاً خاتمہ المفسرین عمدۃ المحققین علامہ ابوالفضل شہاب الدین السید محمود آلوسی البغدادی المتوفی ۱۲۷۰ھ اپنی شہرہ آفاق تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں:

(الوسیلۃ) ہی فعلیہ بمعنی ما یتوسل بہ یتقرب الی اللہ عز وجل من فعل الطاعات و ترک المعاصی۔^۲

یعنی وسیلہ فصیلہ کے وزن پر ہے، اس کے معنی ہیں طاعات (فرمانبرداری) کر کے اور گناہوں (نافرمانی) کو چھوڑ کر اللہ عز وجل کا قرب حاصل کرنا۔

۱۔ توسل بالأعمال والطاعات: قرآن و حدیث میں طاعات و عبادات، اعمال صالحہ اور ترک معاصی ہی کو قرب الہی کا

ذریعہ و وسیلہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

۱۔ ”لغات القرآن“ جلد ششم، لفظ ”الوسیلہ“۔ ۲۔ ”مفردات القرآن“ لفظ ”الوسیلہ“۔

۳۔ ”روح المعانی“ مطبوعہ مصر جلد ۶ ص ۱۲۴ تفسیر آیت الوسیلہ۔

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا.

(پارہ ۲۲۔ سورۃ سہاء، رکوع ۵)

اور تمہارے اموال و اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے (یہ ایمان و عمل صالح ذریعہ قرب ہیں)

تو ایمان اور عمل صالح ہی اصل اور صحیح وسیلہ ہیں، جن کے ذریعہ انسان اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں غار کے اندر تین اشخاص کے مجبوس و مقید ہو جانے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا عمل صالح پیش کر کے بارگاہِ خداوندی میں نجات کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش کی وجہ سے غار کے منہ پر گری ہوئی چٹان کو ہٹا دیا اور ان کو مصیبت سے نجات بخشی۔^۱

یہ وسیلہ بالا اعمال و الطاعات ہے۔ اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔

۲۔ تو سئل باسماء الحسنی: دوسرا وسیلہ باسماء الحسنی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا.

(پارہ ۹۔ اعراف، ع ۲۳)

اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں پس اس کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔

۲. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ.

(پارہ ۱۵۔ بنی اسرائیل، ع ۱۲)

اے پیغمبر! کہہ دیجئے تم (خدا کو) اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو، یہ سب اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔

اللہ رب العزت کی ذات اور ہستی میں کسی صاحبِ اسماء و صفاتِ باری تعالیٰ: عقل و ہوش کو شک و شبہ نہیں۔ اگر ہم خود ہیں، اس کی

مخلوق ہے تو پھر خالق ہے اور ضرور ہے۔ مگر وہ ہستی کیسی ہے؟ اس کی ذات کی کنہ و حقیقت کیا ہے؟ اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ عقل انسانی اس کے ادراک سے عاجز و در ماندہ ہے۔

شیخ اکبر نے ذات پاک رب العزت کے متعلق کیا خوب لکھا ہے:

۱ "مشکوٰۃ الصالح" باب البر والصلة.

ایسی باکمال ذات موجود ہے جو ہمارے احاطہ علم و مشاہدہ سے وراء الراء ہے۔
بس ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ اسے جان نہیں سکتے۔

عرفان ذات کا واحد ذریعہ صفات الہی ہیں:

عرفان و وجدان کی دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا خود ذات یا اس کی صفات۔ چونکہ یہاں مشاہدہ ذات کا کوئی امکان نہیں، کوئی اور اس ذات پاک کا کیا نظارہ کرے گا جب انہوں نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست رَبِّ ارِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ یعنی ”اے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار دکھلا دیجئے کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں“ کے جواب میں صاف فرمادیا ”لَنْ تَرَانِي“ یعنی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تو اب ذات پاک باری تعالیٰ کے تعارف و عرفان کی صرف دوسری صورت باقی رہ جاتی ہے یعنی صفات باری تعالیٰ، چنانچہ قرآن کریم میں جگہ جگہ بار بار اسما و صفات الہی کا ذکر و بیان ہے، تاکہ طالب حق اس راستے اور واسطے سے معرفت الہی کا گوہر مقصود حاصل کر سکے، ورنہ اس ذات پاک کا نہ تو ادراک کیا جاسکتا ہے نہ اسے کسی چیز پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد فرمایا:

۱. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝

(انعام، ۱۳۷)

اس کو نظریں نہیں پاسکتیں، اور وہ سب نگاہوں کو پاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔

۲. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

(شوری، ۲۵)

کوئی چیز بھی اس کی مانند نہیں (مگر) وہی سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

سنت رسول ﷺ: کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ سے بھی اسما و صفات الہی کے ساتھ دعا و استعانت کی تعلیم ثابت ہے۔

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ ایسا نہیں جو ہر دن علی الصبح اور ہر رات سر شام تین بار کہے:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

۱ ”ترجمان السنۃ“ جلد اول حاشیہ حدیث نمبر ۱۳۔ ۲ پارہ ۹۰۔ اعراف، رکوع ۱۷۔

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

اللہ کے نام کے ساتھ (مدد و تحفظ طلب کرتا ہوں) جس کے نام (کی برکت) سے زمین و آسمان کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی اور وہ خدا خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔

اور پھر اسے کوئی چیز تکلیف دے۔ اسے ترمذی، ابن ماجہ اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص شام کو یہ کلمات کہے، صبح تک اس پر کوئی مصیبت اچانک نہیں پڑے گی اور جو کوئی صبح کو ان کلمات کو کہے تو شام تک اسے کوئی ابتلا اچانک (حادثہ) پیش نہیں آئے گا۔

۲۔ صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ اور صحیح مسلم میں حضرت براء رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے لگتے تو اپنا (دایاں) ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے پھر فرماتے:

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَى.

اے اللہ! میں تیرے نام کے ساتھ مرتا (سوتا) ہوں اور زندہ ہوتا ہوں (یعنی جاگتا ہوں)۔

اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ.^۲

تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا (یعنی نیند کے بعد بیدار کیا) اور (قیامت میں) زندہ ہو کر اسی کی طرف رجوع ہونا ہے۔

اسم الہی سے استعانت جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے اور آپ نے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں اسماء الہی کے ساتھ دعا و سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویب سے بھی ثابت ہے۔

۳۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے کہا:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْمَنَّانُ بَدِيعُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ أَسْأَلُكَ.

۱۔ "مکلوۃ الصالح" باب ما یقول عند الصبح والساء والنام۔ ۲۔ ایضاً۔

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وسیلہ سے کہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مہربان و رحیم بے حد محسن، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے عظمت و بزرگی اور احسان و بخشش والے، اے زندہ اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جب اسے اس کے عظیم نام کے ساتھ پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے اور جب اس سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا فرماتا ہے۔

اسے ترمذی، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔^۱

متدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے۔ (جلد اول ص ۳۰۵ کتاب الدعاء)

۴. عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِنِّي أَشْهَدُ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ
الضَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ سَأَلَ اللَّهُ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ
وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أُجَابَ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانٍ.^۲

حضرت بريدة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یکتا ہے، بے نیاز ہے، جو نہ کسی کا باپ ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیر۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے، اور جب اس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو ضرور جواب دیتا ہے۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

۱ "مکلوۃ المصاحح" کتاب اسماء اللہ تعالیٰ۔

۲ "بلوغ المرام" باب الذکر والدعاء، "مکلوۃ المصاحح" کتاب اسماء اللہ تعالیٰ۔ فصل ثانی میں یہ روایت ترمذی اور ابوداؤد سے اور فصل ثالث میں رزین سے منقول ہے۔

متدرک حاکم میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے ساتھ اس مضمون کی چار احادیث ہیں۔^۱

۵۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (حضرت) ذوالنون (یونس علیہ السلام) نے جب اپنے پروردگار کو مچھلی کے پیٹ میں پکارا تھا تو ان کی پکاریوں تھی:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بیشک میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔

کوئی مسلمان کسی حاجت میں ان کلمات سے نہیں پکارتا مگر اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ (رواہ احمد والترمذی)^۲

متدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے۔ (جلد اول ص ۵۰۵، کتاب الدعاء)

توسل بکلمات اللہ: اسماء الہی کے بعد کلمات اللہ کے ساتھ دعا بھی مسنون ہے۔

۶۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:

جو کہیں اترے (یا ٹھہرے) اور کہے:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

میں اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

تو اسے کوئی چیز نقصان اور (تکلیف) نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ اس مقام سے روانہ ہو جائے۔ صحیح مسلم^۳، مؤطا مالک^۴ میں بھی یہ روایت ہے۔

۷۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: رات مجھے بچھونے ڈس لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تو شام کو کہہ لیتا: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. تو تجھے وہ تکلیف نہ پہنچاتا۔ (صحیح مسلم)^۵

۱۔ "متدرک حاکم" جلد اول ص ۵۰۴، کتاب الدعاء۔ ۲۔ "ترجمان السنن" جلد اول ص ۴۸۴،

"مکتوٰۃ الصالح" باب الدعوات فی الاوقات۔ ۳۔ ایضاً۔

توسل بذاتہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يُسْتَأَلُ لِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ. رواه ابو داؤد ("ترجمان السنۃ" جلد دوم حدیث نمبر ۶۵۰)

اللہ تعالیٰ کے روئے انور کے طفیل صرف جنت کی دعا کی جائے۔ (ابوداؤد)

۹۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ("بخاری" کتاب التوحید)

أَعُوذُ بِوَجْهِكَ مِنْ تِيرِي رُوَيْ (اقدس) کے واسطے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
تو یہ خود ذات پاک باری تعالیٰ کا وسیلہ و واسطہ دعاؤں میں محمود و مستحسن و مسنون ہے۔
شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری قدس سرہ العزیز کا قول ہے کہ:

الہی وسیلہ بتو ہم توئی، اگر کسے ترا بطلب یافت من خود طلب
از تو یافتم،

اے اللہ! تیری طرف وسیلہ بھی خود تیری ذات ہے، اگر کسی نے تجھے طلب (و جستجو) سے پایا ہے تو میں نے خود طلب (کی توفیق) بھی تجھ سے پائی ہے۔

(تفسیر حسینی تفسیر آیت وسیلہ از حسین بن علی واعظ کاشفی۔ مرتبہ ۱۸۹۷ء)

۵۔ توسل بصفاتہ: اللہ رب العزت کی صفات علم غیب و قدرت کے واسطہ سے دعاء مسنون ہے۔ حضرت دعا کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَي الْخَلْقِ أَخْبِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ
خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي.

نسائی ("مشکوٰۃ" باب جامع الدعاء)

خداوند! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بحق اپنے علم غیب اور بحق اپنی قدرت علی الخلق، مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو اور مجھے وفات دے جبکہ تیرے علم میں میری وفات میرے لیے بہتر ہو۔

۶۔ عزت و قدرت الہی کا واسطہ:

۱۱۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے ایسا درد تھا کہ میری ہلاکت کا باعث ہوتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہو:

أَعُوذُ بِعِزَّتِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ. (موطا امام مالک باب التعوذ)

یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کے ساتھ اس درد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں
پڑھ کر سات دفعہ اپنا دایاں ہاتھ اس درد والی جگہ پر پھیرو۔ میں نے یہی کہا تو اللہ تعالیٰ نے میرا
درد دور کر دیا۔ پھر میں ہمیشہ اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دیا کرتا تھا۔

کتاب اللہ اور مسنون و ماثورہ دعاؤں میں براہ راست اللہ تعالیٰ
سے دعا ہے۔ پھر حضرات صحابہ کرام حتیٰ کہ اہل بیت رسول حضرات

اہمات المؤمنین اور خاندان رسول، آل نبی رضی اللہ عنہم اجمعین نے کبھی کسی دعا میں خود حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تک کو بطور وسیلہ نہیں پیش کیا۔ اسی طرح سلف صالحین اور ائمہ دین کے عمل
اور قول سے حضرات اولیاء و صلحاء کی ذات کے ساتھ توسل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ خاتم المفسرین
سید محمود آلوسی رحمہ اللہ کیا خوب لکھتے ہیں:

وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَدْعِيَةَ الْمَاثُورَةَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الطَّاهِرِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ
الْأئِمَّةِ لَيْسَ فِيهَا التَّوَسُّلُ بِالذَّاتِ الْمَكْرَمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَعَلَّ النَّصَّ
عَلَى خِلَافِهِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا
نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا
فَأَسْقِينَا فَيُسْقَوْنَ. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ التَّوَسُّلُ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ مِنْ
هَذِهِ الدَّارِ لَمَا عَدَلُوا إِلَى غَيْرِهِ بَلْ كَانُوا يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنَّا تَوَسَّلُ إِلَيْكَ نَبِينَا
فَأَسْقِينَا وَحَاشَاهُمْ أَنْ يَعْدِلُوا عَنِ التَّوَسُّلِ بِعَمِّ الْعَبَّاسِ وَهُمْ يَجِدُونَ أَدْنَى مَسَاحٍ
لِلذِّكْرِ، فَعَدُولُهُمْ هَذَا، مَعَ أَنَّهُمُ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ وَهُمْ أَعْلَمُ مِنَّا بِاللَّهِ تَعَالَى
وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِحَقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَمَا يَشْرَعُ مِنَ الدَّعَاءِ وَمَا لَا يَشْرَعُ.

إِنَّ هَذَا التَّوَسُّلَ مِنْ جِنْسِ الْأَسْتِشْفَاعِ وَهُوَ أَنْ يُطَلَّبَ مِنَ الشَّخْصِ الدَّعَاءُ
وَالشَّفَاعَةُ وَيَطَلَّبُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَقْبَلَ دُعَاءَهُ وَشَفَاعَتَهُ وَيُؤَيِّدَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبَّاسَ
كَانَ يَدْعُو وَهُمْ يُؤْمِنُونَ لِذُعَائِهِ حَتَّى سَقُوا.

۱ "روح المعانی" مطبوعہ معر جلد ۱ تفسیر آیت وسیلہ۔

تجھے علم ہے کہ اہل بیت طاہرین وغیرہم ائمہ کی ماثورہ دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مکرمہ سے کوئی توسل موجود نہیں بلکہ نص اس کے خلاف ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ، جب قحط پڑتا تھا تو حضرت عباسؓ کے ذریعے بارش کی دعا مانگتے تھے، اور کہا، الہی! ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے تھے، پس آپ بارش برساتے تھے اور اب ہم اپنے نبی کے عم محترم (حضرت عباسؓ) کو تیرے سامنے وسیلہ بناتے ہیں، پس ہم پر بارش برسا! چنانچہ وہ سیراب کر دیئے جاتے تھے۔ پس اگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پاک سے اس دنیا سے انتقال فرمانے کے بعد توسل جائز ہوتا تو صحابہ کرامؓ آپ کے سوا دوسرے کی طرف مائل نہ ہوتے، بلکہ یوں کہتے ”الہی ہم آپ کے سامنے اپنے نبی کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو ہم پر مینہ برسا“، اور وہ اس بات سے پاک ہیں کہ سید الناس کے وسیلے کو چھوڑ کر آپ کے چچا حضرت عباسؓ سے وسیلہ پکڑیں، اگر وہ اس کے لیے معمولی سا جواز بھی پالیتے۔ پس ان کا اس (توسل بالرسول) سے عدول (ایک بڑی بات ہے) خصوصاً جبکہ وہ سابقین اذلیلین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو اور حقوق الہی کو حقوق رسول کو اور دعا میں کیا مشروع ہے اور کیا غیر مشروع ان سب باتوں کو ہم سے بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔

یہ توسل شفاعت کی قسم ہے کہ کسی شخص سے دعا کرائی جائے اور خدا سے دعا کی جائے کہ اس (بزرگ) کی دعا و سفارش قبول فرمائے، اور یہ بات اس کی تائید کرتی ہے کہ حضرت عباسؓ دعا کرتے تھے اور وہ سب آپ کی دعا پر آمین کہتے تھے یہاں تک کہ بارش سے سیراب کر دیئے جاتے تھے۔

توسل دعائے: تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت علیؓ سے اور آپ کی وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل ان سے طلب دعا تھا، جس میں کسی کو اختلاف نہیں، آج بھی کسی زندہ و موجود بزرگ اور مقبول بارگاہ الہی ہستی سے انسان اپنے لیے اللہ سے دعا کرائے یہ بالاتفاق جائز ہے۔ رہا وفات یافتہ یا غائب سے طلب دعا یہ ناجائز اور بدعت ہے۔^۱

۱۔ ”روح المعانی“ مطبوعہ مصر جلد ۶ تفسیر آیت وسیلہ۔

فقہاءِ اسلام خصوصاً امام اعظم رحمہ اللہ کا مسلک و مذہب:

قَالَ ابُو حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَاهُ يَكْرَهُ اَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ اَوْ بِحَقِّ
اَنْبِيَاءِكَ اَوْ بِحَقِّ رُسُلِكَ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
اِذْ لَيْسَ لِاَحَدٍ عَلَيَّ اللّٰهِ حَقٌّ ۱

امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ کوئی شخص (خدا سے کہے کہ) میں تجھ
سے سوال کرتا ہوں بحق فلاں یا تیرے نبیوں کے حق سے یا تیرے رسولوں اور
بیت اللہ اور مشعر الحرام کے حق سے (اسی قسم کے حق کا واسطہ دے کر بندہ اللہ سے
دعا کرے) تو یہ مکروہ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں۔

”شرح المختار“، ”فتاویٰ ابن عبدالسلام“، ”در مختار“، جلد ۲ ص ۲۳۸، ”کنز الرقائق“
ص ۳۷۳، ”زیلعی“ علی الكنز ص ۳۷۳، ”بزازیہ بر عالمگیری“، سراجیہ ص ۷۲، ”شرح وقایہ“ جلد ۴
ص ۵۹، ”ہدایہ“ جلد ۴ ص ۴۷۳، ”عالمگیری“ ص ۷۱، وغیرہ معتبر کتب فقہ حنفی میں بھی یہی
مضمون ہے۔ (”ندائے حق“ ص ۱۰۶، از مولانا سید محمد حسین صاحب نیلوی)

”صیۃ الانسان“ ص ۱۸۲ پر ہے:

نَصَّ عَلَيَّ الْمَنْعَ مِنْهُ جَمْهُورُ اَهْلِ الْعِلْمِ.

جمہور اہل علم نے اس کی ممانعت پر مصرح کلام کیا ہے۔

اور ص ۲۰۱ پر تو یہ دعویٰ موجود ہے کہ احناف کے جمیع متون میں یہی تحریر ہے:

وَذَكَرَ الْعَلَّامِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْوِيرِ عَنِ التَّارِخَانِيَةِ عَنِ ابِي حَنِيْفَةَ اَنَّهُ لَا

يَنْبَغِي لِاَحَدٍ اَنْ يَدْعُوَ اللّٰهَ اِلَّا بِهٖ وَفِي جَمِيْعِ مَتُونِهِمْ اَنَّ قَوْلَ الدَّارِمِيِّ

الْمَتَوَسِّلِ بِحَقِّ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَبِحَقِّ الْبَيْتِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَكْرُوْهٌ

كَرَاهَتُهُ تَحْرِيْمٌ وَهِيَ كَالْحَرَامِ فِي الْعُقُوْبَةِ بِالنَّارِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعَلَّلُوْا

ذَلِكَ كُلُّهُمْ بِقَوْلِهِمْ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوْقِ عَلَيَّ الْخَالِقِ ۲

علانی نے ”شرح التنویر“ میں تارخانہ سے نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ سے روایت ہے کہ

کسی کو یہ مناسب نہیں کہ اللہ سے اللہ کے وسیلہ کے سوا دعا کرے، اور احناف کی متون کی جمیع

۱ ”شرح نقا کبر“ ص ۱۶۰، مطبوعہ مطبع مجیدی کانپور۔ ۲ ”صیۃ الانسان“ ص ۲۰۱۔

کتابوں میں ہے کہ دعا کرنے والے وسیلہ پیش کرنے والے کا قول بحق الانبیاء یا بحق اولیاء یا بحق بیت اللہ وغیرہ سب مکروہ ہے اور کراہت تحریمی ہے جو کہ امام محمدؒ کے نزدیک حرام کی طرح عذابِ جہنم کی مستوجب ہے۔ اور سب نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں۔

بعض حضرات نے تو اس کی کراہت (تحریمی) پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔

و کرہ الدعای بحق فلان اتفاقاً. ("معدن" حاشیہ کنز کتاب الکرمیہ)

بجاہ النبی و بحرمۃ النبی: ائمہ دین کے نزدیک یہ بھی مشروع و مسنون نہیں ہے۔ علامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں:

وَلَمْ یَعْهَدِ التَّوَسُّلَ بِالْجَاهِ وَالْحَرَمَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.....
وَجَعَلَ مِنَ الْأَقْسَامِ الْغَيْرِ الْمَشْرُوعِ قَوْلَ الْقَائِلِ اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ بِجَاهِ فَلَانٍ. فَانَّهُ
لَمْ يَرَوْا عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ دَعَا بِكَذَلِكَ.....

وَمَا يَذْكَرُ بَعْضُ الْعَامَّةِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا كَانَتْ لَكُمْ إِلَى
اللَّهِ تَعَالَى حَاجَةٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى بِجَاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. لَمْ يَرَوْهُ
أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا هُوَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ الْحَدِيثِ.

اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و حرمت سے وسیلہ پکڑنا کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں
وسیلے کی غیر مشروع قسموں میں ایک قسم قائل کا یہ قول بھی ہے کہ "الہی! میں تجھ سے بجاہ فلاں دعا
کرتا ہوں" بلا شک و شبہ بلف (صالحین) میں سے کسی ایک سے بھی ایسا منقول نہیں کہ انہوں
نے اس طرح دعا کی ہو،..... اور جو بعض عوام کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ
جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی حاجت ہو تو میرے جاہ کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کرو کہ
عند اللہ میرا بڑا رتبہ ہے" اسے کسی اہل علم نے روایت نہیں کیا اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں
اس کا نام و نشان ہے۔

خلاصہ: آج شرک کا دور دورہ ہے۔ لوگوں نے نام نہاد بے دین "پیروں" کو خدا بنا رکھا
ہے۔ بے جان درختوں اور جانوروں، قبرستان کے جتڑی، جالوں اور گھوڑوں
تک کی پوجا ہو رہی ہے۔ شرک کا گویا ایک طوفان و تلاطم ہے۔ بچوں تک کو اس طوفان نے اپنی

۱۔ "روح المعانی" ایضاً تفسیر آیت الوسیلۃ۔

لیٹ میں لے لیا ہے۔ حتیٰ کہ سرکاری مدارس کی نصابی کتابوں میں ”یا علی“ کے نعرے موجود و منقول ہیں۔ ہر طرف ایک اندھیر مچا ہے۔ کوئی سدھ بدھ نہیں۔ درمیانی واسطوں، وسیلوں میں اُلجھ کر دنیا اللہ رب العزت کی ذات پاک سے بہت دُور چلی گئی ہے۔ بالکل بے گانہ ہو چکی ہے۔ اب تو خدا سے کٹی ہوئی دنیا کو ایک بار پھر خدا سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ دعا میں، پکار میں، وسیلے واسطے چھوڑ کر، خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص و احسان کے ساتھ خالصۃً اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی ضرورت ہے۔ یہی کتاب و سنت کی تعلیم ہے اور یہی اللہ والوں کا عمل۔

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے درود شریف بہترین وسیلہ ہے: رحمت کی دعا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام

سے بہتر وسیلہ اور کون سا ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت و عبادت ہے۔ دعا میں پہلے حمد و ثنا ہو، پھر حضرت کی ذات پر درود و سلام ہو، پھر دعا کی جائے اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیا جائے تو سبحان اللہ، نور علی نور۔ یہ صورت کتاب و سنت اور تعاملِ اسلاف کے عین موافق ہے۔

۱۔ حضرت فضالہ بن عبید بنی شیبہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کی: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاِرْحَمْنِيْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی۔ جب تو نماز پڑھے فارغ ہو کر بیٹھ جا۔

فَاَحْمِدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ اَدْعُهٗ۔

اور خدا کی ایسی تعریف کر جو اس کی شان کے شایان ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر اللہ سے دعا کر۔

پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: اے نماز پڑھنے والے! اُدْعُ تُجِبُ۔ دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ ترمذی، ابوداؤد، نسائی (”مشکوٰۃ“ باب الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

تو قبولیت دعا کے لیے تو وسیلہ حمد و ثنا اور درود ہی بہترین وسیلہ ہے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نماز پڑھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور حضرت ابوبکر و عمر (رضی اللہ عنہما) آپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر بیٹھ گیا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سَلْ تَعْطَهُ سَلْ تَعْطَهُ.

مانگو دیئے جاؤ گے۔ سوال کرو، عطا کیے جاؤ گے۔ (ترمذی) ۱

۳۔ ایک اور روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، فرمایا: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيٌّ. (رواہ الترمذی) ۲
یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جائے گا، دعا قبول نہیں ہوگی، زمین آسمان کے درمیان معلق رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ ہے۔ درود دعا کے ساتھ ہوگا تو دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے گی۔

۴۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا:

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(رواہ الطبرانی فی الاوسط) ۳

ہر دعا رُکھی رہتی ہے یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے (تو مقبول ہوتی ہے)۔

انسان پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، پھر دعا مانگے، پھر آخر میں درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اول و آخر درود کو قبول فرمائیں گے، ان کے کرم سے یہ بعید ہے کہ درمیان میں دعا کو رد فرمادیں۔
خلاصہ: ذات و صفات و اسماء الہی کے ساتھ دعا میں توسل مسنون و مستحسن ہے۔ اعمالِ حسنہ و اطاعات و عبادات کے ساتھ بھی وسیلہ پکڑنا ثابت ہے۔ اس کے سوا وسیلہ بالذوات یعنی کسی وفات یافتہ بزرگ کو وسیلہ پیش کرنا شریعت میں ثابت نہیں۔ فقہاء اسلام کے نزدیک بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں! دعا میں بہترین وسیلہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم پر درود بھیجنا ہے۔ یہ مأمور و مسنون اور مستحسن و میمون ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علامہ سہوانی رحمہ اللہ کیا خوب لکھتے ہیں:

وَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوَسُّلَ الْمَشْرُوعَ عَلَيَّ هِيََابٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَلَا مَلْجَأَ إِلَى الْوُقُوعِ فِي مَضِيقِ الشَّبَهَاتِ. ۴

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشروع توسل کی کئی صورتوں سے تعلیم دی ہے لہذا (حرام و) مشتبہ صورتوں میں پڑ کر انسان کو پناہ نہیں مل سکتی۔

۱ "مکلوۃ المصاحح" باب الصلوۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ۲ ایضاً۔ ۳ "میلۃ الانسان"۔ ۴ ایضاً

⑧

شرک



”شرک“ شِرْكَةٌ اور اِشْرَاكٌ سے اسم ہے۔

امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

شِرْكَةٌ اور مَشَارِكَةٌ کے معنی دو ملکوں کے مل جانے کے ہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ کسی ایسی شے کا پایا جانا جو دو یا دو سے زائد کے لیے ہو خواہ وہ شے ”ذات“ ہو یا ”وصف“^۱ تو شرک کے معنی ہیں: حصے داری، ساجھا۔

اشراک (شرک کرنا) کے معنی ہیں کسی کو کسی کا ساجھی اور حصے دار بنانا۔

شریک کے معنی ہیں: ساجھی، حصے دار، اور مشرک کے معنی ہیں: شریک بنانے والا، شرک

کرنے والا۔

اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ظلم عظیم ہے،

شُرْكَ بِاللَّهِ: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. (لقمان ۲۴)

مشرک پر جنت حرام ہے، اس کا ابدی مقام جہنم ہے:

شرک ایسی بڑی لعنت ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ مشرک جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا، یہ

ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ارشاد فرمایا:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. (ماندہ، ۱۰ع)

پیشک جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا بالتحقیق اس پر اللہ نے بہشت حرام کر دی

اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے۔

۱۔ ”لغات القرآن“ جلد سوم ص ۲۶۳ معنی لفظ ”شُرْكَ“۔

مشرک کے اعمالِ صالحہ اکارت اور برباد جائیں گے

باغی مشرک کے اعمالِ صالحہ غارت و برباد جائیں گے، قیامت میں اس کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اٹھارہ حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کے نام ذکر فرما کر ارشاد فرمایا:

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ذَلِكُمْ هَدَى اللَّهُ يَهْدِي بِهٖ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ.

اور ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو (ہدایت دی) اور ہم نے ان کو پسند کیا، اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی، یہ ہے اللہ کی ہدایت، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

(انعام ع ۱۰)

اور اگر یہ شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کیا کرتے تھے سب اکارت ہو جاتے۔

یہ حضرات انبیاء و رسل، اللہ کے منتخب و مقبول بندے، ہدایت یافتہ بلکہ دنیا کے ہادی و رہنما..... بفرضِ محال..... اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو ان کے اعمالِ صالحہ، خدماتِ دینی، فریضہ نبوت کی ادائیگی کے سلسلہ میں جانگسل و روح فرسنا مشکلات و مصائب، یہ تمام کارِ خیر، اعمالِ حسنہ برباد ہو جاتے۔ معاذ اللہ۔

کتنی بڑی لعنت ہے شرک! کہ فرض کرو، اگر اس کا ارتکاب کرتے تو اس کی شامت و نحوست سے معاذ اللہ حضرات انبیاء و رسل تک کے اعمال کا بھی کوئی وزن نہ رہتا۔ اللہ اس ظلمِ عظیم و لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین

دوسری جگہ اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں:

۲. وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ

عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

(زمر، ع ۷۴)

بلاشبہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے (انبیاء علیہم السلام) کی طرف وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے عمل برباد ہو جائیں گے اور تو خسارہ میں رہے گا۔

تو جس طرح توحید کا حکم اجماعی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اپنی ہی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی طرح شرک کی بھی اجماعی ہے۔ تمام حضرات انبیاء علیہم السلام شرک کی نہیں و ممانعت پر متفق ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو بذریعہ وحی اس حقیقت سے باخبر کر دیا ہے کہ آخرت میں شرک کے اعمال ضائع جائیں گے۔ بفرض محال اگر کسی نبی سے بھی شرک کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے عمل بھی برباد ہوئے اور اسے قیامت کے دن حرمان و خسران کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ معاذ اللہ

بہر حال شرک بہت بڑی لعنت ہے اور اس کا وبال عظیم ہے۔ اتنی بڑی لعنت کہ گو حضرات انبیاء و رسل معصوم ہیں، ان سے شرک ایسے ظلم عظیم تو کیا عام گناہ کا بھی ارتکاب و صدور ممکن نہیں، لیکن بالفرض ان حضرات میں سے بھی کوئی شرک کا مرتکب ہو جائے تو اس سے بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور بارگاہ الہ میں ان کی کوئی قدر و منزلت باقی نہیں رہے گی، العیاذ باللہ اب ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ شرک کو انسانی زندگی میں کیسے راہ ملی۔

شرک کے عوامل و محرکات

شرک کی بنیاد و اساس بھی توحید و معرفت ربانی پر قائم ہے

اللہ رب العزت کی معرفت، انسانی فطرت ہے۔ انسان نے اپنے جبلی تقاضوں سے مجبور ہو کر اللہ کو جانا اور مانا ہے، اور اپنے قلب کی گہرائیوں میں اپنے خالق و رازق اور مالک کی محبت کے جذبات کو ہمیشہ مضطرب پایا ہے۔

جب ناخلف انسان نے فطرت سے بغاوت کی اور اللہ رب العزت کی بجائے اپنے دل کی بستی میں غیر اللہ کو بسالیا تو بھی فطرت کے تقاضے برابر اس کے دل میں موجود رہے۔ گوان میں وہ گرمی، حرارت وہ جوش و خروش اور وہ اشتعال و اضطراب نہ رہا۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے منکر و مشرک بندوں کو ان کے کفر و شرک کے باوجود نہیں بھلایا اسی طرح کافر و مشرک بندے بھی اپنے کفر و عصیان اور شرک و طغیان کے باوصف اپنے اللہ کو نہ بھلا سکے، اور اللہ کی معرفت و محبت کی چنگاری ان کے دل کی دنیا میں غیر اللہ کی طلب و عبادت کی

خاکستر کے اندر دبی رہی۔ گو وہ باغی و سرکش اور طاغی و مشرک بندگانِ خدا تعالیٰ غیر اللہ میں مشغول ہو گئے تاہم اللہ کے تصور سے اپنے قلوب و اذہان کو بیگانہ نہ کر سکے۔ نہ صرف اللہ کا تصور ان کے دل میں برابر موجود و متمکن رہا بلکہ اصنام و طواغیت کی عبادت کا محرک بھی یہی تصور رہا اور توحید باری تعالیٰ کے جذبات ہی سے غیر اللہ کی پرستش کی بنیاد پڑی۔

ذیل کی قرآنی تصریحات سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آ جائے گی کہ مشرک کے شرک میں بھی برابر معرفت و محبتِ ربانی کا جذبہ کار فرما رہا اور الٰہ واحد کی توحید و تعلق ہی سے تعدد و تعددِ آہلہ کو راہ ملی۔

۱. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ.

(پارہ ۱۱۔ یونس، رکوع ۲۴)

اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں نہ نفع اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔

تو غیر اللہ کی عبادت کا منشاء اور سبب، شفاعت عند اللہ کا زعم و خیال ہے کہ وہ معبود ہستی چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب و مقبول شخصیت ہے، ہم اس کی پرستش محض اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بارگاہِ الہی میں ہماری سفارش کر کے ہماری نجات کا موجب ہوگی، یا دنیا میں ہماری حاجتیں پوری اور مشکلات حل کرادے گی۔

امام الفسریٰ نے فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

أَنَّ مَتَى مَاتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ كَبِيرٌ يَعْتَقِدُونَ فِيهِ أَنَّهُ مُجَابِ الدَّعْوَةِ وَمَقْبُولِ الشَّفَاعَةِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى اتَّخَذُوا صِنْمًا عَلَى صُورَتِهِ يَعْبُدُونَهُ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّ ذَلِكَ الْإِنْسَانَ يَكُونُ شَفِيعًا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ فِي قَوْلِهِ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. جب ان میں سے کوئی عظیم شخص وفات پا جاتا جس کے متعلق ان کا اعتقاد ہوتا کہ عند اللہ وہ مستجاب الدعوات و مقبول الشفاعت ہے تو اس کی شکل و صورت پر بت گڑ لیتے اور اس خیال سے اس بت کی عبادت شروع کر دیتے کہ وہ عظیم بزرگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے

۱. تفسیر کبیر ج ۲ ص ۱۱۲، ۱۱۳، تفسیر آیت قُلْ فَلِمَ تَدْعُوا لِلَّهِ مَا لَا تَدْعُوا لَكُمْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

اپنے قول ہولاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ مِیْنِ اِن كَے اسی مقولہ کی خبر دی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے:

۲. وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

(پارہ ۱۶- مریم، رکوع ۵)

اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ ان کے لیے وہ (عند اللہ) باعثِ عزت ہوں، ہرگز نہیں۔ (بلکہ) وہ تو ان کی عبادت ہی کا انکار کریں گے اور (اُلٹا) ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

تو غیر اللہ کو الہ و معبود بنانے کا باعث محض یہ زعمِ باطل ہے کہ وہ معبود چونکہ مقرب بارگاہِ الہی ہیں، ہم ان کی پوجا کریں گے تو وہ ہم سے خوش ہو کر عند اللہ ہماری عزت و نجات کا سبب بن جائیں گے۔

حالانکہ وہ معبودانِ عابدین کی عبادت ہی سے برأت و انکار کریں گے اور قیامت کے دن اُلٹا ان کے مقابل و مخالف ہو جائیں گے۔

تیسرا ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ ہو:

۳. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰی ط

(پارہ ۲۳- رکوع اول زمر)

اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اور شرکاء تجویز کر رکھے ہیں (کہتے ہیں) ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کے قریب کر دیں۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ظاہر یہ ہے کہ:

الاولیاء عبارة عن كل معبود باطل كالملائكة وعيسى عليه السلام والاصنام.

اولیاء سے مراد ہر باطل معبود ہے، جیسے فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام اور بت (وغیرہ)

تو ان ملائکہ اللہ یا حضرات انبیاء و اولیاء اللہ یا ان کے بتوں، مقبروں، وغیرہ کی عبادت کا

سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کے مقبول و مقرب بندے ہمیں بھی خدا کے قریب کر دیں گے، ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔

۱۔ تفسیر "روح المعانی" ج ۲۳ ص ۲۳۵، تفسیر آیت وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ.

۴۔ اُمم سابقہ کی بستیوں کی تباہی و ہلاکت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں:
فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً.

(پارہ ۲۶-۱ احقاف، رکوع آخر)

سو خدا کے سوا جن لوگوں کو انہوں نے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟

خلاصہ: قرآن کریم کی ان تصریحات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف مشرکین مکہ بلکہ سابقہ مشرک اقوام و امم نے بھی مِنْ دُونِ اللَّهِ اوثان و اصنام، اولیاء و صلحاء جن جن کی بھی عبادت کی محض اللہ تعالیٰ سے قلبی تعلق اور فطری تقاضا کے تحت کی۔ ان غیر اللہ کی پرستش اور بندگی سے ان کا مقصد و مطلب صرف یہ تھا کہ یہ اللہ کے محبوب و مقبول بندے ہیں، ہم ان کی پوجا پاٹ کریں گے تو یہ خوش ہو کر بارگاہِ الہی میں ہماری سفارش کریں گے، ہمیں درجہ و مرتبہ میں خدا کے قریب و نزدیک کر دیں گے، اور آخرت میں بھی بارگاہِ رب العزت میں ہماری عزت و سرخروئی اور نجات کا موجب ہوں گے۔

محض حصول قرب و تقرب الہی کا جذبہ و داعیہ اور عند اللہ عزت و قبولیت اور بلندی مرتبت کی طلب، تڑپ سے مغلوب و متاثر ہو کر مشرکین نے شرک کا ارتکاب کیا، اور غیر اللہ کی بندگی میں مبتلا ہوئے۔

معبودانِ باطل کا خدائے واحد سے تعلق

بندے نے اللہ سے اپنے فطری تعلق، اور جذبہ توحید و معرفت ربانی کے تقاضوں ہی کی بناء پر اس باطل معبود کی پرستش شروع کر دی، جس کا اسے ذات پاک رب العزت سے کوئی ربط و تعلق یا رشتہ و علاقہ نظر آیا۔

۱۔ نسبی تعلق: چنانچہ مشرکین نے بعض معبودوں کی پرستش اس لیے کی کہ وہ اپنے زعمِ باطل میں خدا تعالیٰ سے ان کا صلیبی تعلق سمجھتے تھے اور اپنی دانست میں انہیں خدا کے بیٹے یا بیٹیاں قرار دیتے تھے۔

مثلاً مشرکین مکہ بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور وہ انہیں خدا سے ان کے صلیبی تعلق کی بناء پر پوجتے تھے۔

شرک بالاصنام: لغات القرآن میں ہے:

”مشرکین اپنے دیوتاؤں کے نام زیادہ تر مؤنث رکھتے تھے، چنانچہ لات، عززی اور منات تینوں مؤنث ہیں۔ وہ ان کو العیاذ باللہ خدائے قدوس کی بیٹیاں سمجھ کر پوجتے تھے۔“

(جلد چہارم، ص ۲۹۲)

خود کتاب اللہ قرآن کریم میں ہے:

(پارہ ۲۷۔ سورہ نجم، رکوع اول)

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝

بھلا تم نے لات اور عززی اور تیسرے منات کے حال میں کچھ غور کیا؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟

تو مشرکین مکہ لات و منات اور عززی کو ”خدا کی بیٹیاں“ ہونے کی بناء پر خدا کے ہاں مقرب و مقبول اور ان کی شفاعت کو عند اللہ منظور سمجھتے تھے۔

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں کفار قریش کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے ان کے سامنے پڑھا: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. جب آپ اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ پر پہنچے تو مشرکین کہے

وَقَالُوا قَدْ عَرَفْنَا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيَخْلُقُ وَلَكِنِ الْهَتَا هَذِهِ تَشْفَعُ لَنَا عِنْدَهُ ۙ

کہنے لگے بالیقین ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے اور وہی پیدا کرتا ہے اور وہی رزق دیتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے یہ معبود بارگاہ الہی میں ہماری سفارش کرتے ہیں۔

ان بتوں کے نام ہی اسماء الہی سے مشتق ہیں:

ات الامام الکبیر والعلامة الشہیر امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری (متوفی ۳۱۰ھ) اپنی شہرہ آفاق تفسیر اسمی ”جامع البیان فی تفسیر القرآن“ المعروف بہ ”تفسیر ابن جریر“ میں لکھتے ہیں:

اللات وهی من اللہ الحقت فیہ التافانست کما قبل عمرو للذکر وللانثی

۱۔ ”طبقات ابن سعد“ جلد اول صفحہ ۲۰۵۔

عمرة او كما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى عباسة فكذلك سمي
المشركون اولادهم باسماء الله تعالى ذكره وتقدست اسماءه فقالوا
من الله اللات من العزيز العزى وزعموا انهن بنات الله^۱
”اللات“ ”اللذ“ سے مشتق ہے۔ ”اللذ“ کے ساتھ ”تا“ ملا دی گئی تو اللذ کی مؤنث
”اللات“ بن گیا، جیسے ”عمرو“ کی مؤنث ”عمرة“ اور عباس کی عباسة، اسی طرح
مشرکین نے اپنے بتوں کے نام اسماء الہی پر رکھے تھے، چنانچہ ”اللذ“ سے
”اللات“ اور ”العزى“ سے ”العزى“ اور ان کا زعم (باطل) یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی
بیٹیاں ہیں۔

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن جریر کا یہی قول اپنی تفسیر میں نقل کر دیا ہے اور علامہ علاء الدین
بغدادی نے اپنی تفسیر ”خازن“ میں اور علامہ بغوی نے اپنی تفسیر ”معالم التنزیل“ میں یہی مضمون
رقم فرمایا ہے۔

شُرک بِالْمَلَائِكَةِ: اسی طرح بعض مشرکین مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے اور ان کی
پوجا کرتے تھے۔

۱. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ مُبْحَاهَ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝ (پارہ ۱۴- نحل، ع ۷۷)
اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں (حالانکہ) وہ پاک ہے اور اپنے لیے
جو چاہتے ہیں (یعنی بیٹے)۔

۲. اَفَاَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا

(پارہ ۱۵- بنی اسرائیل، ع ۴۷)

کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے اور خود (اپنے لیے)
فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے۔

شُرک بِالْجَنَاتِ: مشرکین اللہ تعالیٰ سے جنوں کا بھی نسبی رشتہ قائم کرتے تھے، ارشادِ
باری تعالیٰ ہے: وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا. (۲۳. الصّٰفّٰت)
اور انہوں نے خدا اور جنوں میں (بھی) رشتہ داری قائم کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ سے اسی نسبی تعلق
کی بناء پر مشرکین مکہ جنوں کی پرستش بھی کرتے تھے۔

۱ تفسیر ابن جریر، تفسیر آیت اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ.....

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. (پارہ ۷۔ انعام، رکوع ۱۲)

اور لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے حالانکہ ان کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض آدمی جنوں کی پناہ پکڑتے تھے۔ کسانِ رِجَالٍ مِنَ الْإِنْسِ يَتَوَدُّونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ (سورہ جن) غالباً عہدِ جاہلیت میں مشرکین جنوں کو غیب دان سمجھ کر ان سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے اور انہیں نفع نقصان پر قادر سمجھ کر ان سے ڈرتے تھے، ان سے پناہ مانگتے، مدد طلب کرتے تھے اور ان کی رضا اور خوشی کے لیے نذر نیاز پیش کرتے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ حالانکہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے اور مخلوق کی پرستش و عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبادت تو صرف خالق کا حق ہے۔

قرآن نے آکر مشرکین کے ان تصورات و عقائد کو مٹایا، مگر آہ! آج اہل اسلام، نام نہاد مسلمان، جنات سے ڈرتے ہیں۔ اپنی جہالت سے انہیں اپنے بیماروں خصوصاً بیمار عورتوں کے ”سر پر چڑھاتے“ ہیں۔ پیشہ ور بد معاش و بد قماش قسم کے لوگوں کو بلا کر اپنی معصوم و مظلوم بہو بیٹیوں کو ان کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ ان کو سر کے بالوں سے پکڑ کر ان کے ”جن نکالتے“ ہیں۔ ان جنات کو عالم الغیب سمجھ کر ان سے غیب کی خبریں پوچھی جاتی ہیں۔ پھر ان کو ”نکلنے“ اور چھوڑنے پر راضی کرنے کے لیے نذریں نیازیں پیش کی جاتی ہیں۔ مرغے بکرے وغیرہ کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ جہالت کی اس ساری مہم میں عورتوں کو بے عزت کیا جاتا ہے اور بسا اوقات اس کھیل میں ان بیچارہ بیویوں کی عصمتیں لوٹ لی جاتی ہیں۔

پھر تعجب اور تحیر کا مقام ہے کہ ”جن“ نہ کبھی کسی ہندو عورت کو پکڑتے ہیں نہ سکھ عورت کو۔ نہ کسی یہودی کی بہو بیٹی کے سر پر یہ سوار ہوئے ہیں نہ نصرانی کی بہن اور بیوی پر۔ ان ”شریف جنوں“ کو جب سوار ہوتے دیکھا گیا ہے غریب مسلم بہو بیٹیوں کے سر پر دیکھا گیا ہے۔ ”یہ جن“ مشرک، کافر اور بے دینوں سے تو ڈرتے ہیں، مگر کلمہ گو مسلمانوں پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ دین کی مظلومی اور جہالت و حماقت کی حد ہوگئی۔

شُرک بِالْأَنْبِیَاءِ: یہود و نصاریٰ کی ضلالت کی بنیاد بھی یہی تھی اور وہ حضرت عزیر و حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے صلبی تعلق کی بنا پر انہیں پوجتے تھے۔ قولہ تعالیٰ:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ

(پارہ ۱۰- توبہ، ع ۵)

اور (بعض) یہود نے کہا کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔

سکنی تعلق: بعض مشرکین نے بعض معبودانِ باطل کی پرستش اس زعم پر کی ہے کہ ان میں خدا رہتا ہے، خدا ان کے اندر بستا ہے۔ مثلاً مشرکین ہند اپنے معبود بتوں کو خدا کا مسکن یا مظہر خیال کرتے تھے، انہیں خدا کا اوتار کہتے تھے، ان کا زعم باطل یہ تھا کہ اللہ ان دیوی دیوتاؤں میں حلول کر گیا ہے۔

عیسائیوں کے ایک گروہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیا ہے یعنی ان میں داخل ہو گیا ہے۔ جس سے دونوں میں وحدت و اتحاد پیدا ہو گیا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ اب عین خدا ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس فرقے کو کافر فرمایا۔ فرمایا: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. (۶- مائدہ، ع ۱۰)

فتنہ حلول و اتحاد: حضرت سیدنا محمدؐ کی امت دعوت میں بھی بعض ضال و مضل بلکہ ملحد و بے دین فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے نہ صرف بعض مشرکین عرب و ہند کی طرح اپنے معبودانِ باطل کو ذات باری تعالیٰ کا مسکن و مظہر جانا، بلکہ بعض عیسائیوں کی طرح عقیدہ حلول و اتحاد کے بھی قائل ہوئے۔

بعض متصوف یعنی مدعیانِ تصوف کا مذہب یہ ہے کہ انسان جب کثرتِ عبادت سے اللہ تعالیٰ کا حبیب و محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر لیتے ہیں (معاذ اللہ)۔ اب اس شخص کا وجود جدا نہیں رہتا۔ اب خالق و مخلوق اور عابد و معبود میں کوئی تغایر اور فرق نہیں رہتا۔ اور بندہ اس مقام پر شریعت کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ حلال و حرام اور جمیع شرعی احکام کا مکلف نہیں رہتا۔ اس سے اوامرو نواہی ساقط ہو جاتے ہیں۔ عابد و معبود، رب اور مرئوب میں دوئی و غیریت مٹ جاتی ہے۔ اب دونوں ایک ہیں۔ جب مکمل وحدت ہے تو عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

فتنہ وحدت الوجود: عوام کو گمراہ و مرعوب کرنے کے لیے اس الحاد و ضلالت کو ایک مسئلہ کی شکل دے دی گئی ہے اور اسے مسئلہ ”وحدت الوجود“

۱۔ نام نہاد ”تصوف“ کے اس مردود سلسلہ حلویہ کا بانی ابو حلمان دمشقی ہے۔ (”تصوف اسلام“ ص ۵۳)

سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ عجمی خرافات ”تصوف“ کے نام سے ساتویں صدی ہجری میں اسلام کے اندر داخل ہوئیں اور شریعت کی حد تک تو بلاشک و شبہ اس قسم کی خرافات زندقہ والحاد ہیں، چنانچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وحدت وجود پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بَطْلُ قَوْلِ أَهْلِ الْإِلْحَادِ الْقَائِلِينَ بِوَحْدَةِ الْوُجُودِ. (تفسیر سورہ فاتحہ)

ان ملحدین کا قول باطل ہوا جو وحدت الوجود کے قائل ہیں۔

مگر صرف شریعت میں یہ حلول و وحدت کا فلسفہ الحاد نہیں، صحیح تصوف میں بھی اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔

یہ اکابر اہل تصوف کے نزدیک بھی مردود ہے۔
شریعت سے کھلی بغاوت: ”وحدت الوجود“ کی تان جا کر ”اباحیت“ پر ٹوٹی

ہے۔ غایت محبت اور کثرت عبادت سے بندہ خدا کا محل و ظرف ہی نہیں بلکہ ”محلول“ بن جاتا ہے۔ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر لیتے ہیں۔ پھر اتحاد و وحدت کے بعد عبادت کا کیا سوال؟ عبادت تو عبد، معبود کی کرتا ہے۔ جب بندہ عین خدا بن گیا، عبد خود معبود بن گیا، تو اب بندہ مکلف بالشریعت نہیں رہتا۔ اب اوامر و نواہی اس سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ!

درحقیقت یہ وحدت الوجود، حل و حلول اور اباحیت و بغاوت کے فلسفے انسان اسی وقت گھڑ سکتا ہے جب شریعت سے آزاد ہو جائے۔ شریعت کی حدود کے اندر رہ کر انسان اس قسم کی ملحدانہ خرافات کہاں بک سکتا ہے؟

اکابر و عمائد تصوف کی طرف سے ان فتنوں کا سدباب:

اہل شریعت حضرات علماء کرام نے جہاں الحاد کے قلع قمع اور اس خرافات کی بیخ کنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی وہاں شکر ہے کہ اس فتنہ کے سر اٹھاتے ہی اکابر و اعظم اصحاب تصوف نے بھی اس کی سرکوبی کی۔

۱۔ امام غزالی رحمہ اللہ اپنی کتاب ”الفرقہ بین الاسلام والزندقہ“ میں رقمطراز ہیں:

۱۔ ”التفسیر التیم لابن التیم“ امام ابن تیمیہ کے تلمیذ اور ان کے جانشین ہیں۔ بڑے نامور امام ہیں۔
۲۔ مشہور و معروف امام ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ، متوفی ۷۵۰ھ۔

وَمِنْ جِنْسِ ذَلِكَ مَا يُدْعِيهِ بَعْضُ مَنْ يَدْعَى التَّصَوُّفَ أَنَّهُ بَلَغَ حَالَهُ بَيْنَهُ
وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى اسْقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةَ وَحَلَّ لَهُ شُرْبُ الْمُسْكَرِ وَالْمَعَاصِي
فَهَذَا مِمَّا لَا اشْكُ فِي وَجُوبِ قَتْلِهِ إِذْ ضَرَرَهُ فِي الدِّينِ أَعْظَمًا
ازیں قسم بعض مدعیان تصوف کا اذعا (باطل) ہے کہ وہ عند اللہ ایسی حالت کو پہنچ گیا
ہے کہ اس سے نماز ساقط ہوگئی اور اسے شراب نوشی وغیرہ گناہ حلال ہو گئے، یہ ایسی
صورت ہے کہ میں اس کے قائل کے قتل کے وجوب میں کوئی شک نہیں کرتا جبکہ
اس کا دینی نقصان عظیم ہے۔

۲۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ طریقت و تصوف کے مسلمہ امام ہی نہیں بلکہ
ایک مستقل سلسلہ سہروردیہ کے بانی بھی ہیں۔ آپ قدیم اکابر صوفیہ میں سے ہیں۔ حضرت شیخ
عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے مرید خاص اور حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ، حضرت
شیخ حمید الدین ناگوری رحمہ اللہ وغیرہم کے مرشد ہیں۔ آپ کا زمانہ ۵۳۹ھ تا ۶۳۲ھ ہے۔
آپ ابن العربی کے ہم عصر ہیں۔ ان کے وقت میں یہ حلول و اتحاد، وحدت الوجود اور اباحت
وغیرہ کا فتنہ شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ بانی سلسلہ سہروردیہ رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”عوارف
المعارف“ میں اس فتنہ کو الحاد و زندقہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

اہل فتنہ کا ایک گروہ ملامتیہ کہلاتا ہے۔ یہ اہل اباحت کی راہ چلتے ہیں اور ان کا زعم
یہ ہوتا ہے کہ ان کے ضماں خدا کی جانب خالص اور راجع ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں
کہ یہی مقصود میں کامیابی ہے۔

والا یرتسام بمراسم الشریعة رتبة العوام.... وھذا هو عین الالحاد
والزندقة.

اور شریعت کی پابندیاں عوام کے لیے ہیں..... اور یہ عین الحاد اور زندقہ ہے۔
اگلے صفحہ پر قطر از ہیں:

اہل فتنہ میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو حلول کے قائل ہیں، اور یہ گمان باطل کرتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے..... اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس میں کوئی چیز
حلول کرے یا وہ کسی شے میں حلول کرے۔ (عوارف المعارف)

۱۔ ”شامی“ کتاب الجہاد، باب المرتد۔ ۲۔ ”عوارف المعارف“ جلد اول باب ۹۔

۳۔ حضرت سہروردی رحمہ اللہ سے اسبق و اقدم سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ (متوفی ۲۹۸ھ)..... جو پیر پیران، مرشد مرشدان و شیخ المشائخ ہیں..... سے ایک شخص نے

پوچھا کہ اہل معرفت ترک بر و تقویٰ کے مقام تک بھی پہنچ جاتے ہیں؟..... فرمایا:
 اِنَّ هٰذَا قَوْلٌ قَوْمٌ تَكَلَّمُوا بِاسْقَاطِ الْاَعْمَالِ وَهٰذَا عِنْدِي عَظِيْمَةٌ وَالَّذِي
 يَسْرِقُ وَيَزْنِيْ اَحْسَنُ حَالًا مِنَ الَّذِي يَقُوْلُ هٰذَا.

یہ تو ان لوگوں کا ہے جو ترک اعمال کے قائل ہیں۔ یہ میرے نزدیک بہت بڑی
 (بیباکی کی) بات ہے، اور جو چوری کرتا اور زنا کرتا ہے اس کا حال بھی ایسی بات
 کرنے والے سے بہتر ہے۔ (عوارف العارف جلد اول باب ۹)

یہ اس لیے کہ چور اور زانی تو کٹھنکار ہے، وہ چوری اور زنا کو گناہ سمجھتا ہے، اور یہ تو شریعت
 محمدیہ کا منہ چڑاتا ہے، یہ ٹھوڑے ایمان ہے۔

۴۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ (المتوفی ۴۵۶ھ) رقمطراز ہیں:

وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ فُلَانٌ لِلنَّاسِ بَعِيْنِهِ، أَوْ إِنَّ اللَّهَ يَحِلُّ
 فِي جِسْمٍ مِنْ أَجْسَامِ خَلْقِهِ أَوْ أَنَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا
 غَيْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ لَا يَخْتَلِفُ اثْنَانِ فِي تَكْفِيْرِهِ^۱.

جو شخص کسی معین انسان کے متعلق یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، یا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ
 اپنی مخلوق میں سے کسی جسم میں حلول کرتا ہے، یا یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بعد سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی اور نبی ہے تو اس کی تکفیر میں (آج تک) دو
 آدمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا۔

۵۔ اسی طرح امام ^۱مستکلمین علامہ سید شریف جرجانی رحمہ اللہ (متوفی ۸۱۶ھ) ”کفریہ عقائد“
 میں لکھتے ہیں:

حُلُوْلُهُ فِي بَعْضِ اشْخَاصِ النَّاسِ^۲.

(یہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ بعض انسانوں میں حلول کر گیا ہے۔)

یہ کفر تصوف کے پاکیزہ نام سے اسلام کے اندر داخل کیا گیا، حالانکہ صحیح تصوف تو شریعت کی

۱۔ ”کتاب الفصل“ باب الکلام فی من یکرہ من لا یکرہ۔

۲۔ ”شرح موافق“ ص ۷۲۹۔

انتہائی اطاعت و اتباع کا نام ہے۔ شریعت سے انحراف سولہ آنے الحاد ہے، اسے تصوف سے کیا تعلق؟

سید الاولیاء حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۵۵ھ) کی کثرت عبادات و ریاضات کا اندازہ ان روایات سے کیا جاسکتا ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔ پندرہ سال تک یہ معمول رہا کہ بعد عشاء پورا کلام مجید ختم فرماتے تھے۔

سالہا سال کی عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے بہت بڑا نور نظر آیا جو دیکھتے دیکھتے سارے اُفق پر چھا گیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ: اے عبدالقادر! میں تمہارا پروردگار ہوں، میں نے تمہارے لیے حرام کو حلال کر دیا۔ میں نے لاحول و لا قوۃ پڑھ کر کہا کہ ”دور ہو ملعون“ بس وہ نور تاریکی بن گیا اور اس میں سے آواز آئی: اے عبدالقادر! تم اپنے علم کی قوت سے مجھ سے بچ گئے ورنہ میں تمہارے مثل سترکالوں کو گمراہ کر چکا ہوں“ میں نے کہا: ملعون تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنے علم کی قوت سے بچ گئے، حالانکہ مجھے بچانے والی میری کوئی قوت نہیں، محض اللہ کا فضل و کرم ہے۔

تو اکابر حضرات صوفیہ کے نزدیک تو اتباع شریعت ہی عین حقیقت ہے اور بدرجہ غایت اتباع سنت ہی روح طریقت و معرفت! لیکن وہ جاہل و فریب خوردہ مدعیان تصوف، جنہیں صحیح تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، ترک سنت اسقاط شریعت بلکہ خلاف سنت اور استخفاف شریعت کو ”تصوف“ اور انتہائے محبت سمجھتے ہیں، غایت جہالت کو ”معرفت“ و حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اتحاد و وحدت اور وحدت الوجود کے فتنہ الحاد و القائے شیطانی کو فلسفہ اور مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

۳۔ عبدی و قربی تعلق: اللہ رب العزت کے ساتھ عبدی و قربی تعلق بھی فساد عقیدہ کا موجب بنا ہے۔

۵۔ شرک بالعباد: عموماً اللہ کے خاص بندوں اور مقبول و مقرب بزرگوں کو رب اور حضرات انبیاء و اولیاء اللہ کو خود الہ بنا دیا گیا اور خلق کثیر اس ضلالت و گمراہی کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بنی۔

۱۔ ”تصوف اسلام“ ص ۸۱، اسلامی تصوف پر مولانا عبدالماجد دریا بادی کی پاکیزہ تصنیف ہے۔ اکابر و مشائخ صوفیہ کے حالات اور ان کی تصانیف پر تبصرہ ہے۔

یہ فتنہ دوسرے تمام فتنوں سے بہت وسیع و ہمہ گیر اور زیادہ مضر و مہلک ہے اور انسانیت کی پوری تاریخ اس فتنہ سے مجروح و داغدار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک اکثر اقوام عالم اس فتنہ میں مبتلا ہوئیں۔ کیا یہود و نصاریٰ اور کیا ہندو، سکھ اور مسلمان! جہاں یہ فتنہ وسعت و ہمہ گیری کے اعتبار سے دوسرے سب فتنوں سے زیادہ اور اہم ہے وہاں اس لحاظ سے بہت زیادہ حیرت و عبرت اور حسرت و افسوس کا موجب ہے کہ اللہ کے جو محبوب و منتخب بندے شرک کی بیخ کنی اور توحید کی اشاعت کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور جنہوں نے ہر قیمت پر شرک کو مٹانے کی سعی مسلسل کی اور اپنی جان تک قربان کر کے دنیا کو توحید کا سبق دیا، آروں سے چر گئے، آگ کے شعلوں میں پھنک گئے، سولی پر چڑھ گئے، تلوار سے کٹ گئے، ان کے وجود پاک کی تکا بوٹی ہو گئی، ان کے لہو سے زمین لالہ زار بنی، مگر ان عظیم بندگانِ خدا نے اُف تک نہ کی، ہر حال میں ہر قیمت پر اپنا فرض ادا کیا اور خلقِ خدا کو شرک کی لعنت سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی، واحسرتا کہ اللہ کے بندوں نے خود انہی عظیم بندگانِ خدا کو خدا بنا دیا۔ خود ان حضرات انبیاء و صلحاء اور صدیقین و شہدا ہی کی ذات کو شرک کا ذریعہ بنا دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کو اور ان کی مبارک مزاروں اور خانقاہوں کو معبد و مسجد بنا لیا۔ ان کی قبروں کی چوما چاٹی ہونے لگی۔ مزاروں پر جبہ سائی ہونے لگی۔ سجدے بڑھنے لگے۔ چڑھاوے چڑھنے لگے۔

ان کی تصویریں چومی جانے لگیں۔ ان کی تمثالیں اور مورتیاں پوجنے لگیں۔ حتیٰ کہ ان کے نام پر بت اور صنم گھر، ڈھال کر لوگ ان کی عبادت کرنے لگے۔ جن نفوسِ قدسیہ کی حیاتِ طیبہ کا لمحہ لمحہ، جن کے وجودِ اطہر کا رُواں رُواں اور جن کے لہو پاک کا قطرہ قطرہ نشر و اشاعتِ توحید اور سدباب و استیصالِ شرک کے لیے وقف تھا، ان کی وفات کے بعد ان کی مزار پاک کا ذرہ ذرہ شرک و بدعت کا مرکز بن گیا اور ان کا ہر اثر و نشان توحید باری تعالیٰ کے لیے چیلنج کی شکل و صورت اختیار کر گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

اولیاء و صلحاء اولین: قدیم تر مفسر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ (متوفی ۳۱۰ھ) اپنی

سند کے ساتھ امام محمد بن قیس رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وڈ، سواع، یحوق، یغوث، اور سرنیک اولیاء اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بہت سے لوگ ان کے مقتدی و پیروکار تھے۔

فَلَمَّا مَاتُوا قَالَ اصْحَابُهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُقْتَدُونَ بِهِمْ لَوْ صَوَّرْنَا هُمْ كَانُوا

اشوق لنا الى العبادۃ اذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا وجاء اخرون
دب اليهم ابليس فقال انما كانوا يعبدونهم وهم يسقون لمطر
فعبدوهم!

جب یہ (اولیاء اللہ) وفات پا گئے تو ان کے مقتدیوں پیروؤں نے کہا: اگر ہم ان
کی شکلیں بنالیں، جب ہم ان شکلوں کو دیکھ کر ان کی یاد تازہ کر لیں گے تو عبادت
الہی میں بہت ذوق و شوق پیدا ہو جایا کرے گا، چنانچہ انہوں نے ان کے مجسمے بنا
ڈالے۔ جب یہ لوگ مر گئے اور نئی نسل آئی تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ
تمہارے اسلاف تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کے صدقے بارش سے
یراب ہوتے تھے، چنانچہ انہوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔

غور فرمائیے! مجسمہ سازی و بت گری کی ابتداء عبادت الہی کے جذبہ سے ہوئی اور یاد خدا
میں ذوق و شوق اور ولولہ و جوش پیدا کرنے کے لئے انہوں نے آدم علیہ السلام کے ان نیک
بیٹوں کے مجسمے یعنی بت بنا ڈالے۔ مال کا رجنہ کی پوجا ہو کر رہی۔

بت مقصود نہ تھے، بلکہ بت تو صرف اولیاء

وصلحاء کی عبادت کا قبلہ و ذریعہ تھے

مشہور و متداول تفاسیر وغیرہ میں اکابر مفسرین و علماء اعلام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا
ہے کہ بت پرست جو بتوں کی پرستش کرتے تھے اس سے مقصود بتوں کی پوجا نہیں تھی، بلکہ مقصود
اصلی ان حضرات انبیاء علیہم السلام یا حضرات اولیاء کرام و مقربین بارگاہ الہی کی عبادت و رضا طلبی
تھی جن کی شکل و صورت پر انہوں نے وہ مورتیاں بنا رکھی تھیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رحمہ
اللہ لکھتے ہیں:

وَأَمَّا يَعْبُدُونَهُمْ لِإِعْتِقَادِهِمْ أَنَّهَا تَمَائِيلُ الْكَوَاكِبِ أَوْ تَمَائِيلُ الْأَرْوَاحِ
السَّمَاوِيَةِ أَوْ تَمَائِيلِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ الَّذِينَ مَضَوْا وَيَكُونُ مَقْصُودُهُمْ

تفسیر ابن جریر، تفسیر آیت ولا تدرن وذا.... تفسیر ابن کثیر اور "البدایہ والنہایہ" جلد ۱ ص ۱۰۵، ۱۰۶ پر بھی یہی الفاظ
مرقوم ہیں۔

مِنْ عِبَادَتِهَا تَوْجِيهَ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ إِلَى تِلْكَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي جَعَلُوا هَذِهِ
الصُّورَ لَهَا^۱

اور مشرکین ان بتوں کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ستاروں یا ارواح
سادیہ یا گزشتہ حضرات انبیاء و صلحاء کی مورتیاں ہیں اور ان کی عبادت سے ان کا
اصل مقصود ان چیزوں کی عبادت ہے جن کی شکل و صورت پر انہوں نے وہ
مورتیاں بنا رکھی ہیں۔

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

۲. فَأَلْقَوْمُ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ فِيهَا أَنَّهَا طَلْسَمَاتٌ مَوْضُوعَةٌ عَلَى صُورِ
الْكُوكَبِ أَوْ أَنَّهَا تَمَائِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَكَانُوا يُعْظِمُونَهَا
عَلَى أَنْ تُعْظِمَهَا يُوجِبُ تَعْظِيمَ الْمَلَائِكَةِ وَأَوْلِيئِكَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ^۲
مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مورتیاں ستاروں کی شکلوں پر بنائی گئی ہیں یا یہ فرشتوں
اور گزشتہ حضرات انبیاء کی مورتیاں ہیں۔ وہ ان مورتیوں مجسموں کی تعظیم اس خیال
سے کرتے تھے کہ ان کی تعظیم حقیقت میں ان ملائکہ اور حضرات انبیاء سابقین کی
تعظیم ہے۔

اسی طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ لکھتے رقمطراز ہیں کہ:

۳. إِنَّ الشُّفَعَاءَ لَيْسَتْ الْأَصْنَامُ أَنْفُسُهَا بَلْ أَشْخَاصٌ مُقَرَّبُونَ هِيَ تَمَائِيلُهُمْ^۳
شفعاء سے بعینہ بت مراد نہیں بلکہ اس سے ان کی مراد وہ مقرب بندے ہیں جن
کے وہ مجسمے ہیں۔

۴۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بتوں کو صاف
”قبلہ“ تحریر فرماتے ہیں:

۱۔ ”تفسیر کبیر“ جلد ۷ ص ۲۳۰۔ ۲۔ ”تفسیر کبیر“ جلد ۶ ص ۲۶۱۔

۳۔ چنانچہ ہبل جو عرب کا مشہور بت تھا اور بیت اللہ میں نسب تھا یہ ہابیل شہید کے نام پر بنایا گیا تھا (”لیفٹ الباری“
شرح بخاری جلد ۴ کتاب المغازی باب غزوة أحد) اور ہندوؤں کا مشہور بت برہما حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے،
جنہیں ال کتاب ابراہام کہتے ہیں۔

۴۔ ”روح المعانی“ پارہ ۲۴، تفسیر آیت أم اتخذوا من دون الله شفعاء.

والمشركون ذهبوا إلى أن الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقرَّبوا إليه
فأعطاهم الله الألوهية.... فنحتوا على أسمائهم أحجاراً وجعلوها قبلة
عند توَّجهم إلى هؤُلاءِ.

مشرکین کا عقیدہ تھا کہ اگلے نیک لوگوں نے خدا کی خوب عبادت کی اور بارگاہِ الہی
میں مقرب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الٰہیت عطاء فرمادی.... پس مشرکین نے
ان بزرگوں کے ناموں پر پتھر (کے بت) تراش لیے۔ ان بزرگوں کی طرف توجہ
کرتے وقت وہ ان بتوں کو قبلہ بنا لیتے۔

خلاصہ: ان تصریحات و تفصیلات سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ مشرکین کے معبود
ذوی العقول صلحاء و اولیاء اللہ تھے۔ بد بخت افراد و قبائل بظاہر بتوں کی پوجا کرتے
بھی تھے تو پتھروں وغیرہ کے یہ صنم اور بت مقصود بالذات نہ تھے بلکہ ان عباد اللہ الصالحین کی
طرف متوجہ ہونے کا حیلہ و ذریعہ اور قبلہ تھے۔

مشرکین ان بتوں کے آگے شریکِ اعمال کرتے، ان کی پوجا پاٹ، چوما چائی کرتے تو محض
اس لیے کہ اس ذریعہ سے انہیں ان اولیاء و صلحاء کا تقرب حاصل ہو جائے گا، وہ ان سے خوش
اور راضی ہو جائیں گے اور ان کی بگڑی بن جائے گی۔

ورنہ دنیا میں ایسا احمق اور بے وقوف کوئی مشرک نہیں جو یہ سمجھے کہ یہی ہمارے ہاتھوں کے
گھڑے ہوئے بت ہمیں خدا تک پہنچادیں گے یا ہماری مشکل حل کر دیں گے۔

آج قبریں اور خانقاہیں اولیاء اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہیں:

بالکل اسی طرح آج کے نام نہاد مسلمان، حضرات اولیاء کی قبروں، خانقاہوں اور ان کے
بعض آثار و نشانات کی عبادت کرتے ہیں مگر اس سے مقصود قبر وغیرہ کی بالذات عبادت نہیں
ہوتی، مقصود صاحبِ قبر اس بزرگ کی تعظیم و عبادت ہوتی ہے۔ اسی کی رضا و خوشنودی کا حصول
مطلوب ہوتا ہے، گو بظاہر بوس و کنار سجدہ و طواف قبر کا ہوتا ہے اور منت منوتی جھنڈے، نشان،

۱۔ "حجۃ اللہ البالغہ" جلد اول، ص ۱۰۸، مطبوعہ جماعت اسلام پریس لاہور۔

مکان، پیپل، بڑ، جنڈ، جال اور گھوڑے وغیرہ کی مانی جاتی ہے۔ ورنہ ایسا احمق اور اندھا کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو مٹی چونے کی قبر اور مکان و نشان کو حاجت روا و مشکل کشا سمجھے یا یہ یقین کرے کہ پیپل، بڑ، جنڈ، جال یا جھنڈا اور گھوڑا انسان کو بچے دیتا ہے۔

پھر اولیاء و صلحاء کی عبادت مقصود نہ تھی ان کی عبادت قرب و وصلِ الہی کا ذریعہ تھی

بتوں کی عبادت سے مقصود اللہ کے عظیم بندوں، نبیوں اور ولیوں کی عبادت تھی۔ پھر ان اکابر کی عبادت بھی اصلاً مقصود نہیں تھی، یہ خود ذریعہ تھی بارگاہِ الہی میں قرب و وصل کا۔ ان کا زعم تھا کہ ان اعظم رجال کی ہم عبادت کریں گے تو یہ خوش ہو کر بارگاہِ الہی میں ہماری سفارش کریں گے۔ ان کے واسطے سے ہماری الہِ اعلیٰ خدائے واحد تک رسائی ہو جائے گی۔ ہمیں اس طرح اس ذات واجب الوجود کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔

قریباً تمام اکابر و اجلہ ائمہ تفسیر و علماء اعلام کی یہی تحقیق ہے۔

۱۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے:

أَنَّهُ كَانَ يَمُوتُ أَقْوَامٌ صَالِحُونَ فَكَانُوا يَتَّخِذُونَ تَمَائِيلَ عَلَى صُورِهِمْ
وَيَسْتَعْلُونَ بِتَعْظِيمِهَا وَغَرَضُهُمْ تَعْظِيمُ أَوْلِيَاكَ الْأَقْوَامِ الَّذِينَ مَاتُوا حَتَّى
يَكُونُوا شَافِعِينَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) ۱

نیک (بزرگ، اولیاء اللہ) لوگ مر جاتے تو لوگ ان کی شکل و صورت پر مورتیاں گھڑ لیتے اور ان کی تعظیم میں لگ جاتے اور اس سے ان کی غرض ان وفات پانے والے بزرگوں کی تعظیم ہوتی تاکہ وہ بزرگ عند اللہ ان کے سفارشی ہوں۔ ان کے اس قول (ما نعبدہم الا.....) سے ان کی یہی مراد ہے۔

۲۔ شہرہ آفاق محدث و فقیہ و فلسفی و متکلم اسلام سید شریف علی بن محمد الجرجانی (المتوفی ۸۱۶ھ) تحریر فرماتے ہیں:

بت پرست دو واجب الوجود الہوں کے قائل نہیں نہ وہ اپنے بتوں کو صفات الوہیت سے

۱۔ "تفسیر کبیر" جلد ۳۰، ص ۱۳۳، تفسیر آیت وَقَالُوا لَا تَدْرُونَ.....

متصف مانتے ہیں، گو وہ انہیں الہ کہتے ہیں۔

بَلْ اتَّخَذُوا عَلٰیٰ اَنْهٰۤا تَمٰثِیْلُ الْاَنْبِیَآءِ اَوِ الزُّهٰدِ اَوِ الْمَلَآئِكَةِ اَوِ الْكُوٰكِبِ
وَاسْتَفْلُوْا بِتَعْظِیْمِهَا عَلٰیٰ وَجْهِ الْعِبَادَةِ تَوْصُلًا بِهَا اِلٰی مَا هُوَ اِلٰه حَقِیْقَةً
بلکہ انہوں نے تو اس لیے بتوں کو الہ بنایا کہ وہ حضرات انبیاء یا تارک الدنیا
عبادت گزار بندوں یا فرشتوں یا ستاروں کی مورتیاں ہیں اور وہ ان کی عبادت
کے طور پر تعظیم کے اندر (اس لیے) مشغول ہو گئے تاکہ وہ اس سے الہ حقیقی تک
پہنچ سکیں۔

عہدِ آخر کے شہرہ آفاق مفسر محقق علامہ آلوسی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ:

ایک قول ہے کہ اصنام کی طرف شفاعت کی نسبت باعتبار السیئۃ ہے، یہ اس لیے کہ:
كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَضَعُوْهَا عَلٰی صُوْرِ رِجَالٍ صٰلِحِیْنَ ذُوی خَطَرٍ عِنْدَهُمْ
وَزَعَمُوْا اَنْهُمْ مَتٰی اسْتَفْلُوْا بِعِبَادَتِهَا نَاۤا اَوْلٰئِكَ الرِّجَالِ یَشْفَعُوْنَ لَهُمْ
جیسا کہ مشہور ہے انہوں نے اپنے عالی مقام و ذی قدر صلحاء کی صورت پر ان بتوں
کو بنا رکھا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوں
گے تو وہ نیک بزرگ بندے (اولیاء اللہ بارگاہ الہی میں) ان کی سفارش کریں گے۔

ابتلاء عظیم! کلمہ گو مسلمان کفار و مشرکین کے نقش قدم پر!

تفسیر کبیر میں ہے:

اَنْهُمْ وَضَعُوْا هٰذِهِ الْاَصْنَامَ وَالْاَوْثَانَ عَلٰی صُوْرِ اَنْبِیَآئِهِمْ وَاكْبَرَهُمْ
وَزَعَمُوْا اَنْهُمْ مَتٰی اسْتَفْلُوْا بِعِبَادَةِ هٰذِهِ التَّمٰثِیْلِ فَاِنَّ اَوْلٰئِكَ الْاَكْبَرِ
تَكُوْنُ شَفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَنَظِیْرُهُ فِیْ هٰذَا الزَّمٰنِ اسْتِغْثَالُ كَثِیْرٍ
مِّنَ الْخَلْقِ بِتَعْظِیْمِ قُبُوْرِ الْاَكْبَرِ عَلٰی اِعْتِقَادِ اَنْهُمْ اِذَا عَظُمُوْا قُبُوْرَهُمْ
فَاِنَّهُمْ یَكُوْنُوْنَ شَفَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

۱ "شرح مواقف" مطبوعہ ذکثور لکھنؤ، ص ۵۸۰۔

۲ "روح المعانی" جلد ۱۱، ص ۸۸، تفسیر آیت و یعبدون من دون اللہ (سورہ یونس)

۳ "تفسیر کبیر" ج ۱، ص ۶۰، ۵۹، تفسیر آیت وَیَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا یَضُرُّهُمْ وَلَا یَنْفَعُهُمْ....

انہوں نے یہ ست اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی شکل و صورت پر بنا رکھے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ جب وہ ان مورتیوں کی عبادت میں مشغول ہوں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بزرگ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اس کی مثال اس زمانے میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ بزرگوں کی قبروں کی تعظیم میں مشغول ہو گئے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ جب وہ ان بزرگوں کی قبروں کی تعظیم کریں گے تو وہ قبروں والے بزرگ عند اللہ ان کی سفارش کریں گے۔

امام کی بیان کردہ یہ حقیقت حال کتنی دردناک ہے کہ مشرکین عرب جس طرح دنیوی ضروریات اصلاح معاش، وسعت رزق وغیرہ حاجات یا نجاتِ آخرت کی عند اللہ سفارش کے لیے اپنے بزرگوں کی شکل و صورت پر گھرے ہوئے بتوں کے سامنے شرکیہ اعمال اور پوجا پاٹ کرتے تھے، کہ وہ بزرگ اور خاصانِ خدا جن کے یہ بت ہیں یا مورتیاں، ہم سے ان شرکیہ اعمال، اس تعظیم اور عبادت کی وجہ سے خوش اور رضامند ہو جائیں گے اور اپنے خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہماری مشکلات حل اور ضروریات پوری کرادیں گے، اسی طرح اس زمانے کے مدعیانِ اسلام اولیاء اللہ کی قبروں پر دنیوی حاجت روائی و مشکل کشائی یا نجاتِ اُخروی کے لیے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، قبروں کی چوما چائی کرتے ہیں، طواف و سجدہ کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نذریں، منتیں مانتے ہیں، آہ و فریاد کرتے ہیں، روتے اور گڑگڑاتے ہیں۔

پھر حضرت امام رحمہ اللہ کا زمانہ تو چھٹی صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں یہ تصور تھا کہ یہ اولیاء اللہ ہمارے ان شرکیہ اعمال سے راضی اور خوش ہو کر بارگاہِ الہی میں ہماری سفارش کریں گے اور اپنے اللہ سے ہمارا کام کرادیں گے، مگر آج تو اللہ کو سفارش کرنے یا اللہ سے کام کرادینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج تو اکثر و بیشتر یہی ایمان و ایقان ہے کہ سب کچھ صاحبِ قبر، حضرت صاحب کے اختیار میں ہے۔ مشکل کشائی یہ خود کریں گے۔ حاجت روا یہ خود ہیں۔ ایک جہنم کے ایندھن نے تو برملا یہاں تک کہہ دیا۔

اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟

لینا ہے ہمیں جو کچھ، لے لیں گے محمد سے!

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط

مشرکین سابقین اور موجودہ مسلمانوں کے فہم و فکر اور قول و منطق میں توافق و تطابق:

مشرکین کا یہ قول ہے کہ: ”ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اہلیت ہی نہیں، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ بت عند اللہ ہماری سفارش کریں گے۔“^۱

یا ان کی یہ منطق: ”معبودِ اعظم (اللہ تعالیٰ) کی ذات اس سے بلند و بالاتر ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے، بشر کی شان کے لائق یہی ہے کہ وہ اللہ کے بزرگ بندوں (اولیاء اللہ و انبیاء علیہم السلام) کی عبادت میں لگے رہیں۔“^۲

یا ان کا یہ کلام کہ: ”ان کی عبادت کے بغیر خدا کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا رتبہ بہت بلند ہے، اس کی عبادت سے اس کا تقرب حاصل نہیں کیا جاسکتا، لہذا ان کی عبادت ضروری ہے تاکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔“^۳

مشرکین مکہ کے اس مذکورہ بالا قول و کلام اور عہدِ حاضر کے جاہل مشرکین کا یہ بیچ اور پوچھ قول کہ: ”مکان پر چڑھنا ہو تو پہلے سیڑھی کا انتظام کرنا ہوگا، بھلا سیڑھی کے بغیر مکان پر کون چڑھ سکتا ہے؟“ یا یہ فضول دلیل کہ بادشاہ یا حاکم اعلیٰ سے کوئی کام ہو تو براہِ راست عرض نہیں کیا جاسکتا، پہلے نچلے درجہ کے حکام اور افسروں کی خدمت میں درخواست گزارا جائے گی، وہ اوپر اقتدارِ اعلیٰ تک پہنچائیں گے تب کام ہوگا۔ ہماری وہاں تک رسائی کہاں؟ اسی طرح کوئی بندہ براہِ راست بارگاہِ الہی میں درخواست و دعا نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی دعائیں ان بزرگوں، اللہ والوں سے کریں گے، وہ آگے اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، اور ہمارا کام کرادیں گے۔“

سولہ آنے توافق و تطابق ہے، مشرکین و ”مسلمین“ کے زعم و خیال اور قول و منطق میں مشابہت کاملہ ہے۔ کوئی فرق نہیں۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ ایک منطق کل کے مشرکین کی تھی اور ایک دلیل آج کے نام نہاد ”مسلمین“ کی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ۔

۱۔ ”تفسیر کبیر“ جلد ۷، ص ۵۹۔ ۲۔ اِنَّ اِلٰہَ الْاَعْظَمِ اَجَلٌ مِّنْ اَنْ یَّعْبُدَ الْبَشَرَ لٰكِنِ الْاَلٰتُ بِالْبَشَرِ اَنْ یَّشْتَغِلُوْا بِعِبَادَةِ الْاِکْبَرِ مِنْ عِبَادِ اللّٰہِ۔ (”تفسیر کبیر“ جلد ۷، ص ۲۳۰)

۳۔ وَقَالُوْا لَا تَقْبَلْ عِبَادَةَ اللّٰہِ اِلَّا مَضْمُوْمَةً بِعِبَادَتِهِمْ بَلِ الْحَقُّ فِیْ غَايَةِ التَّعَالٰی فَلَآ تَفِیْدُ عِبَادَتُهٗ تَقْرِبًا مِنْہٗ بَلْ لَا یُبَدُّ مِنْ عِبَادَةِ هٰؤُلَاءِ لِقُرْبُوْا اِلٰی اللّٰہِ زُلْفٰی۔ (”حجۃ اللہ البالغہ“ جلد اول ص ۱۰۸)

شرک کی تاریخ

شرک کی ابتداء: کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی ابتداء سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے عہد نبوت میں ہوئی۔ اس دھرتی پر سب سے پہلے قوم نوح بتوں کی نجاست سے ملوث و آلودہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح اور شرک و بت پرستی کی تردید کے لیے اپنے اولوالعزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم نوح پانچ بڑے بتوں کی پرستش کرتی تھی، وڈ، سواع، یعوق، یغوث اور نسر۔

دنیا میں بت گری و بت پرستی کا آغاز:

آئیے، ذرا دیکھیں کہ قوم نوح میں ان اوثان و اصنام کی پرستش کا آغاز کیونکر ہوا۔ بلکہ دنیا میں بت گری کیسے شروع ہوئی؟ اس کا جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وڈ، سواع، یعوق، یغوث اور نسر

اسماء رجال صالحین من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تبعث حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبت.^۱
یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں (اولیاء اللہ) کے نام تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو پٹی پڑھائی کہ ”جہاں یہ بزرگ بیٹھا کرتے تھے تم وہاں ان کے بت بنا کر نصب کر دو، اور ان کے نام انہی بزرگوں کے نام پر رکھ دو“ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا جب تک وہ لوگ زندہ رہے ان بتوں کی عبادت نہ کی گئی مگر جب وہ لوگ مر گئے اور حقیقت حال کا علم کسی کو نہ رہا تو ان کی عبادت شروع ہو گئی۔

حضرت شیث: روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وڈ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور آپ کا لقب شیث تھا جو شرف نبوت سے مشرف ہوئے۔

^۱ حضرت عکرمہ، سخاک، قتادہ اور ابن اسحاق (رحمہم اللہ) سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

^۲ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ نوح۔

مفسر شہیر حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں: حافظ ابن عساکر نے حضرت شیث علیہ السلام کے حالات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا: حضرت آدم علیہ السلام کی چالیس اولادیں تھیں، بیس لڑکے اور بیس لڑکیاں، لڑکوں میں سے ہابیل، قابیل، صالح، عبدالرحمن اور وزندہ رہے۔

وكان وذيقال له شيث و كان اخوته قد سودوه وولد له سواع ويعوق ويعوق و نسرًا

اور وڈ ہی کو شیث کہا جاتا ہے، ان کے بھائیوں نے انہی کو اپنا سردار بنا لیا تھا، سواع، یعوق، اور نسر ان ہی کے لڑکے تھے۔

یہی وڈ الملقب یہ شیث علیہ السلام اولین معبود ہیں، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی گئی

أَوَّلَ مَعْبُودٍ عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

خاتم المفسرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

ابن ابی حاتم نے حضرت عروہ بن زبیر (رضی اللہ عنہما) سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا، یہ پانچوں آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سب میں بڑا اور سب سے نیک وڈ تھا۔ مروی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا سب سے اول معبود وڈ ہے۔^۱

بیت اللہ میں بت پرستی کا آغاز: عرب میں بت پرستی کا بانی عمرو بن لُحی ہے۔ (عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ عمرو بن لُحی

کی نسل سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رأيت عمرو بن لحي يجرُ قصبه في النار.

میں نے دیکھا عمرو بن لُحی جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ عمرو بن لُحی کسی کام سے مکہ سے شام گیا، وہاں عمالیت کو دیکھا کہ:

يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ فَقَالَ لَهُمْ مَا هَذِهِ الْأَصْنَامُ الَّتِي أَرَاكُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا

له: هَذِهِ أَصْنَامُ نَعْبُدُهَا فَنَسْتَمْطِرُهَا فَنَسْتَمْطِرُهَا، نَسْتَنْصِرُهَا فَتَنْصِرُنَا.

وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے ان سے پوچھا، تم بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟

۱ "تفسیر ابن کثیر" جلد ۴، ص ۲۲۶، تفسیر آیت ولا تذرنا وذا.....

۲ "روح المعانی" جزء ۲۹، آیت ولا تذرنا وذا.....

انہوں نے کہا، ہم ان بتوں کو پوجتے ہیں، ہم ان سے (خشک سالی میں) بارش کا سوال کرتے ہیں تو یہ بارش برساتے ہیں اور (جنگ میں) فتح کی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں فتح دیتے ہیں۔

عمرو نے ان سے کہا: تم مجھے بھی ایک بت دے دو، میں اسے عرب لے جاؤں گا تا کہ وہ لوگ بھی اس کی عبادت کریں۔

فَاعْطَوْهُ صَنَمًا يُقَالُ لَهُ هُبْلُ فَقَدِمَ بِهِ مَكَّةَ فَنَصَبَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِعِبَادَتِهِ وَتَعْظِيمِهِ^۱

چنانچہ انہوں نے اسے ایک بت دے دیا جسے ہبل کہا جاتا تھا۔ وہ اسے مکہ لے آیا اور نصب کر دیا اور لوگوں کو اس کی پوجا اور تعظیم کا حکم دیا۔

چونکہ یہ حرم کا متولی تھا، اس لیے مکہ اور پھر عرب میں بت پرستی پھیل گئی۔ پہلے حرم کی تولیت کا تاج قبیلہ جرہم کے سردار حارث کے سر پر تھا۔ عمرو نے لڑکر حارث اور اس کے قبیلہ کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی بن گیا۔ اور اس ظالم و لعین نے تولیت کعبہ کے شرفِ عظیم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر بانی کعبہ حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام کے دینِ حنیف کو اول دفعہ بدل کر بت پرستی کی بنا ڈالی، لعنہ اللہ۔

عرب میں بت پرستی کا شیوع: کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر ہے، اللہ والوں کا دل اللہ کے گھر کی محبت و عقیدت کے مقدس اور

پاک جذبہ سے معمور اور بھرپور ہے۔ بیت اللہ کی عقیدت کے اسی مقدس جذبہ سے عرب میں بت پرستی کا آغاز و شیوع ہوا۔

امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کا قول ہے کہ:

بنی اسماعیل (عرب) میں عبادت الحجارہ (بت پرستی) کا آغاز یوں ہوا کہ جب مکہ کی سرزمین (کثرت آبادی کی وجہ سے یا وسائل معاش کی کمی کے باعث) ان پر تنگ ہو گئی اور وہ فراخی و وسعت کی تلاش میں دوسرے شہروں کی طرف نکلے تو جو بھی (مستقل یا طلب معاش کے لیے) مکہ سے روانہ ہوتا تھا،

حَمَلَ مَعَهُ حَجْرًا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَمِ تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ فَحَيْثَمَا نَزَلُوا وَضَعُوهُ

^۱ "سیرت ابن ہشام" جلد اول ص ۷۸، ۷۹۔

فَطَافُوا بِهِ كَطَوَافِهِمْ بِالْكَعْبَةِ، حَتَّىٰ سَلَخَ ذَلِكَ بِهِمُ الْإِلَىٰ أَنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
مَا اسْتَحْسَنُوا مِنَ الْحِجَارَةِ وَاعْجَبَهُمْ ۗ

وہ اپنے ساتھ حرم کعبہ کے پتھروں میں سے ایک پتھر حرم ہی کی تعظیم کے پیش نظر لے جاتا تھا۔ جہاں جا کر ٹھہرتا وہاں اس پتھر کو رکھ دیتا اور طواف کعبہ کی طرح اس کا طواف کرتا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جس پتھر کو وہ اچھا سمجھتے اور پسند کرتے اس کی عبادت کرنے لگے۔

خلاصہ: شیطان مزدود و ملعون کے اغوا و اضلال سے دنیا میں بت گری و بت پرستی کا آغاز ہوا۔ اہلس لعین نے رجال صالحین کے محبین و متبعین کے دل میں دوسوہ ڈالا، ریشہ دوانی کی، اولیاء اللہ کی یادگار کے طور پر ان کے اصنام و انصاب، مجسمے اور بت بنوائے اور اس طرح دنیا میں بت پرستی کی بنیاد قائم کی۔

پھر عرب میں بت پرستی کا شیوع ہوا، تو بیت اللہ کی عقیدت اور حرم مکہ کی تعظیم کے جذبہ سے ہوا۔ غرض شرک کی اصل و اساس معرفت و محبت ربانی کے جذبہ پر قائم ہے۔ جس نے بھی جب کبھی کسی کو معبود بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے کسی تعلق ہی کی بنا پر بنایا۔ خواہ مزعومہ نسبی تعلق کی بناء پر، خواہ عبدی و قربی تعلق کی بناء پر!

آج بھی لوگ اولیاء اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو معبود بناتے ہیں تو اس شرک کی بنیاد بھی ان اولیاء و مشائخ، ان صلحاء اُمت کا اللہ تعالیٰ سے قرب و تعلق ہے۔ اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔

شرک کی اقسام

امام راغب رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

دین میں شرک دو قسم پر ہے، شرکِ عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا اور یہ سب سے بڑا کفر ہے، دوم، شرکِ صغیر کہ کسی کام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی کا دوسرا نام ریا اور نفاق ہے۔^۱

شرکِ عظیم کی دو قسمیں ہیں، شرکِ اعتقادی، شرکِ عملی^۲ یا فعلی، پھر شرکِ اعتقادی دو قسم پر ہے، شرکِ فی العلم، یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو عالم الغیب یا حاضر و ناظر جاننا، دوسرا شرکِ فی التصرف، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مافوق الاسباب یعنی نفع یا نقصان کا مالک سمجھنا۔

شرکِ فعلی پانچ اقسام پر مشتمل ہے، شرکِ فی الذات، شرکِ فی الصفات، شرکِ فی العبادت، شرکِ فی الاطاعت اور شرکِ فی العادت۔^۵

حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے شرک کی درج ذیل چار قسمیں کی ہیں:

۱۔ شرک فی العلم: ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، اور ہر چیز کی خبر ہر وقت رکھنی، دُور ہو یا نزدیک، چھپی ہو یا کھلی، اندھیرے میں ہو یا اُجالے میں، آسمانوں

میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندر کی تہہ میں، یہ اللہ ہی کی شان ہے، اور کسی کی یہ شان نہیں۔ سو جو کوئی کسی کا نام اُٹھتے بیٹھتے لیا کرے، اور دُور و نزدیک سے پکارا کرے اور بلا کے مقابلہ میں اس کی دہائی دیوے، اور دشمن پر اس کا نام لے کر حملہ کرے اور اس کے نام کا ختم پڑھے یا مشغل کرے، یا اس کی صورت کا خیال باندھے اور یوں سمجھے کہ جب میں اس کا نام لیتا ہوں، زبان سے یاد لے، یا اس کی صورت کا یا اس کی قبر کا خیال باندھتا ہوں تو وہیں اس کو خبر ہو جاتی ہے اور اس سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، اور جو مجھ پر احوال گزرتے ہیں، جیسے بیماری، تندرستی، کشائش و تنگی، مرنا جینا، غم و خوشی، سب کی ہر وقت اسے خبر ہے اور جو بات میرے منہ سے نکلتی ہے وہ سب سن لیتا ہے اور جو خیال وہم میرے دل میں گزرتا ہے وہ سب سے واقف ہے، اس قسم کی باتیں شرک ہیں“ اس کو اشراک فی العلم کہتے ہیں، یعنی اللہ کا سا علم

۱۔ ”مفردات القرآن“ ص ۲۷۹۔

کسی اور کو ثابت کرنا، سوا اس عقیدہ سے آدمی البتہ مشرک ہو جاتا ہے۔ خواہ یہ عقیدہ انبیاء و اولیاء سے رکھے، خواہ پیر شہید سے رکھے، خواہ امام سے، خواہ بھوت (جن) و پری سے، پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ بات ان کو اپنی ذات سے ہے خواہ اللہ کے دینے سے، غرض اس عقیدہ سے ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

۲۔ شرک فی التصرف:

عالم میں ارادہ سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا اور اپنی خواہش سے مارنا اور جلانا اور روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کر دینا، فتح و شکست دینی، مرادیں پوری کرنی، حاجتیں بر لانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دستگیری کرنی، برے وقت میں پہنچنا، یہ سب اللہ ہی کی شان ہے، اور کسی نبی، ولی کی، پیر، شہید کی، بھوت اور پری کی یہ شان نہیں۔ جو کوئی کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مراد مانگے، اور اس کی منتیں مانے اور اس کو مصیبت کے وقت پکارے وہ مشرک ہے۔ اور اس کو اشراک فی التصرف کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ساتھ تصرف ثابت کرنا، سو یہ محض شرک ہے۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے، خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

۳۔ شرک فی العبادت:

بعض تعظیم کے کام اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں کہ ان کو عبادت کہتے ہیں، جیسے سجدہ اور رکوع اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اور اس کے نام پر مال خرچ کرنا اور اس کے نام کا روزہ رکھنا، اور اس کے گھر کی طرف دُور دُور سے قصد کر کے سفر کرنا، اور راستے میں اس مالک کا نام پکارنا اور نام معقول باتوں اور شکار سے بچنا اور اسی قید سے جا کر طواف کرنا، اور اس کی طرف سجدہ کرنا، اور اس کی طرف جانور لے جانا، اور وہاں منتیں ماننی، اس پر غلاف ڈالنا، اس کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعا مانگنی اور التجا کرنی اور دین و دنیا کی مرادیں مانگنی اور ایک پتھر (حجر اسود) کو بوسہ دینا اور اس کی دیوار سے اپنا منہ ملنا، اور اس کا غلاف پکڑ کر دعا کرنی، اور اس کے گرد روشنی کرنی، اور اس کا مجاور بن کر اس کی خدمت میں مشغول رہنا، جیسے جھاڑ و دینی، روشنی کرنی، فرش بچھانا، پانی پلانا، وضو غسل کا لوگوں کے لیے سامان درست کرنا اور اس کے کنوئیں کے پانی کو تبرک سمجھ کر پینا، غائبوں کے لیے لے جانا، رخصت ہوتے وقت اُلٹے پاؤں چلنا، اس کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا، وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، گھاس نہ اکھاڑنا، مویشی نہ چگانا، یہ سب کام اللہ

نے اپنی عبادت کے لیے اپنے بندوں کو بتائے ہیں۔ پھر جو کوئی کسی پیر و پیغمبر کو یا بھوت اور پری کو یا کسی سچی یا جھوٹی قبر کو یا کسی تھان کو یا کسی چلے کو یا کسی کے مکان کو، یا کسی کے تبرک کو یا نشان کو یا تابوت کو سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے نام کا روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہووے یا جانور چڑھاوے یا ایسے مکانوں میں دُور دُور سے قصد کر کے جاوے، یا وہاں روشنی کرے، غلاف ڈالے، چادر چڑھائے، قبر کو بوسہ دے، مور چھیل جھلے، اس پر شامیانہ کھڑا کرے، چوکھٹ کو بوسہ دیوے، ہاتھ باندھ کر التجا کرے، مراد مانگے، مجاور بن کے بیٹھ رہے، رخصت ہوتے وقت اُلٹے پاؤں چلے، وہاں کے جنگل کا ادب کرے، تو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے، اس کو شرک فی العبادت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی سی تعظیم کرنی۔ پھر خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ ہی اس تعظیم کے لائق ہیں یا یوں سمجھے کہ ان کی اس طرح تعظیم کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی تعظیم کی برکت سے اللہ مشکلیں کھول دیتا ہے، ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔

۴۔ شرک فی العادت: اللہ نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے کہ اپنے دنیا کے کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں، جیسے ہر کام کا شروع اس کے نام سے کرنا اور جب اولاد ہو تو اس کے شکر میں اس کے نام کا جانور ذبح کرنا اور اس کا نام عبد اللہ،

عبدالرحمن، خدا بخش (وغیرہ) رکھنا، کھیت اور باغ میں تھوڑا بہت اس کے نام کا رکھنا، ریوڑ میں سے کچھ اس کی نیاز کر رکھنا..... اور کھانے پینے پہننے میں اس کے حکم پر چانا اور بُرائی بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے، جیسے قحط اور ارزانی، صحت و بیماری، فتح و شکست، اقبال و ادبار، غمی اور خوشی یہ سب اس کے اختیار میں سمجھنا اور اپنا ارادہ جس کام کا بیان کرنا ہو تو پہلے اس کے ارادہ کا ذکر کر دینا، مثلاً یوں کہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہم فلاں کام کر دیں گے، اور جب قسم کھانے کی حاجت ہو تو اسی کے نام کی قسم کھانی، اس قسم کی چیزیں اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے بنائی ہیں۔ پھر جو کوئی کسی انبیاء و اولیاء، اماموں اور شہیدوں کی یا بھوت اور پری کی اس قسم کی تعظیم کرے، بسم اللہ کی جگہ ان کا نام لیوے، جب اولاد ہو ان کی نذر و نیاز کرے، اپنی اولاد کا نام عبدالنبی، امام بخش، پیر بخش (وغیرہ) رکھے، جو کھیتی باڑی سے آوے پہلے ان کی نیاز دے، ان کے نام کے جانور ٹھہرا دے، پھر ان جانوروں کا ادب کرے، دانہ وغیرہ سے نہ ہانکے، لکڑی پتھر سے نہ مارے، اور بُرائی بھلائی جو دنیا میں پیش آتی ہے اس کو ان کی طرف نسبت کرے، کہ فلاں کی پھنکار میں دیوانہ ہو گیا، فلاں نے کو ایسا راندا کہ محتاج ہو گیا، فلاں نے کو نواز دیا تو فتح و اقبال مل گیا، قحط فلاں

ستارے کے سبب سے پڑا، فلاں کام جو فلاں دن شروع کیا تھا یا فلاں ساعت میں سو پورا نہ ہوا۔ یا یوں کہے، اللہ و رسول چاہے گا تو میں آؤں گا۔ یا پیر چاہے گا تو یہ بات ہو جائے گی۔ اسے معبود یا داتا، بے پروا، خداوندِ خدا یگانا، مالک الملک، شہنشاہ بولے، یا پیغمبر کی یا علماء کی، یا امام کی، یا پیر کی، یا ان کی قبروں کی قسم کھاوے، سو ان سب باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے اور اس کو شرک فی العادت کہتے ہیں۔ یعنی اپنی عادت (روزمرہ) کے کاموں میں جو اللہ کی تعظیم کرنی چاہے۔ بے سو غیر کی کرے۔ ان چاروں طرح کے شرک کا قرآن و حدیث میں صریح ذکر ہے۔^۱

۵۔ شرک فی الاطاعت: شرک فی الصفات (شرک فی العلم اور شرک فی التصرف) شرک فی العبادت اور شرک فی العادت کا ذکر

ہو چکا، اب شرک فی الاطاعت سے متعلق عرض ہے:

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ:

ایک قوم تھی، اس کے بعض بعضوں کی عبادت کرتے تھے، یعنی اہل کتاب۔

كَانُوا يَعْبُدُونَ اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ.

وہ اپنے احباب اور رہبان کی عبادت کرتے تھے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

اتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ.

انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو خدا کے سوا رب بنا رکھا ہے۔

اور مسند (امام احمد) اور ترمذی میں ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

یہود و نصاریٰ احبار و رہبان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ حضور ملی اللہ علیہ السلام نے فرمایا:

بَلَىٰ اِنَّهُمْ اَحَلُّوا لِهَمِ الْحَرَامِ وَ حَرَّمُوا عَلَيْهِمِ الْحَلَالَ فَاتَّبَعُوهُمْ فَذٰلِكَ

عبادتہم اِیَّاهُمْ.

ہاں! احبار و رہبان نے ان کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا اور انہوں

نے ان کی متابعت کر لی، یہی ان کی احبار و رہبان کی عبادت تھی۔

(یہ نقل کر کے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:)

۱۔ ”تقویۃ الایمان“ پہلا باب۔

فَالْجَهْلَةُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ وَمَشَائِخِ الضَّلَالِ يَدْخُلُونَ فِي هَذَا الذَّمِّ
وَالْتَوْبِيخِ ۱

پس جاہل دینی پیشوا گوشہ نشین بزرگ اور گمراہ مشائخ (سبھی) اس مذمت اور اس
زجر و توبیخ میں داخل ہیں۔
ترمذی کے الفاظ یہ ہیں:

ارشاد فرمایا: وہ لوگ اہبار و رہبان کی (معروف طریقے سے تو) عبادت نہیں کرتے تھے،
وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا
حَرَّمُوهُ. (رواہ الترمذی) ۲

لیکن جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے وہ اس کو حلال سمجھ لیتے اور جس چیز کو وہ حرام کہہ
دیتے وہ اس کو حرام سمجھ لیتے۔ (یہی گویا ان کی عبادت تھی)

شارح ”سیرت ابن ہشام“ امام ابوالقاسم عبدالرحمن السہیلی المتوفی ۵۸۱ھ لکھتے ہیں کہ:
جب قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکال دیا، خود بیت اللہ کے متولی بن بیٹھے تو اس
قبیلہ کے سردار عمرو بن لُحی کو عرب نے اپنا رب بنا لیا۔ وہ ان کے لیے جو بھی بدعت ایجاد کرتا تھا
وہ اسے شریعت بنا لیتے تھے۔

لأنه كان يطعم الناس ويكسوهم في الموسم فرما نحر في الموسم
عشرة آلاف بُذنة وكسا عشرة آلاف حُلَّة. ۳

کیونکہ وہ لوگوں کو حج کے ایام میں خوب کھلایا اور لباس پہنایا کرتا تھا، بسا اوقات
ایک حج کے موقع پر وہ دس ہزار اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتا تھا اور دس ہزار نئے
جوڑے لوگوں کو پہناتا تھا۔

اس ملعون نے جو بھی دینِ ابراہیم میں تغیر و تبدل کیا، جو بھی بدعت ایجاد کی، لوگوں نے
اسے قبول کر لیا، تو گویا عرب نے اسے اپنا رب بنا لیا۔

اس مردودِ جہنمی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

۱ ”تفسیر ابن کثیر“ مطبوعہ مصر جلد اول ص ۳۷۔

۲ ”ترجمان السنۃ“ جلد دوم حدیث نمبر ۸۲۰۔

۳ حاشیہ ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول ص ۸۹، طبع مصر۔

لَقَدْ رَأَيْتُمْ يُجْرُ قَصْبَهُ فِي النَّارِ يُوذَىٰ اهل النار ریح قصبه.

(ابن جریر عبد الرزاق وغیرہ)

میں نے عمرو بن لُحی کو دیکھا، جہنم میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہے، اس کی انتڑیوں کی بدبو سے دوزخی تکلیف میں مبتلا ہیں۔

تو یہود و نصاریٰ اور اہل عرب نے اپنے احبار و رہبان اور عمرو بن لُحی کی اطاعت باہم طور کی کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو ان کے حرام کہہ دینے سے حرام کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو ان کے حلال کہہ دینے سے حلال کر دیا تو نبی کریم ﷺ نے اسے ان کی عبادت قرار دیا۔ یہود و نصاریٰ کے متعلق فرمایا: ذلک عبادتہم۔ یہ شرک فی الاطاعت ہے۔

شرک فی الاطاعت کی حقیقت: شرک فی الاطاعت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی کی مستقل اطاعت کی

جائے۔ یعنی اگر کسی کا حکم، حکم الہی کے خلاف بھی ہو تو بھی اس کے آگے تسلیم خم کر دیا جائے، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ قرآن میں اسے صریح الفاظ میں شرک سے تعبیر فرمایا گیا ہے، ارشاد فرمایا:

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. (پارہ ۸- سورہ انعام، ۱۳۷)

اگر تم نے ان (اولیاء الشیطان) کی اطاعت کی تو بیشک تم مشرک ہوئے۔

اطاعت مستقلہ: حقیقت یہ ہے کہ جب مُلک و بادشاہی اللہ رب العزت کی ہے، لہٰذا الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ تو حکم و حکومت بھی خاص اللہ تعالیٰ کا حق ہے

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ. سوائے اللہ کے حکم کسی کا بھی نہیں۔ جب حکم کسی کا نہیں تو کسی کی اطاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اطاعت مستقلہ ہے، جو صرف اللہ احکام الہا کا کین کا حق ہے۔

اطاعت غیر مستقلہ: ہاں! ایک اطاعت غیر مستقلہ ہے۔ یہ درحقیقت اللہ رب العزت کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے حکم سے ہوتی ہے جیسے رسول، اولی الامر، علماء دین و ائمہ مجتہدین وغیرہم کی اطاعت، قرآن کریم میں أَطِيعُوا اللَّهَ کے ساتھ أَطِيعُوا الرَّسُولَ کا حکم تو اکثر و بیشتر آیا ہے، اور ایک جگہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (نساء، ۸۷) بھی فرمایا گیا ہے۔ تو اس قسم کی اطاعت، درحقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، صاف فرمایا گیا ہے:

تفسیر "روح المعانی" تفسیر آیت ما جعل اللہ من بحیرة.....

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. (سورۃ نساء، ع ۱۱)

جس نے رسول کا حکم مانا (درحقیقت) اس نے اللہ تعالیٰ ہی کا حکم مانا۔

تو جو اطاعت غیر اللہ کی ہو مگر ہو حکم الہی کے تحت! وہ نہ تو اطاعت مستقلہ ہے اور نہ ہی شرک یا حرام ہے۔ وہ تو اُلٹا مطلوب و محمود ہے۔ ہاں وہ اطاعت جو حکم الہی کے خلاف ہو، وہ اطاعت مستقلہ ہے، جو حرام و ممنوع ہی نہیں بلکہ شرک ہے۔

اس تفصیل کے بعد حضرات فقہا امت اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کی تقلید و اطاعت کو ناجائز و ناروا بلکہ شرک کہنے والوں کی کم فہمی واضح ہو جاتی ہے۔ چونکہ حضرات فقہا و مجتہدین کی فقہ و اجتہاد کتاب و سنت کے تابع ہوتا ہے، خدا اور رسول خدا کے حکم کے تحت ہوتا ہے، لہذا یہ عین اطاعتِ خدا اور رسول خدا ہے۔ ہاں اگر بالفرض ان حضرات میں سے کسی کا کوئی حکم خدا اور رسول خدا کے حکم کے خلاف ہو تو پھر لازمی طور پر اس کی اطاعت جائز نہیں، وہ رد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ امام الائمہ، امام اعظم رحمہ اللہ کا واضح ارشاد ہے کہ اگر میرا کوئی حکم خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر مارو۔

قال اترکوا قولی بخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وقول الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم ونقل عنہ انہ قال اذا صحَّ الحدیثُ فهو مذہبیٌّ

حقیقت یہ ہے کہ امراء و حکام اسلام ائمہ دین وغیرہم کی اطاعت اس وقت تک جائز و واجب ہے جب تک ان کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی معصیت سرزد نہ ہو۔ اگر ان کا کوئی حکم خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہو تو پھر اس کی اطاعت حرام ہے۔ احادیث پاک میں صراحت و تاکید موجود ہے۔

۱۔ بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. (متفق علیہ)

حکم کو سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے خواہ وہ حکم پسند آئے یا ناپسند ہو۔ جب تک اسے کسی گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ جب اسے گناہ کا حکم دیا جائے تو مسلمان پر اس کی سمع و اطاعت جائز نہیں۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

۱۔ "مشکوٰۃ الصالح" کتاب الامارۃ۔ ۲ تفسیر مظہری جلد ۲، ص ۸۰۹، سورۃ النساء۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خلیفہ عبدالملک کو جو بیعت نامہ لکھ کر بھیجا اس میں حمد و ثنا کے بعد لکھا:

وَأَقْرَأَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّتِ رَسُولِهِ فِيمَا اسْتَطَعْتَ
بِهِ

میں تیری بات سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتا ہوں (بشرطیکہ) اللہ تعالیٰ کے حکم اور سنتِ رسول کے موافق ہو۔ (وہ بھی) اپنی طاقت کے مطابق۔

۳۔ بروایت نواس بن سیمان، ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

(رواہ فی شرح السنہ) ۱

خدا کے احکام کی خلاف ورزی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت (کا کوئی حق) نہیں۔

۴۔ بروایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

(متفق علیہ) ۲

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں (کسی کی) اطاعت (روا) نہیں۔ اطاعت جائز باتوں میں ہوتی ہے۔

۵۔ بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ. جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت جائز نہیں۔

شرک فی العبادت: شرک فی العبادت کا مختصر ذکر تو ہو چکا ہے، لیکن اقسام شرک میں سے شرک فی العبادت ہی ایک ایسی قسم ہے جس میں اولاد

آدم ہمیشہ زیادہ مبتلا رہی ہے۔ سجدہ رکوع، نذر و منت، نحر و قربانی، یہ اعظم انواع عبادت ہیں، اور اللہ کے باغی و طاغی بندوں نے عبادت کی ان انواع میں اللہ کے ساتھ عموماً شرک کیا ہے۔ لہذا اب ان اعظم انواع عبادت سے جدا جدا بحث کی جاتی ہے۔

۱۔ مؤطمانک باب ماجاء فی البیعت۔

۲۔ ”مکتوٰۃ المصاح“ کتاب الامارۃ۔ ج ۳ ایضاً۔

۳۔ ابن ماجہ باب لا طاعۃ فی معصیت اللہ۔

سجدہ

عبادت ”افراط فی التعظیم“ سے عبارت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سجدہ مسجود کی انتہائی تعظیم اور ساجد کی انتہائی ذلت و انکساری پر مشتمل ہے۔ لہذا یہ صرف ذات پاک رب العزت کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا:

۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. (۱۷- حج، ع ۱۰)

اے ایمان والو! تم رکوع کرو، اور سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ رکوع ہو یا سجدہ، یہ عبادت کے افراد ہیں اور عبادت رب تعالیٰ کا حق ہے، جو خالق ہے۔ یہ کسی مخلوق کا حق نہیں، صرف خالق کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا:

۲. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ

(۲۴. خم السجدہ، ع ۵۶)

آيَاهُ تَعْبُدُونَ ۝

تم نہ سورج کو سجدہ کرو، اور نہ چاند کو، اور (صرف) اللہ کو سجدہ کرو، جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

ان دونوں آیات میں سجدہ کو عبادت فرمایا گیا ہے اور خاص خدائے واحد کا حق، جو کائنات کا خالق اور رب ہے۔ یہ مخلوق کے لیے روا نہیں، منع ہے، حرام ہے، خواہ وہ مخلوق شمس و قمر ہو یا نبی اور ولی یا کوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کو عبادت سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسے خاص رب تعالیٰ کا حق فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی ذات کے لیے بھی اسے جائز قرار نہیں دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کی ایک جماعت کے ساتھ تھے کہ ایک اونٹ آیا اور اس نے (اللہ کے حکم سے بطور خرق عادت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو آپ کے اصحاب نے آپ سے کہا: یا رسول اللہ! آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، ہم (ان سے) زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَارْكَعُوا لِحَاكِمِكُمْ وَلَوْ كُنْتُمْ أُمَّرًا أَحَدًا أَنْ يُسْجُدَ لِأَحَدٍ
لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

(رواہ احمد)

اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو، اگر میں کسی کو یہ اجازت

۱. ”مکثوۃ الصالح“ باب عشرة النساء۔

دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی میں سجدہ کو عبادت قرار دے کر عبادت کو رب تعالیٰ کے لیے مخصوص فرمایا ہے اور اپنے لیے اکرام و تعظیم کا امر فرمایا۔ محبت قلبی سے تعظیم کی حد تک تعظیم اور اطاعت و فرمانبرداری پر مشتمل اکرام و تکریم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے لیکن سجدہ جو عبادت و عبودیت کی غایت و نہایت ہے یہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی کا بھی حق نہیں۔ اور اگر کسی کو کسی کا سجدہ کرنا روا ہوتا تو پھر عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ دوسری حدیث ملاحظہ ہو:

حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے (نواح کوفہ) حیرہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ”حیرہ والے اپنے رئیس کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ (ان سے) زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اگر میری قبر پر تیرا گزر ہو تو کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟“ میں نے عرض کیا ”نہیں (قبر کو سجدہ نہیں کروں گا)“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُمْ أُمَّرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ.

سجدہ نہ کرو۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کا حق رکھا ہے۔

اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اسے امام احمد نے بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

ان ارشادات نبوت سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کے سوا کسی کا بھی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق نہیں وہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت پر مرد کا جو حق ہے وہ کسی پر کسی کا نہیں۔ مسلمان بہنوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے سبق لینا چاہئے اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرمانبرداری اور تعظیم و تکریم میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنی چاہئے۔

سجدہ لغیر اللہ کا حکم

حرام ہے: شرح فقہ اکبر میں ہے: والسجدة حرام لغیر اللہ سبحانہ
(اللہ سبحانہ کے سوا سجدہ حرام ہے)

کفر ہے: شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ کا قول ہے:

إِنْ كَانَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ كَفْرًا قَالَ الْقَهْطَانِيُّ وَفِي الظَّهْمِيرِ
يَكْفُرُ بِالسَّجْدَةِ مُطْلَقًا.^۱

اگر سجدہ غیر اللہ کی تعظیم کے پیش نظر ہے تو کفر ہے قہستانی نے کہا اور ظہیر یہ میں ہے
کہ مطلق سجدہ کرنے سے کافر ہو جائے گا۔

کبیری میں ہے: لَوْ سَجَدَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَكْفُرُ.^۲

شرک کے قریب ہے: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

الافراط في التعظيم حتى يتأخيم الشرك كما السجدة ولشم الارض.^۳

مثلاً سجدہ اور زمین بوسی تعظیم میں حد سے بڑھ جانا حتیٰ کہ شرک کے قریب تر ہو جانا ہے

غیر اللہ کے لیے جائز نہیں: حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

اے برادر سجدہ کہ عبارت از جبین بر زمین نهادن است متضمن

نہایت تذلل و انکسار است و مشتمل بر کمال تواضع مخصوص

بعبادت واجب الوجود جلّ سلطانہ داشتہ اند، وغیر او سبحانہ را

تجويز نہ نمودہ.^۴

اے بھائی! سجدہ کہ زمین پر پیشانی رکھنا ہے یہ انتہائی ذلت و عاجزی اور کمال

تواضع و فروتنی پر مشتمل ہے، لہذا تواضع کی یہ قسم ذات پاک واجب الوجود جلّ سلطانہ

کی عبادت کے لیے خاص ہے اور اللہ سبحانہ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔

۱ شرح فقہ الاکبر، ص ۲۳۰۔ ۲ ”رد المحتار“ جلد ۵، ص ۲۵۵۔ ۳ ”کبیری“ ص ۲۶۲۔ ۴ ”حجۃ اللہ البالغہ“

جلد ۲، ص ۵۵۶۔ ۵ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ شریعت و طریقت کے معروف و مشہور امام

ہیں۔ کفر و شرک اور رفس و بدعت کے خلاف جہاد عظیم کیا۔ نور الدین جہانگیر کے دربار میں رکی سجدہ نہ کیا جس کی پاداش

میں برسوں گوا لیاہ کے قلعہ میں محبوس و مقید رہے۔ سال وفات ہے ۱۰۳۳ھ۔

۶ ”مکتوبات امام ربانی“ جلد ۲، مکتوب ۹۲۔

بیت اللہ کو سجدہ کرنا بھی کفر ہے: تو سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی

بیت اللہ کو سجدہ کرے گا تو بھی کافر ہو جائے گا۔ در مختار میں ہے:

حَتَّىٰ لَوْ سَجَدَا لِكَعْبَةِ نَفْسِهَا كَفَرَ.

یہاں تک کہ اگر نفس کعبہ کو سجدہ کیا تو کافر ہو جائے گا۔

علامہ ابن عابدین المعروف شامی رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

یعنی اگر اس کا مسجود اللہ تعالیٰ ہوگا اور کعبہ کی طرف صرف منہ ہوگا تو اس کا تو حکم دیا گیا

ہے اور اگر کان السجود لنفس الكعبة كفر نفس کعبہ کو سجدہ کیا تو یہ کفر ہے۔

قبر کا سجدہ: جب کعبۃ اللہ تک کا سجدہ کفر ہے اور جب محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر

اقدس کا سجدہ جائز نہیں، حتیٰ کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے کی

اجازت نہیں جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ اور حضرت قیس بن سعد اور حضرت معاذ بن جبل

رضی اللہ عنہم کی روایات مندرجہ بالا سے ثابت ہے تو کسی اور کی قبر کے لیے سجدہ کا سوال ہی پیدا نہیں

ہوتا۔ حضرات اولیاء اللہ و صلحاء اُمت کی قبروں کو سجدہ ناجائز، حرام بلکہ کفر ہے۔ جیسا کہ ائمہ اعلام

دین و فقہاء عظام اُمت کے ارشادات سے واضح ہے۔ ”شرعہ الاسلام“ میں ہے:

وَلَا يَتَّخِذُ مَشَاهِدَ الصَّالِحِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ أَيْ مَتَعْبِدُهَا فَإِنَّهُ فَعَلَ الْيَهُودُ.

اولیاء و انبیاء کی مزاروں کو سجدہ گاہ نہ بنائے، یہ بیشک یہودیوں کا عمل ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت وفات اپنی اُمت سے یہ خوف ہوا کہ مبادا آپ

کی قبر شریف کے ساتھ وہ کچھ کریں گے جو یہود و نصاریٰ نے اپنے انبیاء کی قبروں کے ساتھ کیا،

تو آپ نے ان کو اس سے اس طور پر منع فرمایا کہ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی جنہوں نے قبور

انبیاء کو مساجد بنا لیا۔“

وایسے برد و طریق متصور است، یکے آنکہ سجدہ بقبور برند و مقصود

۱۔ ”رد المحتار“ (شامی) جلد اول کتاب الصلوٰۃ بحث فی استقبال القبۃ۔ ۲۔ ”الدر الثریہ“ ص ۱۱۔

۳۔ آپ گیارہویں صدی کے اعظم رجال اُمت سے ہیں۔ ”البحر الملتح“ آپ کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ ”مدارج

النبوۃ“ وغیرہ کئی کتابوں کے منصف ہیں۔ سال وفات ۱۰۱۰ھ ہے۔

عبادت آن دارند چنانکہ بت پرستان بت مے پرستند، قوم آنکہ مقصود و منظور عبادت مولیٰ تعالیٰ دارند ولیکن اعتقاد برند کہ توجہ بقبور ایشان در نماز و عبادت حق موجب قرب و رضائے تعالیٰ است و موقع مے عظیم تر است نزد حق سبحانه از جهت اشتغال مے بر عبادت و مبالغہ در تعظیم انبیائے او و این هر دو طریق نامرضی و نامشروع است، اول خود شرک جلی و کفر است و ثانی نیز حرام است از جهت آنکہ در مے نیز اشراک بخدا تعالیٰ است اگرچہ خفی است و بھر دو طریق لعن متوجہ است، و نماز گزاردن بجانب قبر نبی یا مرد صالح بقصد تبرک و تعظیم حرام است، و هیچ کس را در آن اختلاف نیست۔^۱ اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ قبروں پر سجدہ کریں اور مقصد ان کی عبادت ہو جیسا کہ بت پرست بتوں کی پوجا کرتے تھے، دوسری صورت یہ کہ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو لیکن اعتقاد یہ ہو کہ نماز وغیرہ عبادت الہی میں ان قبروں کی طرف متوجہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا موجب ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مقام عظیم تر ہے۔ حضرات انبیاء (واولیاء) کی تعظیم میں مبالغہ اور اللہ کی عبادت دونوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، یہ دونوں صورتیں ناروا و غیر مشروع ہیں، پہلی صورت شرک جلی اور کفر ہے اور دوسری صورت بھی حرام ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، گو خفی ہے، اور ان دونوں صورتوں پر لعنت فرمائی گئی ہے اور نبی یا نیک مرد (ولی) کی قبر کی طرف تعظیم و برکت کی نیت سے منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔

عبادت کی نیت سے نہیں، بلکہ تبرک و تعظیم کی غرض سے نبی یا ولی کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بالاتفاق حرام ہے۔

اگر قبر کو سجدہ کرنے سے مقصود صاحب قبر کی عبادت ہے، جیسے بت پرست بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ شرک جلی ہے، اور کفر! اور اگر مقصد قبر یا صاحب قبر کی عبادت نہ ہو بلکہ مقصود خدا کی عبادت ہو لیکن اعتقاد یہ ہو کہ یہاں اللہ کی نماز پڑھنا موجب قرب و رضاء الہی ہے تو یہ شرک خفی ہے اور حرام!

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی ہے وہ ان ہر دو طریقوں کو شامل ہے۔

۱ "اشعۃ اللمعات" جلد اول باب المساجد و مواضع الصلوٰۃ۔

اگر قبر کی عبادت کی نیت سے قبر پر نماز پڑھے گا، سجدہ کرے گا تو ملعون ہوگا اور اگر نیت تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے لیکن تبرک و تعظیم قبر کے پیش نظر قبر پر سجدہ کرے گا تو بھی ملعون ہوگا۔

قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں:

قبر کو سجدہ گاہ بنانا تو بجائے خود قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس میں ایہام شرک ہے، اور قبر کی تعظیم بلیغ! حضرت ابو مرید الخنوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا. (رواہ مسلم)

قبروں پر مت بیٹھو اور نہ ان کی طرف (منہ کر کے) نماز پڑھو۔

جہاں قبر کی تعظیم منع ہے وہاں اس کا استخفاف بھی منع ہے۔ جہاں ان کا سجدہ و طواف وغیرہ حرام ہے وہاں قبروں پر قدم رکھنا، ان پر چلنا یا ان پر بیٹھنا بھی ممنوع ہے۔

مطلق مقبروں میں نماز مکروہ ہے:

لَإِنَّ أَصْلَ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ اتِّخَاذَ قُبُورِ الصَّالِحِينَ مَسَاجِدَ وَقِيلَ لِأَنَّهُ تَشْبَهُ بِالْيَهُودِ.^۱

کیونکہ بتوں کی عبادت کی اصل اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ہے اور کہا گیا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کے مشابہ ہے۔

نماز جنازہ:

شریعت میں قبر کو سجدہ کرنے کی گنجائش کہاں ہوگی، جبکہ نماز جنازہ میں سجدہ کی اجازت نہیں، حالانکہ سجدہ اصل نماز ہے، اور کوئی نماز ہو، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، ہر نماز میں ایک رکعت کے اندر دو سجدے ہیں۔ سجدہ کے بغیر کوئی نماز صحیح نہیں۔ لیکن ایک نماز جنازہ ہے جس میں سجدہ کی اجازت نہیں۔ کیونکہ سامنے چار پائی پر میت موجود ہے۔ اللہ کی غیرت اور نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ یہاں انسان اپنی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھکائے، اپنی جبین نیاز خم کر دے۔ اللہ کی جو غیرت زمین کے باہر میت کے سامنے سجدہ کی

۱ "مشکوٰۃ المصابیح" باب فن المیت، جامع ترمذی باب ماجاء فی کرامۃ المشی علی القبور.....

۲ "شامی" جلد اول کتاب الصلوٰۃ، کرامۃ الصلوٰۃ فی القبر۔

روادار نہیں، وہ اس میت کو جبکہ یہ زیر زمین قبر میں دفن ہوگئی، سجدہ کرنا بھلا کب گوارا کر سکتی ہے؟
مس قبر تک حرام ہے: قبر کے فتنہ عظیم سے بچنے کے لیے شریعت نے جہاں قبر کے نزدیک یا قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے، سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، وہاں قبر کو ہاتھ تک لگانے سے بھی شدت کے ساتھ روکا ہے، اور حضرات فقہاء رحمہم اللہ نے اسے نصاریٰ کی عادت و سنت قرار دیا ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

وَلَا يَمْسَحُ الْقَبْرَ وَلَا يَقْبَلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ النَّصَارَى وَقَالَ الْمَنَاوِي فِي شَرْحِ جَامِعِ الصَّغِيرِ لَا يَمَسُّ الْقَبْرَ وَلَا يَقْبَلُهُ فَإِنَّهُ مِنْ عَادَةِ النَّصَارَى وَقَالَ فِي الْمَضْمَرَاتِ لَا يَقْبَلُ الْقُبُورَ لِأَنَّهُ عَادَةُ النَّصَارَى وَقَالَ فِي التَّاتَارِ خَانِيهِ وَلَا يَقْبَلُ الْقُبُورَ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ النَّصَارَى.

”نہ تو قبر کو ہاتھ لگائے اور نہ ہی اسے بوسہ دے، بیشک یہ نصرانیوں کا شیوہ ہے۔“
 مناوی نے ”شرح جامع الصغیر“ میں کہا ہے ”قبر کو مس نہ کرے اور نہ اسے بوسہ دے، یہ نصاریٰ کی عادت ہے“ اور ”مضمورات“ میں ہے ”قبروں کو بوسہ نہ دے کیونکہ یہ نصرانیوں کا شیوہ ہے“ اور ”تاتارخانیہ“ میں ہے ”قبروں کو بوسہ نہ دے کیونکہ یہ نصاریٰ کی عادت ہے۔“

بنیائے شرح ہدایہ میں ہے: قال الفقهاء الخراسانيون لا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة النصارى.^۱

قبر کو بوسہ دینا نصرانیوں کا شیوہ ہے: شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

واذ جملة آداب زیارت ست کہ رو بجانب قبر و پشت بجانب قبلہ مقابل روئے میت بالیستد و سلام دہد و مسح نکند قبر را بدست، و بوسہ نہ دہد آن را و منحی نشود و روئے بخاک نمالد کہ این عادت نصاری است.^۲

۱ جلد ۴، کتاب الکرامیۃ، باب ۱۶، فی زیارة القبور۔ ۲ ”الدرالفرید“ ص ۱۳۳۔

۳ ”احمد المصنوعات“ جلد ۱، ص ۷۶۲، باب زیارة القبور۔

زیارتِ قبر کے آداب میں سے ہے کہ قبر کی طرف منہ اور قبلہ کی جانب پیٹھ کر کے میت کے منہ کے مقابل کھڑا ہو جائے اور سلام کہے، قبر کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ بوسہ دے اور نہ جھکے اور نہ زمین پر منہ رگڑے کہ یہ نصاریٰ کا شیوہ ہے۔
شمس العارفین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ قبر پر ہاتھ رکھے اور اسے بوسہ دینے کو یہودیوں کی عادت فرماتے ہیں:

وَإِذَا زَارَ قَبْرًا لَا يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ وَلَا يُقْبِلُهُ فَإِنَّهُ عَادَةُ الْيَهُودِ.

امام غزالی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

وَلَا يَمْسَحُ الْقَبْرَ وَلَا يَمْسُهُ وَلَا يُقْبِلُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ النَّصَارَى^۱.

اجلہ ائمہ حدیث و فقہ و تصوف کے ارشادات سے ثابت ہو گیا کہ قبر کو ہاتھ تک لگانا یا اس کا بوسہ لینا یہ سنت و عادتِ یہود و نصاریٰ ہے۔ اسلام کے اندر اس کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔

اور کسی بزرگ یا امام یا ولی کی قبر کے لیے ان امور کی گنجائش کب **مزارِ رسولِ اکرم:** ہوگی جبکہ خود سپردِ دو عالم، رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر انوار کے

لیے بھی اجازت نہیں۔ اکابر ائمہ دین کے ارشادات ملاحظہ ہوں:

۱۔ امام الحدیث والفقہ حضرت ملا علی القاری رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

وَلَا يَمَسُّ الْقَبْرَ وَلَا التَّابُوتَ وَلَا الْجِدَارَ فُورِدَ النَّهْيُ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ بِقَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ بِقُبُورِ سَائِرِ الْأَنْبَاءِ وَلَا يُقْبِلُهُ فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَسِّ فَهُوَ أَوْلَىٰ بِالنَّهْيِ فَالتَّقْيِيلُ مُنْتَضِعٌ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَبَابِدَى الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ^۲.

نہ تو قبر کو نہ ہی تابوت کو اور نہ ہی دیوار کو ہاتھ لگائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اس قسم کے سب کاموں کی ممانعت وارد و ثابت ہے تو عام لوگوں کی قبروں پر کیسے جائز ہوں گے؟ اور نہ ہی قبر کو بوسہ دے، کیونکہ یہ ہاتھ لگانے سے زیادہ ہے، یہ نبی کا زیادہ مستحق ہے اور بوسہ لینا حجرِ اسود اور حضراتِ انبیاء علیہم السلام اور علماء و صلحاء کے ہاتھوں کے ساتھ مخصوص ہے۔

۱۔ "غنیۃ الطالبین" جلد ۱، ص ۴۴۔ ۲۔ "احیاء العلوم" باب زیارة القبور۔

۳۔ "شرح عین العلم"۔

۲۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

فیتوجہ الی قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقف عند رأسہ مستقبل القبلة ثم یدنوا منه ثلثة اذرع او اربعة وَلَا یَدْنُوْ مِنْهُ اَکْثَرُ مِنْ ذَٰلِکَ وَلَا یَضَعُ یدہ علی جدار التربة فهو اہیب واعظم للحرمة۔^۱

پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف متوجہ ہو اور سر اقدس کے سامنے کھڑا ہو، آپ کے تین یا چار ہاتھ قریب، اس سے زیادہ قریب نہ ہو اور نہ ہی مزار کی دیوار پر ہاتھ رکھے، اس میں آپ کی حرمت و عظمت زیادہ ہے۔

۳۔ وقاء الوفاء میں علامہ سمودی رحمہ اللہ ایک مستقل فصل فی آداب الزیارة والمجاورة میں رقمطراز ہیں:

ومنها ان یجتنب لمس الجدار وتقبیلہ والطواف بہ والصلوة الیہ قال النووی لا یجوز ان یطاف بقبرہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکرہ الصدق البطن والظہر بجدار القبر قالہ الحلیمی وغیرہ قال ویکرہ مسح بالید وتقبیلہ بل الادب یبعد منه کما یبعد منه لو حضر فی حیاتیہ ہذا هو الصواب. وهو الذی قالہ العلماء وَأَطْبَقُوا عَلَیْہِ وَمَنْ خَطَرَ بِیَالِہِ ان المسح بالید ونحوہ ابلغ فی البرکة فهو من جهالته وغفلته لَانَّ البرکة إنما هی فیما وافق الشرع واقوال العلماء.

..... وروی ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ رای رجلاً وَضَعَ یدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنہاہ وقال ما کنا نعرف ہذا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد انکرہ مالک والشافعی واحمد رحمہ اللہ اشدَّ الإنکار.

وفی تحفة ابن عساکر رحمہ اللہ لیس من السنة ان یمس جدار القبر المقدس وَلَا ان یقبلہ وَلَا یطوف بہ کما یفعلہ الجہال، بل یکرہ ذلک ولا یجوز والوقوف من بُعد أقرب الی الإحترام ثم روى من طریق ابی نعیم أن ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یکرہ ان یکثر مس قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ ابوبکر الاثرم

۱۔ فتاویٰ عالمگیری کتاب المناسک باب فی زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

۲۔ علامہ نور الدین علی بن احمد السہودی بڑے جلیل القدر امام ہیں۔ ”وقاء الوفاء“ مدینہ طیبہ کے حالات پر چار جلدوں میں آپ کی بڑی ضخیم و عظیم تصنیف ہے۔ ۹۱۱ھ میں وفات پائی۔

رحمہ اللہ قلت لابی عبد اللہ یعنی احمد بن حنبل رحمہ اللہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلمس ویتمسح بہ قال لا اعرف ہذا۔ وقال ابن قدامہ من الحنابلہ فی السفنی ولا یتحب التمسح بحائط قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احمد ما اعرف ہذا قال الاثرم رأیت اهل العلم من اهل المدینة لا یمسّون قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل یقومون من ناحیة فیسلمون قال ابو عبد اللہ: وکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یفعل ذالک ومنها اجتناب الانحناء للقبر عند التسلیم قال ابن جماعہ: قال بعض العلماء انه من البدع ویظن من لا علم له انه من شعار التعظیم واقبح منه تقبیل الارض للقبر لم یفعله السلف الصالح والخیر کلہ فی اتباعہ۔

اور آداب زیارت میں سے ہے کہ دیوار کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے اور اس کا طواف کرنے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے اجتناب کرے۔ علامہ نووی نے کہا ہے کہ حضرت کی قبر کا طواف جائز نہیں اور قبر اقدس کی دیوار کے ساتھ پیٹ اور پیٹھ کا مس کرنا مکروہ ہے۔ یہ حلیمی وغیرہ نے کہا ہے اور کہا کہ قبر اقدس کی دیوار کو ہاتھ لگانا اور اسے بوسہ دینا مکروہ ہے بلکہ ادب یہ ہے کہ اس سے دُور رہے جیسا کہ آپ کی حیات مقدسہ میں آپ سے دُور رہتا، اور یہی صواب و صحیح ہے اور سب علماء نے یہی کہا ہے اور جس کو یہ خیال گزرے کہ ہاتھ لگانے وغیرہ میں برکت ہے سو یہ اس کی جہالت و غفلت ہے۔ کیونکہ برکت تو شرع کی موافقت میں ہے اور علماء کے اقوال کی متابعت میں ہے۔

اور مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر ہاتھ رکھے دیکھا تو اسے اس سے روکا اور فرمایا کہ ہم عہد رسول اللہ میں اس فعل کو (اچھا) نہیں جانتے تھے اور امام مالک اور شافعی اور احمد رحمہم اللہ نے بھی اس پر انکار کیا ہے شدید انکار۔

اور تحفہ ابن عساکر میں ہے کہ قبر مقدس کی دیوار کو مس کرنا سنت نہیں۔ نہ ہی اسے بوسہ دے اور نہ ہی اس کا طواف کرے جیسا کہ جہلا کرتے ہیں بلکہ یہ مکروہ ہے اور ناجائز، اور دُور کھڑا ہونے میں زیادہ احترام ہے۔ پھر ابو نعیم نے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر نبی کریم کی قبر پاک کو زیادہ مس کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے اور حضرت ابو بکر الاثرم کا قول ہے کہ میں نے حضرت امام احمد

۱۔ "دفاع الوفاء" جز رابع، ص ۱۲۰ تا ۱۲۰۶، ملاحظہ۔

بن حنبلؒ ہے پوچھا کہ قبر رسولؐ کو مس کیا جائے ہاتھ لگایا جائے؟ فرمایا میں یہ نہیں جانتا، اور حنابلہ میں سے امام ابن قدامہؒ نے المغنی میں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کی دیوار کو ہاتھ لگانا مستحب نہیں اور نہ ہی اسے بوسہ دے، امام احمدؒ نے فرمایا: میں اسے نہیں جانتا، اترم نے کہا: میں نے اہل مدینہ کے اہل علم کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مس نہیں کرتے تھے بلکہ ایک طرف کھڑے ہو کر سلام کہتے تھے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے فرمایا کہ ابن عمرؓ ایسا ہی کرتے تھے اور آداب زیارت میں سے ہے کہ سلام پڑھتے وقت قبر پر جھکنے سے اجتناب کیا جائے۔ ابن جماعہ نے کہا: بعض علماء نے کہا کہ یہ بدعت ہے اور بے علم سمجھتا ہے کہ یہ تعظیم ہے، اور قبر کی زمین بوسی کرنا جھکنے سے زیادہ قبیح ہے، سلف صالحین نے ایسا نہیں کیا اور ان کے اتباع میں خیر ہی خیر ہے۔

انحناء (جھکنے) کی بھی اجازت نہیں: شریعت نے سجدہ اور رکوع تو بجائے خود ماند، بندے کو بندے کے آگے جھکنے کی بھی

اجازت نہیں دی۔ حضرات فقہاء رحمہم اللہ نے اسے فعل مجوس قرار دیا ہے:

وَأَمَّا الْإِنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَمَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ بِفِعْلِ الْمَجُوسِ كَذَا فِي الذَّرْرِ.... وَفِي جَوَاهِرِ الْإِخْلَاطِيِّ "الْإِنْحِنَاءُ لِلسُّلْطَانِ أَوْ لِغَيْرِهِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ بِفِعْلِ الْمَجُوسِ وَفِي التَّمْرِ تَاشِي وَيَكْرَهُ الْإِنْحِنَاءُ عِنْدَ التَّحِيَّةِ وَبِهِ وَرَدَ النَّهْيُ.

بادشاہ یا کسی اور کے لیے جھکنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ مجوسیوں کے کردار ہے ملتا جلتا ہے۔ یہ "ذرر" میں ہے۔ اور "جواہر الاخلاطی" میں ہے کہ بادشاہ وغیرہ کے لیے جھکنا مکروہ ہے کیونکہ یہ مجوس کے عمل کے مشابہ ہے اور "تمر تاشی" میں ہے کہ ملاقات کے وقت جھکنا مکروہ ہے اور اس پر نہی وارد ہے۔

شامی میں ہے:

وَفِي الْمَحِيطِ أَنَّهُ يَكْرَهُ الْإِنْحِنَاءَ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ.^۱
اور محیط میں ہے کہ بادشاہ وغیرہ کے لیے جھکنا مکروہ ہے۔

۱۔ فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ کتاب الکرامیۃ، باب ۲۸۔ ۲ "زدالمحتار" جلد ۵، ص ۲۵۵۔

۳ "زدالمحتار" (شامی) کتاب النظر والاباحہ باب الاستبراء وغیرہ۔

جو شریعت کسی زندہ انسان کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں دیتی وہ کسی فوت شدہ بزرگ کی قبر کو سجدہ کرنے یا اس پر جھکنے کی اجازت کب دے سکتی ہے؟

سلام کرتے وقت جھکنا حرام ہے: شریعت محمدیؐ نے انسان کو انسان کے

کہ سلام و ملاقات کے وقت اگر زیادہ جھک جائے گا تو یہ بھی حرام ہوگا۔
علامہ شامی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

وفی الزاہدی الایماء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود۔
اور زاہدی میں ہے کہ سلام کرتے وقت رکوع کے قریب جھک جانا سجدے کی طرح
(حرام) ہے۔

عبرت: شریعت نے ابن آدم کو اتنی بلندی و عظمت عطا کی کہ اُسے تحیہ و سلام کے وقت کسی کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں دی، لیکن آج آدمی اتنا ذلیل اور پست ہو گیا، اپنے بلند و بالا مقام سے اتنا گر گیا کہ آدمی تو آدمی! مٹی اور چونے کے سامنے جھک رہا ہے اور قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

جس دین میں آدمی سے ملنے وقت رکوع کے قریب جھک جانا سجدے کی طرح تراردے کر حرام ٹھہرایا گیا ہو، اس دین میں کسی غیر اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کے جواز کا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں!

نذر (منت)

نذر عبادت ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور غیر اللہ کے لیے نذر و منت جائز نہیں، حرام ہے، شرک ہے۔

۱۔ طاہر بن احمد رحمہ اللہ (متوفی ۵۲۲ھ) کے ”خلاصۃ الفتاویٰ“ میں ہے:

النذر لغير الله حرام لأنه من أنواع الكفر لأن هذا عبادة وعبادة لغير الله كفرًا

غیر اللہ کی نذر حرام ہے، کیونکہ یہ کفر کی ایک قسم ہے۔ اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کفر ہے۔

۲۔ علامہ ابن نجیم مصری (متوفی ۹۷۰ھ) اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”بحر الرائق“ میں اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ وغیرہ رقمطراز ہیں:

وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِمَخْلُوقٍ ۱
نذر مخلوق کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت مخلوق کا حق ہی نہیں۔

حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی جائز نہیں، چنانچہ:

۳۔ فتاویٰ کاملیہ میں ہے:

سئلت عن النذر لانبیاء واولیاء هل يجوز أم لا فالجواب أنه باطل وحرام لأن النذر إنما يكون لله تعالى ۲

سوال یہ ہے کہ حضرات انبیاء و اولیاء کے لیے نذر جائز ہے یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ باطل و حرام ہے، کیونکہ نذر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔

غیر اللہ کی بھینٹ چڑھانے پر عذاب جہنم:

غیر اللہ کے تقرب کے لیے بھینٹ چڑھانا اتنا شدید گناہ ہے کہ مکھی جیسی حقیر و ذلیل جان

۱۔ ”خلاصۃ الفتاویٰ“ جلد ۲ ص ۳۷۸۔ ۲۔ ”شامی“ جلد ۲، کتاب الصوم، مطلب فی النذر۔ ۳۔ ”الدر الغریب“ ص ۹۸۔

کو بھینٹ چڑھائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ طارق بن شہاب سے مرفوعاً روایت ہے کہ فرمایا: صرف ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص جنت میں داخل ہوا اور صرف ایک مکھی کی وجہ سے ایک جہنم میں داخل ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیسے؟ فرمایا: کسی قوم کا ایک بت تھا۔ وہاں سے کوئی شخص اس بت پر بھینٹ چڑھائے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ دو شخص ادھر سے گزرے۔ ان لوگوں نے ان میں سے ایک شخص سے کہا: نیاز چڑھاؤ۔ اس نے کہا: میرے پاس تو کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے کہا: ضرور چڑھا دے خواہ ایک مکھی ہی ہو۔ فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ۔ چنانچہ اس نے (پکڑ کر) ایک مکھی (اس بت پر) بھینٹ چڑھا دی اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، پس وہ دوزخ میں گیا۔ اب دوسرے سے کہا: تو نیاز چڑھا۔ اس نے کہا: مَا كُنْتُ لِأَقْرَبَ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ خدا کی ذات کے سوا میں کسی اور کے نام کی نیاز نہیں دے سکتا۔ اس پر انہوں نے اس کی گردن اڑادی، پس وہ داخل جنت ہوا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔^۱

ذبح وغیرہ کوئی عبادت اور نیکی ہو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے:

حضرت بیہوش ہڈی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کفر کے زمانہ میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، آپ اس کے متعلق کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا:

اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَبَرَّوْا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطِعُوا۔

(رواہ النسائی)^۲

ایک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ذبح کرو، خواہ کسی مہینہ میں کرو۔ اور جو بھی نیکی کرو، اللہ عزوجل ہی کے لیے کرو۔ اور اسی کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو۔

تو ذبح و نذر صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ نذر و منت اور جانور ذبح کرنے ہی پر بس نہیں بلکہ جو بھی نیکی اور عبادت ہو اللہ رب العزت ہی کے لیے ہو، قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَنَسَيْتُ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

۱ "ترجمان السنۃ" جلد دوم حدیث نمبر ۶۶۲ - ۲ ایضاً حدیث نمبر ۶۶۳۔

ذبح لغیر اللہ: نذر و منت ہر قسم کی عبادت کی ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، مال، ماکولات و مشروبات، طعام و کلام کی منت مانی جا سکتی ہے۔ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت کچا یا پکا کر غرباء و مساکین کو کھلانے کی نذر بھی ہو سکتی ہے اور یہ نذر کی ایک عظیم قسم ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صحیفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد درج تھا:

لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. (رواہ مسلم)

اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے جو غیر اللہ کے تقرب کی نیت سے جانور ذبح کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بھی ایسا ہی روایت کیا ہے، اور ابو داؤد میں بھی اس مضمون کی روایت ہے کتاب اللہ قرآن کریم میں چار مقامات پر غیر خدا کے لیے ذبح کو حرام فرمایا گیا ہے۔

فرمایا:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.

(پارہ ۲۔ بقرہ، رکوع ۲۱)

اللہ تعالیٰ نے تم پر صرف حرام کیا ہے مردار اور لہو اور خنزیر کا گوشت، اور جو کچھ (قصد تقرب) غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔

۱۔ اہل کے معنی لغت میں ہیں: چاند دیکھتے وقت لوگوں کا آواز کرنا، بچے کارونے میں آواز بلند کرنا، تلبیہ کہنے والے کا بلند آواز سے تکبیر کہنا، کوئی نعمت پا کر اللہ کا ذکر بلند آوازی سے کرنا۔

۲۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

الاہلال کے اصل معنی چاند نظر آنے پر آواز بلند کرنے کے ہیں، پھر یہ لفظ عام آواز بلند کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور آیت وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کے معنی ہیں کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔

۳۔ ”لغات القرآن“ ملاحظہ ہو:

۱۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ کتاب الصيد والذبايح۔

۲۔ بقرہ رکوع ۲۱۔ مائدہ رکوع اول۔ انعام رکوع ۱۸۔ نحل رکوع ۲۔

۳۔ المنجد۔ ۲۔ ”مفردات القرآن“ ص ۱۰۱۸۔

أَهْلٌ: پکارا گیا۔ اہلال کے معنی اصل میں چاند دیکھتے وقت آواز لگانے اور پکارنے کے ہیں، پھر ہر آواز کے متعلق اس کا استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ ولادت کے وقت بچے کے رونے اور حاجیوں کے لبیک کہنے کو اہلال کہا جاتا ہے۔ (آیت میں) اہلال کے وہی لغوی اور عربی معنی یعنی نامزد کرنا آواز لگانا اور ذکر کرنا مراد ہیں۔ پس جس جانور کو بھی اللہ کے سوا کسی غیر کی نذر سے نامزد کیا جائے خواہ وہ غیر بت ہو یا جن یا خبیث روح یا پیر یا پیغمبر، یا کوئی مکان یا تھان، اور اس نیت سے ذبح کیا جائے کہ اس سے ان کی خوشنودی اور تقرب حاصل ہوگا اور وہ اس کی حاجت روائی کریں گے، سو وہ جانور حرام اور **وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ** میں داخل ہے اور ایسا کرنے والا مشرک اور دائرہ توحید سے خارج ہے، خواہ وقت ذبح ذبیحہ پر بسم اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے۔^۱

۳۔ تفسیر روح المعانی^۲ اور رد المحتار^۳ (شامی) وغیرہ میں ”انوار التزیل“، تفسیر ابی سعود اور تفسیر مظہری (جلد اول ص ۱۳۶) میں یہی لکھا ہے کہ:

اہلال کی اصل رویت ہلال کے وقت آواز بلند کرنے کے ہیں، پھر مطلق رفع صوت پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ تفسیر خازن^۴، فتح البیان^۵، جلالین^۶، معالم التزیل^۷، تفسیر قرطبی^۸ اور روح البیان (جلد ۲ ص ۱۸۸) میں ہے:

واصل الاہلال رفع الصوت۔^۹

لسان العرب میں ہے: **وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ** اے نُودِیٰ علیہ بغیر اسم اللہ وفي الصحاح قوله تعالیٰ **وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ** اے نُودِیٰ علیہ بغیر اسم اللہ واصله رفع الصوت وھكذا فی مختار الصحاح^{۱۰} یعنی لسان العرب، الصحاح اور مختار الصحاح میں ہے کہ **وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ** کے معنی ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ اکثر تفاسیر اور اہل لغت سے یہی ثابت ہے کہ **أَهْلٌ** کے معنی آواز بلند کرنا ہیں، تو **وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللَّهِ** کے معنی ہوئے: جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے یعنی جو چیز اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے نامزد کر دی جائے۔

۱۔ ”لغات القرآن“ جلد اول ص ۳۰۳۔ ۲۔ جلد ۲ ص ۳۷۔ ۳۔ جلد اول ص ۸۲۹۔ ۴۔ جلد اول ص ۲۱۱۔

۵۔ جلد اول ص ۸۹۔ ۶۔ جلد اول ص ۲۲۳۔ ۷۔ ص ۲۲۔ ۸۔ جلد اول ص ۶۲۔

۹۔ جلد اول ص ۲۰۹۔ ۱۰۔ جلد ۲ ص ۲۲۳۔ ۱۱۔ ”الدر الثریہ“ ص ۸۷، ۸۸۔ ۱۲۔ ”الدر الثریہ“ ص ۸۹۔

اگر کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللہ میں داخل ہو کر حرام ہو جائے گا۔ چنانچہ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے قتادہ اور مجاہد سے اور درمنثور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ اللہ کی تفسیر مَا ذُبِحَ لِغيرِ اللہ منقول ہے۔

غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا کافر مرتد ہو جاتا ہے:

۱۔ تفسیر کبیر اور تفسیر نیشاپوری میں اس آیت کی تفسیر میں ہے:

قَالَ الْعُلَمَاءُ لَوْ أَنَّ مُسْلِمًا ذَبَحَ ذَبِيحَةً وَقَصَدَ بِذَبْحِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ صَارَ مُرْتَدًّا وَذَبِيحَتَهُ ذَبِيحَةُ مُرْتَدٍّ۔^۱

علماء (اسلام) نے کہا: اگر مسلمان نے کسی ذبیحہ کو ذبح کیا اور اس ذبح سے غیر اللہ کے تقرب کا ارادہ کیا، وہ مرتد ہو گیا اور اس کا ذبیحہ ایک مرتد کا ذبیحہ ہے (یعنی اس کا کھانا حرام ہے)

۲۔ محیط، غرائب القرآن، حاشیہ شیخ زادہ علی البیضاوی، تفسیر روح البیان اور فتوحات ربانیہ وغیرہ میں بھی قریباً یہی الفاظ ہیں۔ فتوحات اور غرائب القرآن کے سوا باقی تینوں کتابوں میں آخری الفاظ ذبیحہ مرتد کی بجائے ذبیحہ میتہ ہیں، یعنی اس کا ذبیحہ مردار ہے۔ فتوحات الربانیہ میں یہ الفاظ زائد ہیں: لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا. یعنی اس کا کھانا حلال نہیں۔^۲

۳۔ محی الدین علامہ نووی (متوفی ۶۷۶ھ) رقمطراز ہیں:

ذبح لغيرِ اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے نام پر ذبح کرے، بت کے لیے ذبح کرے یا صلیب کے لیے یا حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام یا اسی طرح کسی کے لیے ذبح کرے، پس یہ سب حرام ہیں اور اس ذبیحہ (کا کھانا) حلال نہیں۔

كَانَ الذَّبْحُ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا.

ذبح کرنے والا خواہ مسلمان ہو خواہ نصرانی ہو اور خواہ یہودی۔

اسی پر امام شافعی نے نص کی ہے۔ اور ہمارے اصحاب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اگر اس

کے ساتھ مذبح لہ کی تعظیم و عبادت مقصود ہو تو یہ کفر ہے۔

۱۔ "الدر الثریہ" ص ۸۹۔ ۲۔ تفسیر کبیر جلد ۲، ص ۸۱، نیشاپوری جلد ۲ ص ۱۰۲۔

۳۔ ماخوذ از "الدر الثریہ" ص ۹۱۔

فان كان الذابح مُسْلِماً قَبْلَ ذَلِكِ صَارَ بِالذَّبْحِ مُرْتَدًّا
اگر پہلے ذبح کرنے والا مسلمان تھا تو ذبح کرنے سے مرتد ہو گیا۔

جو ذبیحہ بادشاہ (حاکم، افسر، پیر مرشد وغیرہ) کی آمد پر ذبح کیا جائے علماء بخارانے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے، لِأَنَّهُ مِمَّا أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ کیونکہ یہ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ میں داخل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مطلق تعظیم و تقرب کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، مہمانی اور دعوت تو مسنون ہے۔

۴۔ فتح البیان اور فتح القدر جلد اول ص ۱۲۸ میں ہے:

وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ مِنَ الْمُعْتَقِدِينَ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ الذَّبْحِ عَلَى قُبُورِهِمْ فَإِنَّهُ مِمَّا
أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الذَّبْحِ لِلْوَتَنِ۔^۱

فوت شدہ بزرگوں کے (جاہل) معتقدین کا ان کی قبروں پر ذبح کرنے کا یہی حکم ہے۔ بلاشبہ یہ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ میں داخل ہے اور اس میں اور بت کے لیے ذبح کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

۵۔ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ محدث دہلوی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

وَمَا أَهْلٌ بِهِ. وَمَكَرَ أَنْ جَانُورَ كَهْ آوَاظِ بَرِ آوَرْدَهْ شَدَّ وَشَهْرَتِ دَادَهْ
شَدَّ دَرِ حَقِّ أَنْ جَانُورَ كَهْ لِغَيْرِ اللَّهِ يَعْنِي بَرَائِي غَيْرِ خَدَا سَتِ خَوَا
أَنْ غَيْرِ بَتِ بَاشَدِ يَ رُوْحِي خَبِيْثٌ..... وَخَوَا جَنِّي مَسْلُطٌ بَرِ خَانَهْ
يَ سَرَائِي..... خَوَا پِيْرِي يَ پِيْغَمْبِرِي رَا بَايِنِ وَضَعِ جَانُورِي زَنْدَهْ
مَقْرَرِ كَرْدَهْ دَهْنَدِ كَهْ اِيْنِ هَمَهْ حَرَامِ اسْتِ، دَرِ حَدِيْثِ صَحِيْحِ وَارَدِ
اسْتِ "مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ" يَعْنِي هَرُ كَهْ بَذَبَحَ جَانُورَ تَقْرَبِ
بِغَيْرِ خَدَا تَعَالَى نَمَايَدِ، مَلْعُونٌ اسْتِ خَوَا دَرِ وَقْتِ ذَبْحِ نَامِ خَدَا
بِغَيْرِ دِيَا نَهْ، زِيْرَا كَهْ چُونِ شَهْرَتِ دَادِ كَهْ اِيْنِ جَانُورِ بَرَائِي فَلَانِ
اسْتِ، ذَكَرِ نَامِ خَدَا بِوَقْتِ ذَبْحِ فَائِدَهْ نَهْ كَرْدِ، چَهْ أَنْ جَانُورِ
مَنْسُوْبِ بَآَنْ غَيْرِ گَشْتِ وَ خَبِيْثِي دَرِ أَنْ پِيْدَا گَشْتِ كَهْ زِيَادَهْ اَزِ
خَبِيْثِ مَرْدَارِ اسْتِ، زِيْرَا كَهْ مَرْدَارِ بِيِي ذَكَرِ نَامِ خَدَا جَانِ دَادَهْ اسْتِ وَ

۱۔ لودی شرح مسلم، ص ۱۶۰، ۱۶۱۔ ۲۔ "الدر الثریہ" ص ۹۱۔ ۳۔ متون ۱۲۳۹۔

جان ایس جانور را ازاں غیر قرار داده کشته اند و آن عین شرک است، و هر گاه ایس خبیث دروے سرایت کرد دیگر بذكر نام خداوند تعالیٰ حلال نمے شود مانند سنگ و خوک که اگر بنام خدا مذبوح شوند حلال نمے گردند؛

وَمَا أَهْلُ بِهِ. اور وہ جانور کہ اس کے حق میں آواز اور شہرت دی جائے کہ غیر خدا کے لیے ہے، خواہ وہ غیر بت ہو یا خبیث روح ہو..... خواہ کسی مکان یا سرائے پر مسلط جن ہو..... خواہ پیر یا پیغمبر ہو، ان کے نام پر اس طرح جانور زندہ مقرر کر دیا جائے یہ سب حرام ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا ملعون ہے، یعنی جو کوئی ذبح سے غیر اللہ کا تقرب چاہتا ہے وہ لعنتی ہے، خواہ ذبح کرتے وقت خدا کا نام لے یا نہ لے۔ کیوں کہ جب اس نے مشہور کر دیا کہ یہ جانور فلاں (بزرگ) کے لیے ہے پس اب ذبح کے وقت خدا کا نام لینا (یعنی بسم اللہ۔ اللہ اکبر کہنا) بے فائدہ ہے۔ کیونکہ وہ جانور اس غیر اللہ کے نام نامزد ہو گیا اور اس میں (معنوی) خباثت پیدا ہو گئی ہے جو کہ مردار کی خباثت سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ مردار نے تو خدا کے نام کے بغیر جان دی ہے اور اس جانور کو غیر اللہ کے نام سے نامزد کر کے ذبح کیا ہے اور یہ عین شرک ہے۔ اور جب یہ خباثت اس میں سرایت کر چکی ہے تو یہ اللہ کا نام ذکر کرنے سے حلال نہیں ہوگا۔ جس طرح کتے اور خنزیر کو اگر خدا کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو حلال نہیں ہوں گے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ مضمون اپنے فتاویٰ عزیزی (جلد اول ص ۵۶) میں بھی رقم فرمایا ہے:

در حقیقت جان کی قربانی صرف جان آفرین کا حق ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑنا یا ذبح کرنا اسلام میں حرام ہے۔ قرآن کریم میں غیر اللہ کے لیے مذبوح جانور کو خنزیر کے گوشت، مردار اور لہو کے ساتھ شمار فرمایا گیا ہے۔ جس طرح لحم خنزیر یا مردار پر کروڑ دفعہ بھی بسم اللہ۔ اللہ اکبر کہو تو حلال نہیں ہوتا، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور..... جیسا ہندو ساٹھ یا

۱۔ تفسیر فتح العزیز، تفسیر سورہ بقرہ آیت وَمَا أَهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ.

گائے چھوڑتے ہیں..... یا غیر اللہ کے تقرب کی نیت سے غیر اللہ کے نام پر نامزد کردہ جانور حرام ہیں۔ بوقت ذبح ان پر ایک بار نہیں کروڑ بار بھی اللہ کا نام لیا جائے یہ حلال نہیں ہو سکتے۔

حاکم وغیرہ کی تعظیم کے لیے ذبح کرنا حرام ہے:

شریعت نے اس بارے میں یہاں تک احتیاط کی ہے کہ کسی حاکم اعلیٰ کے آنے پر اس کی تعظیم کے نقطہ نظر سے..... نہ کہ مہمانی و ضیافت کے طور پر..... اگر جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی حرام ہوگا اور اس کا کھانا ناجائز ہوگا۔

۱۔ جامع الرموز (ص ۲۲۹) مجمع الانہر (جلد ۲ ص ۲۹۰) فتاویٰ بزازیہ اور زاہدی وغیرہ کتب معتبرہ فقہ میں ہے:

ذَبَحَ لِقَدُومِ الْاَمِيرِ وَنَحْوِهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْعِظَمَاءِ يَحْرَمُ لِانَّهُ اَهْلٌ بِهٖ لَغَيْرِ
اللّٰهِ وَلَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَوْ ذَبَحَ لِلضَّيْفِ لَا يَحْرَمُ لِانَّهُ سُنَّةُ الْخَلِيلِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاکْرَامِ الضَّيْفِ اَكْرَامِ اللّٰهِ تَعَالٰى ۱

حاکم اعلیٰ وغیرہ کسی بڑے آدمی کے آنے پر ذبح کیا تو حرام ہوگا کیونکہ یہ غیر اللہ (کی تعظیم) کے لیے پکارا گیا، اگرچہ (بوقت ذبح) اللہ کا نام ذکر کیا۔ اور اگر مہمان کے لیے ذبح کیا تو حرام نہ ہوگا کیونکہ مہمانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور مہمان کی تکریم اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔

۲۔ بحر الرائق میں ہے:

وَلَوْ ذَبَحَ لِاحِدِ قَدُومِ الْاَمِيرِ اَوْ قَدُومِ وَاِحِدٍ مِنَ الْعِظَمَاءِ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ
تَعَالٰى يَحْرَمُ اَكْلَهُ لِانَّهُ ذَبَحَهَا لِاَجْلِ تَعْظِيْمًا ۲

بادشاہ یا کسی بڑے آدمی کے آنے پر جانور ذبح کیا اور اس پر (بوقت ذبح) اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا تو بھی اس کا کھانا حرام ہے کیونکہ اس جانور کو بادشاہ وغیرہ کے آنے پر اس کی تعظیم کے لیے ذبح کیا۔

۱۔ در مختار، کتاب الذبائح۔

۲۔ بحر الرائق، جلد ۸، ص ۱۹۲۔

۳۔ شامی میں ہے:

لو ذبح لقدم الامیر ونحوہ یحرم ولو سمی^۱۔

بعض جہال جنوں سے نجات حاصل
جنات کے لیے ذبح کرنا حرام ہے: کرنے کے لیے مرغ وغیرہ ذبح کرتے

ہیں یا نئے مکان میں آباد ہوتے وقت جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ جنات کے شر سے محفوظ
رہیں۔ شریعت میں اسے بھی حرام قرار دیا ہے:

۱۔ رَوَى ابوعبیدہ فی کتاب الاموال وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ ذَبَائِحِ الْجِنِّ..... وَذَبَائِحِ الْجِنِّ إِنْ يَشْتَرِي
الرَّجُلُ الدَّارَ أَوْ يَسْتَخْرِجُ الْعَيْنَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَيَذْبَحُ لَهَا ذَبِيحَةً
لِلطَّيْرَةِ وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّ أَهْلَهَا الْجِنُّ
فَأَبْطَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^۲

ابوعبیدہ نے کتاب الاموال میں اور بیہقی نے زہری سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے نام پر ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے..... اور جنوں کے
نام پر ذبح کرنا یہ ہے کہ کسی شخص نے مکان خریدایا چشمہ کنواں وغیرہ کھودا تو شگون
کے لیے جانور ذبح کیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا
کرنے سے جن گھر وغیرہ والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے باطل قرار دیا۔

بعض جہال کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو کاہنوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں۔ کاہن
انہیں کہتے ہیں کہ مریض پر جن کا اثر ہے۔ میں اس پر پڑھوں گا۔ مگر جب تک خون نہیں بہایا
جائے گا اور مرغ یا بکرا وغیرہ ذبح نہیں کیا جائے گا جن اسے نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ بکرا وغیرہ
جانور ذبح کیا جاتا ہے، یہ سب حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں
ہے۔

۱۔ ”رد المحتار“ شامی کتاب ذبائح۔ ”رد المحتار“ معروف بہ ”شامی“ علامہ محمد بن عابدین شامی (متوفی ۱۲۵۲ھ) کی شہرہ
آفاق تالیف ہے۔ ۲۔ ”حیۃ الجنان“ جلد ۱، صفحہ ۲۷۰، بحث الجن۔ ”حیۃ الجنان“ علامہ دمیری (متوفی ۸۷۸ھ)
رحمہ اللہ کی بڑی مشہور اور بڑی مفید کتاب ہے۔

اولیاء و مشائخ کی نذر و منت: نذر چونکہ عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، اس لیے اگر اولیاء اللہ

و مشائخ اُمت کے نام کی نذر مانی جائے گی تو بھی حرام ہوگی۔

۱۔ مجدد الف ثانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

و حیوان را کہ نذر مشائخ سے کنند و بر سر قبر ہائے ایشان رفتہ آن حیوانات را ذبح سے نمایند، در روایات فقہیہ این عمل را نیز داخل شرک ساختہ اند و دریں باب مبالغہ نمودہ و این ذبح را از جنس ذبائح جنّ انگاشتہ اند کہ ممنوع شرعی است و داخل دائرہ شرک! اور جانور کو بزرگوں کی نذر کرتے ہیں اور ان کی قبروں پر جا کر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ فقہی روایت میں اس عمل کو شرک میں داخل کیا ہے اور اس باب میں مبالغہ کیا ہے اور اس ذبیحہ کو ذبائح جنّ کی جنس میں شمار کیا ہے جو کہ شرعاً ممنوع ہے اور دائرہ شرک میں داخل ہے۔

۲۔ فقہ حنفی کی مشہور و معتبر کتاب در مختار میں ہے:

وَاعْلَمُ أَنَّ النَّذْرَ الَّذِي يَقَعُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الْعَوَامِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَنَحْوِهَا الَّتِي ضَرَّاحُ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقْرِبًا إِلَيْهِمْ فَهِيَ بِالْأَجْمَاعِ بَاطِلٌ وَحَرَامٌ. (جلد اول مطلب فی النذر...)

جان لے کہ بلاشبہ وہ منت جو اکثر عوام وفات یافتہ بزرگوں کے لیے مانتے ہیں اور روپے پیسے اور چراغ اور تیل وغیرہ اولیاء اللہ کی مزارات پر ان کے تقرب کی نیت سے چڑھاوے چڑھاتے ہیں سو یہ بالاتفاق باطل اور حرام ہیں۔

۳۔ خاتم الفقہاء علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

لَوْ جُوهَ مِنْهَا أَنَّهُ لِلْمَخْلُوقِ وَالنَّذْرُ لِلْمَخْلُوقِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَةُ لَا تَكُونُ لِلْمَخْلُوقِ وَمِنْهَا أَنَّهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّ الْمَيْتَ يَتَصَرَّفُ فِي الْأُمُورِ دُونَ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْتِقَادَهُ ذَلِكَ كُفْرًا

کئی وجوہ سے (باطل و حرام ہے) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے لیے

۱۔ مکتوبات امام ربانی، جلد ۳، مکتوب ۴۱۔ ۲۔ شامی جلد ۲، کتاب الصوم، مطلب فی النذر.....

نذر جائز ہی نہیں کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت مخلوق کے لیے ہے ہی نہیں، دوسری یہ ہے کہ اس کا گمان ہے کہ میت کاموں کا اختیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا، سوا اس کا یہ عقیدہ کفر ہے۔

۴۔ بحر الرائق جلد ۲ ص ۳۲۰ مطبوعہ مطبعہ علمیہ مصر میں بھی یہ الفاظ ہیں۔

۵۔ فتاویٰ ہندیہ (جلد ۱ ص ۱۱۱)، نہر الفائق، فتاویٰ الخیریہ (جلد ۱ ص ۱۸)، بحر الرائق (جلد ۲ ص ۳۲۰)، ۳۲۱، در مختار (جلد ۱ ص ۱۵۵) میں اولیاء اللہ کی نذر و منت ماننے کو حرام باجماع المسلمین^۱ باطل بالاجماع، بالاجماع باطل و حرام، باطل اجماعاً، حرام بالاجماع کہا گیا ہے۔^۲

سید الرسل کے لیے بھی نذر و ذبح حرام ہے:

حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نذر و ذبح ناروا ہے۔

قَالَ صَاحِبُ الرُّوْضِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا ذَبَحَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ
قَالَ الشُّوْكَانِيُّ وَإِذَا كَانَ لِسَيِّدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَرَ عِنْدَهُ
فَكَيْفَ بِذَبْحِ لِسَائِرِ الْأَمْوَاتِ.^۳

”صاحب الروض“ نے کہا کہ مسلمان نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کیا، کافر ہو گیا۔ شوکانی نے کہا: جب سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کرنا کفر ہے تو دوسرے بزرگوں کے لیے ذبح کرنا کیسے (جائز) ہوگا۔

تنبیہ: حضرات فقہاء اسلام نے کسی بھی مخلوق کی نذر اور منت کو بالاجماع باطل اور حرام لکھا ہے۔ تو اب اولیاء اللہ کی نذر و منت ماننا اور ان کے نام پر جانور ذبح کر کے ان کا تقرب حاصل کرنا اور اس فعل کو جو باجماع المسلمین قطعی حرام ہے، نہ صرف مباح و حلال بلکہ ذریعہ عبادت سمجھنا تو کفر ہوگا۔ کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا تو شریعت میں کفر ہے۔

۱۔ شرح فقہ اکبر، فتاویٰ عالمگیری، خلاصۃ الفتاویٰ میں ہے:

مَنْ اعْتَقَدَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَعَلَى النَّدْبِ يَكْفُرُ. (شرح فقہ اکبر، ص ۲۳۷)

جس نے حرام کو حلال یا حلال کو حرام سمجھا وہ کافر ہو گیا۔ (عالمگیری احکام المرتدین)

^۱ یہ لفظ ”بحر الرائق“ کے ہیں۔ ج ”الدر الفریذ“ ص ۹۶، ۹۹، ۱۰۳۔ ج ایضاً ص ۹۱۔

۲۔ حضرت ملا علی قاری دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

مَنْ فَعَلَ مَا هُوَ حَرَامٌ بَيِّنٌ خَلَالًا فَقَدْ كَفَرَ. (شرح فقہ اکبر، ص ۲۳۹)
جس نے حرام کو حلال یقین کر کے کیا بلاشبہ وہ کافر ہو گیا۔

۳۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے: (جلد ۲، ص ۱۸۲، کتاب الایمان)

ان استحلالات الحرام کُفْرًا۔ بلاشبہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔

کسی صاحب قبر ولی، امام یا نبی کے نام پر نذر ماننا اور جانور ذبح کرنا تو کہاں جائز ہوگا، مطلق قبر کے نزدیک

ذبح کرنے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

وَمَا ذَبَحْ عَلَى النُّصَبِ. (۶۔ مائدہ، ع ۱۸)

اور جو جانور پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے، (تمہارے اوپر حرام ہے)

اگرچہ زبان سے غیر اللہ کے لیے نذر نہ بھی کیا ہو، لیکن شرک کے کسی تھان پر ذبح کیا

جائے اور نیت غیر اللہ کی رضا جوئی ہو تو وہ ذبیحہ حرام ہے۔ حرمت کا مدار نیت خبیثہ پر ہے۔ اس

نیت خبیثہ کا اظہار قول خبیث سے ہو یعنی کہہ دے کہ یہ جانور فلاں بزرگ کا ہے تو بھی حرام ہے

اور خواہ فعل سے اس نیت کا اظہار ہو کہ کسی قبر یا تھلے یا جھنڈے یا درخت یا مکان یا نشان پر ذبح

کرے جو غیر اللہ کا تھان یعنی پرستش گاہ ہے، تو بھی حرام ہے۔

نذر و منت کی ہر نوع و ہر قسم عبادت ہے اور صرف اللہ واحد کا حق! ایک اللہ کے سوا

خلاصہ: کسی کے لیے نذر، ذبح وغیرہ حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اسے جائز و روا سمجھنے

والا کافر و مرتد ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج!

۶۔ شرکِ خفی، ریا:

”شرک فی العبادت“ کی ایک قسم ”ریا“ ہے، جسے لسان نبوت سے شرکِ خفی فرمایا گیا

ہے، اور شرکِ اصغر بھی! شرک کی یہ قسم بڑی خطرناک ہے، اور انسان عموماً اس میں مبتلا ہو جاتا

ہے۔

غیر اللہ کے لیے تو عبادت حرام اور شرک ہے ہی، مگر عبادت تو اللہ واحد کے لیے ہو، لیکن اللہ کی رضا کے ساتھ غیر اللہ کی خوشنودی بھی اگر شامل ہو جائے اور عبادت گزار یہ چاہے کہ لوگ اس کی عبادت دیکھ کر اس سے خوش ہوں، داد دیں، اس کی تعریف کریں، تو یہ ریا ہے، اور ریا شرک ہے۔ اللہ کی غیرت اسے بھی برداشت نہیں کرتی کہ عبادت تو اسی کی ہو لیکن نیت لوگوں کو دکھلانے کی ہو۔ جب تک نیت و ارادہ اور عمل ہر لحاظ سے عبادت صرف ایک اللہ کے لیے نہیں ہوگی وہ مردود ہوگی۔ جب عبادت ایک اللہ کا حق ہے تو عبادت سے مقصود بھی ایک اللہ کی رضا ہو۔

۱۔ بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: میں تمہیں اس کی خبر نہ دے دوں جس کا مجھے تمہارے متعلق دجال سے بھی زیادہ خوف ہے۔

ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور فرمائیے! فرمایا:

وہ شرک خفی ہے (مثلاً) ایک شخص نماز پڑھے اور وہ اپنی نماز کو اس لیے لمبا کر دے

کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ رواہ ابن ماجہ (مشکوٰۃ المصابیح "باب الریاء)

ریا کاروں کا انجام؟ جہنم! اگر عمل و عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے اور نیت ریا، دکھاوا اور نمود و نمائش ہے تو پھر بڑے سے بڑے

عمل اور عظیم ترین کردار پر بھی ذرہ برابر اجر نہیں ملے گا، الٹا ریا کار کو منہ کے بل گھیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔

بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ("مشکوٰۃ المصابیح" کتاب العلم)

قیامت میں سب لوگوں سے پہلے اس شخص کا فیصلہ ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ وہ کہے گا: میں تیری راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کذبت ولا کنک قاتلت لان یقال جری فقد قبل۔ تو جھوٹا ہے، تو تو اس نیت سے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، سو تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھیٹا جائے حتیٰ کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا۔ وہ کہے گا: علم پڑھا اور پڑھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو جھوٹا ہے، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، چنانچہ تجھے عالم اور قاری کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال

دیا جائے گا۔ (اسی طرح) ایک صاحب مال و دولت کو لایا جائے گا۔ وہ کہے گا: میں نے تیرے لیے ہر موقع اور ہر راستہ میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ سو تجھے سخی کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (رواہ مسلم)

عبرت! عبرت! عبرت!!! معاذ اللہ۔ غور فرمائیے! اعمال بہترین ہیں، عظیم و جلیل ہیں، فی سبیل اللہ جہاد و قتال اور پھر شہادت

ہے، کتاب اللہ کی تعلیم و تعلم اور قرأت و تجوید ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ تینوں اعلیٰ سے اعلیٰ کام ہیں۔ مگر چونکہ نیت خالص نہیں، لوجہ اللہ نہیں، اللہ کی رضا مطلوب نہیں، مطلوب و مقصود ریا، شہرت طلبی، داد خواہی اور اپنی مدح و ستائش ہے، لہذا آخرت میں انجام ذلت و رسوائی اور جہنم ہے۔

۷۔ اتباع ہو او ہوس، (شرک عظیم):

شرک کی ایک عظیم اور خطرناک قسم من کی پوجا ہے۔ انسان اللہ کی رضا و اطاعت چھوڑ کر اپنے نفس کی رضا جوئی اور خواہشات نفسانی کی اطاعت کرے۔ یہ نفس کی پوجا اور ہوا و ہوس کی عبادت ہے۔ ارشاد فرمایا: أَسْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. (جاثیہ ع ۳۴) یعنی کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے..... سومنات کے مندر کو ڈھا کر سونے، چاندی، چوڑے مٹی کے بت توڑنا آسان ہے، مگر من کے مندر کو ڈھانا اور ہوس و ہوا کے حسین بت پاش پاش کرنا بہت مشکل ہے۔

انتباہ: آجکل اتباع سنت سے منہ موڑ کر لوگوں نے دین میں جو بدعات اور من مانی عبادات ایجاد کر رکھی ہیں، یہ سب نفس شریک کی پوجا پاٹ ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ آمین

⑨

سید ذرائع شرک



اسلامی توحید صرف زبان سے کلمہ پڑھ دینے کا نام نہیں۔ اسلام میں توحید کا تصور و تخیل جامد نہیں بلکہ زندہ اور متحرک ہے۔ ایک موحد مسلمان کی زندگی کے ہر گوشے کو نے سے قدم قدم پر توحید کے اثرات پھوٹتے اور انوار جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ اس کی پوری زندگی توحید سے متاثر ہوتی ہے، اور توحید اس کی ہستی کے طول و عرض اور اس کے کردار کے تانے بانے پر چھا جاتی ہے۔ آئندہ بحث میں آپ دیکھیں گے کہ شریعت محمدیؐ نے کس وسعت و ہمہ گیری کے ساتھ پوری انسانی زندگی کو انوار و لمعات توحید سے منور و مستعیر کرنے اور ظلمت شرک سے بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اور عقیدہ توحید نے قدم قدم پر ایک فرزند توحید کی رہنمائی و دستگیری فرمائی ہے۔

بیشمار احتیاطی اقدامات کی ایک جھلک: انس و جن کی خلقت و پیدائش کا مقصد و حید عبادت الہی ہے۔ وَمَا

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس لیے انسانیت کے ابدی دشمن شیطانِ رجم نے ہمیشہ شرک فی العبادت میں اللہ کے بندوں کو مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور محسنینِ انسانیت حضرات انبیاء علیہم السلام نے ہر کڑی سے کڑی مصیبت جھیل کر انسانیت کو وحدتِ عبادت کی دعوت دی ہے۔

ہادیٰ اعظم، سید الانبیاء امام الرسل، نبی خاتمِ ملیٰ سلیم نے تو ہر اس معمولی اور ادنیٰ رخنہ و سوراخ کو بند کر دیا ہے جہاں سے افسی شرک کے سر نکالنے کا احتمال تھا۔ شرائعِ سادہ میں سے سب سے آخری اور سب سے کامل و اکمل شریعت شریعت محمدی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) نے اس سلسلہ میں سید ذرائع کے طور پر جو احتیاطی اقدامات کیے ہیں، وہ بے شمار ہیں، ان کی اجمالی جھلک ملاحظہ ہو:

۱۔ تجاوز فی التعظیم

ہو جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر
جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر

شرک کا ایک ذریعہ تعظیم کی جائز حدود سے تجاوز تھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور
یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی تعظیم میں غلو کر کے شرک ہوئے۔ حضرت علیؑ نے اس
سلسلہ میں اپنی ذات سے متعلق شدید احتیاط فرمائی۔

۱۔ مدح و ستائش میں غلو و مبالغہ کی ممانعت:

اور اپنی شان میں مبالغہ
آمیزی سے تاکید کے ساتھ

صریح منع فرمادیا۔ ارشاد فرمایا: جس طرح نصاریٰ نے (حضرت عیسیٰ) ابن مریم کی مدح میں
مبالغہ آمیزی کی تم اس طرح میری مبالغہ آمیز تعریفیں نہ کیا کرو۔

فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَوْلُوا عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ.

میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا مجھے عبد اللہ اور رسول اللہ کہا
کرو۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

دوسری روایت میں ہے، ارشاد فرمایا: ”میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے اس مرتبہ سے اونچا
کرو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطاء فرمایا ہے۔ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. میں محمد بن
عبد اللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔

۲۔ سید تک کہنے کو برداشت نہ فرمایا:

آپ ﷺ بالیقین سید ولد آدم ہیں
سید الانبیاء والمرسلین ہیں، مگر حد ہو گئی

کہ اپنے آپ کو ”سید“ تک کہنے کی بھی اجازت نہیں دی۔

۳۔ اسم الہی کے ساتھ لفظی مساوات کی ممانعت:

شریعت محمدی میں
توحید الہی کو اتنا

اعلیٰ و ارفع مقام حاصل ہے اور شرک کے رختوں کو اس سختی سے بند کیا گیا ہے کہ اسم پاک کے

۱۔ ”مکتوٰۃ المصاحح“ باب الفاعل۔ ۲۔ ایضاً۔

ساتھ متصل کسی انسان کے نام کے ذکر کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ حضرت ﷺ نے اپنی ذات اور اپنے نام کے ذکر کی بھی اجازت نہیں دی۔ ایک دن کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا:

۱۔ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ. یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ ﷺ نے فوراً اس سے منع فرمایا اور فرمایا:

جَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَاءً قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ ۱

تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا۔ بس یوں کہو: جو صرف خدائے واحد چاہے۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی ذات کے محض عبارتی ذکر اور اس لفظی مساوات کو جب آپ ﷺ شرک فرما رہے ہیں تو اللہ کی عبادت میں کسی غیر کی شرکت و مساوات کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟

۲۔ ضمیر تک میں شرکت کی اجازت نہیں: حد ہو گئی کہ حضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضمیر میں اپنی

شرکت کو گوارا نہ فرمایا۔ بروایت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ:

ایک خطیب نے نبی ﷺ کے سامنے خطبہ دیا اور (دورانِ خطبہ) کہا: مَنْ يُطِيعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِيهِمَا يَعْنِي "جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے راہِ راست پالیا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی"، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

قُمْ أَوْ قَالَ إِذْهَبْ فَبِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۲

کھڑا ہو یا فرمایا چلا جا تو برا خطیب ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، خطیب نے کہا: اور جس نے دونوں کی نافرمانی کی وہ یقیناً گمراہ ہوا۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: تو برا خطیب ہے، تم یوں کہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

خطیب نے اطاعت کے سلسلے میں تو خدا اور رسول کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا لیکن معصیت

۱۔ رواہ ابن مردويه بنسائی وابن ماجه ابن عباس (تفسیر "ابن کثیر" آیت قَلَّا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا).

۲۔ "ترجمان السنن" جلد دوم حدیث نمبر ۷۲۳۔

کے سلسلے میں دونوں کو ایک ہی ضمیر سے ذکر کر دیا یعنی وَمَنْ يَعْصِيهِمَا كَمَا- اللہ کا محبوب رسول اللہ کے ساتھ اپنی اس ضمیر کی شرکت کو برداشت نہیں کر سکا اور انتہائی جوش و جلال میں آ کر فرمایا: تو برا خطیب ہے، نکل جا!

اللہ اللہ! رسول کا ضمیر منیر ضمیر (ہما) میں اللہ کے ساتھ شرکت اور لفظی مساوات کا تحمل نہ کر سکا اور ایک ہی ضمیر میں خدا اور رسول خدا کے جمع کرنے اور برابر رکھنے پر برہمی کا اظہار فرمایا۔ توحید اسلامی کے نبوی معیار کی بلندی ملاحظہ ہو کہ حضرت نے محض ضمیری شرکت و مساوات پر ناراضگی اور غیظ و غضب کا مظاہرہ فرمایا اور پھر امت میں اللہ کی صفات خاصہ علم و قدرت، اختیار و تصرف میں رسول اللہ تو رسول اللہ، اولیاء اللہ اور ماو شتا تک کو شریک کرنے کا تماشہ بھی ملاحظہ ہو۔

۵۔ اپنے لیے قیام تک کی بھی اجازت نہیں دی:

جہاں اہل عجم اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو سجدہ کرتے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے سجدہ اور زمین بوسی تو کجا! قیام تک کی اجازت نہیں دی، گو آپ کی شریعت میں کسی بزرگ کے لیے کھڑا ہونا حرام تو نہیں، لیکن اللہ کے محبوب رسول کسی کی تعظیم و تکریم کے لیے قیام کو اچھا نہیں سمجھتے، خصوصاً اپنی ذات اقدس کے لیے!

۱۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا سہارا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو گئے، تو فرمایا: لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُوا الْآعَاجِمُ يُعْظِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

(رواہ ابوداؤد) (مشکوٰۃ باب القیام)

اس طرح مت کھڑے ہوا کرو، جس طرح عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ (ابوداؤد)

۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: صحابہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص محبوب نہیں تھا (مگر اس کے باوجود)

وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ

رواہ الترمذی ("مشکوٰۃ" باب القیام)

جب وہ آپ کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بات آپ کو ناپسند ہے۔
(ترمذی)

محبت اور ہول: صحیح محبت یہی ہے کہ محبوب کی رضا تلاش کی جائے۔ اپنی خواہش کی تکمیل اور اپنی رضا جوئی ہوس ہے۔ محبت محبوب کی رضا جوئی کا نام

ہے۔ صحیح محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی خواہش پر اپنی خواہش و آرزو کو قربان کر دیا جائے۔

میل من سوئے وصال و میل او سوئے فراق

ترک کام خود گرفتار تا براید کار دوست!

شاعر کہتا ہے، میں تو اپنے دل میں محبوب کے وصل و وصال کی طلب اور تڑپ رکھتا ہوں، مگر میرے محبوب کا رجحان ہجر و فراق کی طرف ہے۔ اب میں نے اپنی آرزو کو ختم کر دیا ہے تاکہ محبوب کی خواہش پوری ہو۔

کسی کی عزت و تکریم کے لیے کھڑا ہونا فی نفسہ جائز ہے۔ مگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے حبیب و محبوب، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے محض اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ یہ محبوب کی رضا کے خلاف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جائز تعظیمی اقدام کو اچھا نہیں سمجھتے۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائز تعظیم کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ خطرہ ہے کہ کہیں فرط محبت میں جائز حدود سے تجاوز نہ ہو جائے، اور بعد میں آنے والے مسلمان افراط کا شکار ہو کر جائز تعظیم کی حدود سے بڑھ کر عبادت کے دائرہ میں داخل نہ ہو جائیں۔

۳۔ بروایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: جسے یہ بات پسند ہو،

أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرَّجَالُ قِيَامًا فَلْيَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواہ الترمذی و ابوداؤد)

کہ لوگ اس کے لیے ساکت و صامت کھڑے رہیں، پس چاہئے کہ وہ جہنم میں

اپنا ٹھکانہ بنا لے۔

۶۔ بادشاہوں کے سامنے کھڑا ہونے کی ممانعت:

شریعت نے بادشاہوں اور سرداروں کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونے سے منع فرمایا ہے۔ دست بستہ کھڑا ہونا تو بجائے خود! مطلق کھڑا ہونے سے روک دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب القیام۔

اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اسے شرک کے قریب قرار دیتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں:

فَإِنَّ الْعَجْمَ كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنْ تَقُومَ الْخَلْمُ بَيْنَ يَدَيِ سَادَتِهِمْ وَالرَّعِيَّةِ بَيْنَ
أَيْدِي مَلُوكِهِمْ وَهُوَ مِنْ إِفْرَاطِهِمْ فِي التَّعْظِيمِ حَتَّى كَادَ يَتَاخَمَ الشَّرْكَ
فَنَهَوْا عَنْهُ!

عجم کا معمول تھا کہ خدام اپنے سرداروں کے سامنے اور رعیت اپنے بادشاہوں کے
سامنے کھڑے رہتے تھے اور یہ تعظیم میں افراط ہے، یہاں تک کہ شرک کے قریب
ہے، لہذا اس سے روک دیا گیا۔

۷۔ انجناء (جھکنے) کی بھی اجازت نہیں: سجدہ و رکوع تو سجدہ و رکوع
اور قیام تو قیام! شریعت نے

بندے کو بندے کے آگے برائے نام جھکنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے ایک شخص اپنے بھائی یا دوست کو
ملتا ہے تو کیا اس (کی تعظیم) کے لیے (تھوڑے سا) جھکے؟ فرمایا: نہیں اِنْحَنِي لَهٗ قَالَ لَا.

(رواہ الترمذی)

حضرات فقہاء عظام رحمہ اللہ نے جھکنے سے نہ صرف منع فرمایا ہے بلکہ اسے فعل مجوس قرار
دیا ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری جلد ۲ کتاب الکرامیۃ، باب ۲۸)

۸۔ تقبیل ارض: سجدہ و رکوع، قیام و انجنا کی طرح کسی کی تعظیم کے لیے اس کے
سامنے بیٹھ کر زمین کو چومنا بھی شریعت میں حرام ہے کیونکہ یہ بھی
سجدہ کے مشابہ ہے۔

در مختار میں ہے:

وَكَذَا مَا يَفْعَلُونَهُ مِنْ تَقْبِيلِ الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيِ الْعُلَمَاءِ وَالْعِظْمَاءِ فَحَرَامٌ
وَالْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِهِ أَلْمَانٍ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ عِبَادَةَ الْوَلَدِ.

اور اسی طرح علماء و اعظم کے سامنے زمین بوسی حرام ہے۔ ایسا کرنے والا اور اس
فعل پر راضی رہنے والا دونوں گنہگار ہیں، کیونکہ یہ فعل بت کی پوجا کے مشابہ ہے۔

۹۔ نام تک میں تشبہ کی ممانعت: صفات و خصوصیات الوہیت میں شرک و شراکت کا سوال ہی کب پیدا ہوگا جبکہ اسماء

الہی کے ساتھ رسمی تشبہ کی بھی ممانعت فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ایک نام نافع ہے۔

۱۔ بروایت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ لڑکوں کا نام نافع رکھنے سے منع فرمایا گیا۔^۱

۲۔ ملک الاملاک، شہنشاہ ایک ذات پاک رب العزت ہے، صحیح بخاری (اور ابوداؤد) کی روایت ہے، قیامت میں عند اللہ سب سے زیادہ قبیح الاسم وہ شخص ہوگا جس کا نام ”ملک الاملاک“ ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک اغیظ^۲ و اخبث^۳ وہ شخص ہوگا جس کا نام ”ملک الاملاک“ ہوگا۔^۴

۱۰۔ غلام کو عبد نہ کہو: بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص (اپنے غلام کو) ”عبدی“ نہ کہے، کیونکہ کُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ، تم سب اللہ کے

بندے ہو۔ بلکہ اسے ”غلامی“ کہے یعنی میرا غلام، اور نہ ہی کوئی

۱۱۔ آقا کورب اور مولیٰ نہ کہو: غلام (اپنے آقا کو) ”ربی“ یعنی میرا رب، میرا مالک نہ کہے، بلکہ ”سیدی“ کہے یعنی میرا سردار۔

اور ایک روایت میں ہے:

لَا يَقُلُ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ مَوْلَايَ فَإِنَّ مَوْلَاكُمْ اللَّهُ. (رواہ مسلم)^۵

کوئی غلام اپنے سردار کو ”مولائی“ یعنی ”میرا مولا“ نہ کہے کیونکہ تمہارا مولا اللہ

(صحیح مسلم)

ہے۔

اللہ اکبر! شریعت محمدیؐ میں شرک کے بعید سے بعید رشتوں کو جڑ سے کاٹ دیا گیا اور اسماء الہی کے ساتھ اسی مشارکت و مشابہت کی بھی اجازت نہ دی گئی اور ”نافع“، ”حکم“ اور ”مملک“ الاملاک (شہنشاہ) نام رکھنے سے روک دیا گیا، بخلاف اس کے عند اللہ سب سے پیارے نام وہ فرمائے گئے جن میں عبدیت کی نسبت ذات پاک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا:

۱۔ ”مکلوۃ المصاحح“ باب الاسامی۔ ۲ یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آئے گا۔

۳ سب سے زیادہ خبیث، بدترین۔ ۴ ”مکلوۃ“ باب الاسامی۔ ۵ ایضاً۔ ۶ ایضاً۔

إِنْ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. (رواه مسلم) ۱
 تو جو اسماء حسنہ اللہ رب العزت کے ہیں، شریعت کا مزاج ان اسماء مبارکہ میں بھی کسی کی
 شرکت گوارا نہیں کر سکتا۔ مخلوق کا یہ حق نہیں ہے کہ خالق کے اسماء معروفہ مخصوصہ میں سے کسی نام
 پر اپنا نام رکھے، نہ کنیت! جب خالق اور مخلوق کے درمیان ذاتی اور صفاتی شرکت جائز نہیں، تو
 اسی شرکت کب برداشت کی جاسکتی ہے؟

۱۳۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے:

قبروں کو سجدہ کرنا تو شرک ہے لیکن قبر کو نہیں، قبر کی طرف منہ کر کے خدا کا سجدہ بھی حرام
 ہے، کیونکہ اس میں قبور کی تعظیم ہے اور یہ عبادتِ قبور کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَقَالَ لَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ أَنْ يَتَّخِذُوا مَعْبُودًا وَأَنْ يُفَرِّطُوا
 فِي تَعْظِيمِهَا بِمَا لَيْسَ بِحَقِّ فَيَحَرِّقُوا دِينَهُمْ كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْكِتَابِ وَهُوَ
 قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ
 أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ۱

نبی کریم نے ارشاد فرمایا: قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ قبروں کو
 معبود بنانے کا ذریعہ ہے اور اس میں قبروں کی تعظیم ناحق ہے۔ یہ دین میں تحریف
 ہے اور اہل کتاب کا عمل۔ اور اسی سلسلہ میں ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یہود و
 نصاریٰ پر لعنت فرمائی، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔

تو قبر کو سجدہ کرنا تو رہا بجائے خود! قبر کی طرف منہ کر کے خدا کی نماز ادا کرنا بھی موجب
 لعنت ہے، کیونکہ یہ ان قبور کی عبادت اور قبر والوں کو معبود بنانے کا ذریعہ ہے۔ اور ان بزرگوں
 کی تعظیم میں افراطِ ناحق ہے، یہ دین میں تحریف ہے، جیسا کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ نے کیا
 اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
 مَسَاجِدَ.

۱ "حجۃ اللہ البالغہ" جلد ۲، ص ۱۲۶۔

۱۴۔ تقرب الہی کی نیت سے قبر کے نزدیک نماز حرام ہے:

نماز اللہ کے لیے پڑھی جائے، لیکن اولیاء و مشائخ کی مزاروں پر پڑھی جائے، یہ بھی حرام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے شرک خفی سے تعبیر فرماتے ہیں۔ تحریر فرماتے ہیں: "احبار و رہبان" (علماء و مشائخ) کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ:

بَانَ يُسَجَّدُ لَهَا كَالْأَوْثَانِ وَهُوَ الشِّرْكَ الْجَلِيّ أَوْ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
بِالصَّلَاةِ فِي تِلْكَ الْمَقَابِرِ وَهُوَ الشِّرْكَ الْخَفِيّ وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

بتوں کی طرح قبروں کو سجدہ کیا جائے، یہ شرک جلی ہے، یا ان قبروں میں تقرب الی اللہ کی نیت سے نماز پڑھی جائے اور یہ شرک خفی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ کا یہی مفہوم و معنی ہے۔

اگر قبروں کو سجدہ کیا جائے تو وہ شرک جلی ہے، لیکن سجدہ تو خدا کو کیا جائے نماز خدا کی پڑھی جائے، لیکن بزرگوں کی قبروں کے نزدیک پڑھی جائے، تاکہ برکت ہو، ان بزرگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اور اجر و ثواب میں زیادتی ہوگی، تو یہ شرک خفی ہے۔ شاید اسی لیے قبروں میں مقبروں میں نماز حرام ہے۔

بروایت ابو سعید رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا:

۱۵۔ مقبروں میں نماز ممنوع ہے:

ساری زمین مسجد ہے إِلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَامُ

(ابوداؤد، ترمذی، دارمی) ^۱

اللہ کی ساری زمین پر حضرت انسان کے لیے نماز جائز ہے، مگر مقبرہ میں نماز جائز نہیں، جیسے حمام کے اندر جائز نہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مقامات پر نماز سے نبی فرمائی، ان میں سے ایک مقبرہ ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ) ^۲

۱ "حجۃ اللہ البالغۃ" جلد اول آداب المساجد۔

۲ "مشکوٰۃ المصابیح" باب المساجد والمواضع المصلیٰ۔ ص ایضاً۔

۱۶۔ نمازِ جنازہ: نمازِ جنازہ بھی ایک نماز ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے مگر نماز کی اصل

روح رکوع اور سجدہ کا نام و نشان تک نہیں۔ شاید شریعتِ محمدیؐ اس کو برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک انسان کے سامنے رکوع و سجود کیا جائے خواہ وہ انسان میت کیوں نہ ہو۔ جس شریعتِ مقدسہ میں نمازِ جنازہ کے اندر سجدہ و رکوع کی ممانعت ہو کیا اس شریعت میں قبر کو سجدہ کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ نمازِ جنازہ میں وہ محبوب و معظم شخصیت صرف بے جان جسد ہے۔ اور اب تو وہ جسد بے جان زمین کے اندر دفن ہے۔

۱۷۔ سترہ: گو مردہ سہی بہر حال یہ انسان تو تھا، شریعتِ محمدیؐ تو شرک کا اس شدت سے سدباب کرتی ہے کہ نماز پڑھتے وقت سترہ کی خشک لکڑی بھی نمازی کے عین سامنے گاڑنے کی اجازت نہیں دیتی، ذرا دائیں بائیں ہونی چاہئے۔

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف نماز پڑھتے دیکھا تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس (سترہ) کو اپنی دائیں یا بائیں جانب کر لیا کرتے تھے وَلَا يَضْمُدُّ لَهٗ صَمَدًا اور اس کو ٹھیک اپنے سامنے نہ رکھتے۔

شرعی مصالح کے پیش نظر کسی چیز کو..... جہاں سامنے دیوار نہ ہو..... سامنے سترہ بنانا ضروری ہے۔ مگر اسے بالکل سامنے سجدہ کی جگہ پر کھڑا نہ کیا جائے۔ ذرا دائیں بائیں کر لیا جائے تاکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے والوں سے تشابہ بھی پیدا نہ ہو اور نہ ہی کسی دیکھنے والے کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا شبہ ہو۔

۱۸۔ نوروز کی تعظیم کفر ہے: غیر اللہ کی تعظیم میں غلو سے روکنے میں شریعت نے اتنی شدت کی ہے کہ کفار و مشرکین کی خوشی اور عید

کے دن کی تعظیم کو بھی کفر قرار دیا ہے۔

۱۔ حضرت امام ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَبَدَ اللَّهَ خَمْسِينَ سَنَةً ثُمَّ جَاءَ يَوْمَ النِّيروزِ وَاهْدَى إِلَى بَعْضِ

المشركين بيضة يريده تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله.

اگر کسی شخص نے پچاس سال اللہ کی عبادت کی پھر نوروز آیا اور اس نے بعض

۱۔ ابوداؤد باب اذا صلتى الى سارية.....

شرکین کو ایک اثرہ بطور تحفہ دیا، اس دن کی تعظیم کے پیش نظر، تو وہ کافر ہو گیا اور اس کا تمام عمل اکارت گیا۔

امام ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ کی یہ روایت فتاویٰ قاضی خاں (جلد ۴، ص ۸۸۴)، خزائن المصنفین (جلد ۱، ص ۴۷۹) بزازیہ (جلد ۶) تکریم عمدة الرعیة (جلد ۴، ص ۳۵) میں منقول ہے۔ (الدر الثرید، ص ۹۵)

۲۔ اور شرح فقہ اکبر (ص ۲۳۰) میں ہے:

اگر کسی نے نوروز کے دن کسی کو ہدیہ دیا و ارادہ تعظیم النوروز اور نیت اس سے نوروز کی تعظیم ہے، کفار، تو وہ کافر ہو گیا۔ (الدر الثرید ص ۹۵)

۲۔ حلف (قسم)

اسی غیر اللہ کی تعظیم میں افراط کی بناء پر غیر اللہ کی قسم شریعت میں روا نہیں۔ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی تعظیم بلیغ، اس کی غیر معمولی عظمت و رفعت کے احساس و یقین کی بناء پر کھائی جاتی ہے، لہذا غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔

پھر قسم کھانے والا، جس کی قسم کھاتا ہے گویا اسے اپنے عہد و میثاق پر شاہد و گواہ بلکہ ضامن و کفیل ٹھہراتا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا.

(نحل، رکوع ۱۳)

اور قسموں کو ان کے مضبوط کرنے کے بعد مت توڑو اور بیشک تم اللہ کو اپنے اوپر

ضامن بنا چکے ہو۔

لہذا قسم اللہ رب العزت کی کھائی جائے۔ غیر اللہ کی حلف اٹھانا، قسم کھانا دین اسلام میں ممنوع و حرام ہے اور اسے شرک قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا:

كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللَّهِ شِرْكٌ. ("متدرک حاکم" جلد اول، ص ۱۸)

اللہ کے سوا کسی کے نام پر قسم کھائی جانے والی ہر قسم شرک ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔

مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ^۱

(متفق علیہ)

جس نے قسم کھانی ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔

(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں:

لِيَخْلِفَ خَالِفاً بِاللَّهِ أَوْ يَسْكُتَ^۲

قسم کھانے میں سنتِ رسول ﷺ: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے متعلق حضرت

سعد (بن ابی وقاص) رضی اللہ عنہ کی روایت ہے

کہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. فرمایا یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ (قبضہ قدرت) میں میری جان ہے۔^۳ گو عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے یہی الفاظ ہوتے تھے لیکن اکثر دفعہ آپ نے ان الفاظ کی جگہ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ فرمایا، یعنی قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے۔

۲- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ ہوتی تھی یعنی اس خدا کی قسم جو دلوں کو بدلتا ہے۔

۳- آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهِ کے لفظ سے بھی قسم کھاتے تھے۔^۴

کعبۃ اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے: اللہ رب العزت کی ذات پاک کے

بغیر کسی کی بھی قسم جائز نہیں، حتیٰ کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور کعبۃ اللہ کی قسم بھی ممنوع ہے۔

۱- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کی قسم کھاتے سنا تو آپ نے اس سے فرمایا:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ^۵

۱ "مشکوٰۃ المصابیح" باب الایمان والاندور۔ ۲ ترمذی باب فی کربیۃ الخلف بغیر اللہ۔

۳ صحیح بخاری باب کیف کانت یمین النبی ص۔ ۴ ۵۶ ایضاً۔

۵ "ابوداؤد" باب فی کربیۃ الخلف بالآباء۔

میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی، اس نے شرک کیا۔

۳۔ قبر اور فتنہ قبر

قبر نے شرک کی اشاعت میں اہم کردار انجام دیا ہے۔ قبر کا فتنہ، عظیم فتنہ ہے۔ اس فتنہ کے سدباب میں شریعت محمدیؐ نے سعی بلیغ فرمائی۔ نبی کریم ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں اس فتنہ عظیم کا قلع قمع فرمایا اور بوقت وفات زندگی پاک کے آخری سانس، آخری لمحہ تک آپ اس فتنہ کی بیخ کنی فرماتے رہے۔

۱۔ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے دونوں فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات کا وقت آیا تو آپ ﷺ اپنے جبہ کو اپنے منہ پر ڈال دیتے تھے، جب آپ کا جی گھٹنے لگتا تو اسے منہ سے اٹھاتے اور فرماتے:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يَحْذِرُ مَا صَنَعُوا^۱

یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس ارشاد سے حضور ﷺ ان لوگوں کے کردار سے خوف کھا رہے تھے (کہ کہیں میری امت ان حرکات میں مبتلا نہ ہو۔)

۲۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے انہی حضرات سے یہ روایت کی ہے، آخری الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، ابن سعد کی روایت کے آخری الفاظ میں يُحْذِرُهُمْ مِثْلَ مَا صَنَعُوا^۲، ”سیرت ابن ہشام“ (جلد ۴ ص ۳۱۶) کے الفاظ ہیں: يُحْذِرُ مِنْ ذَنْبِكَ عَلَى أُمَّتِهِ، آپ اپنے اس ارشاد سے اپنی امت کے بارے میں خوف کھا رہے تھے۔

۳۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آخری کلام یہ فرمایا:

۱۔ صحیح بخاری باب مرض النبی ﷺ ووقایع صحیح مسلم باب النہی عن بناء المسجد علی القبور۔

۲۔ ”طبقات ابن سعد“ جلد ۴ ص ۲۴۰ و ص ۲۵۸۔

قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ۚ

یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔

۴۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہے مگر اس میں نہ آخری کلام کا ذکر ہے اور نہ ہی وَالنَّصَارَى کا لفظ ہے۔^۱

۵۔ عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ! اَشْتَدُّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ۚ

اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے، ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب ہے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔

۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی:

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ۚ اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اس قوم پر اللہ نے لعنت کی، جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔

وَتَنُّ: ہر وہ چیز جس کی خدا کے سوا پرستش کی جائے، وثن ہے۔ موتی ہو یا پتھر، قبر ہو یا جھنڈا۔^۵

امام الرسل، خاتم الانبیاء علیہ وسلم السلام کی مزار مقدس کی اگر عبادت کی جائے گی تو وہ بھی

وثن میں شمار ہوگی۔ لسان رسالت سے قبر پاک کے لیے اُس صورت میں وثن یعنی بت کا لفظ

صادر و ثابت ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی عبادت سے روکا ہے، وہاں اُسے عید، میلہ

بنانے سے بھی بھراحت منع فرمایا ہے۔

۷۔ بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَواتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا هَا قُبُورًا. (متفق علیہ)^۱

اپنے گھروں میں بھی (نفل) نمازیں پڑھا کرو، انہیں قبریں نہ بناؤ۔

۱ "موطا امام مالک" کتاب الجامع و "طبقات" جلد ۲، ص ۲۵۳۔ ۲ ابوداؤد باب البناء علی القبر۔

۳ "موطا امام مالک" باب العمل فی جامع الصلوٰۃ و "طبقات" جلد ۲، ص ۲۴۱۔

۴ "طبقات ابن سعد" جلد ۲، ص ۲۴۲۔ ۵ "لغات القرآن" جلد اول، ص ۲۹۳۔

۶ "مشکوٰۃ المصابیح" باب المساجد۔

۸۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلِّغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

(رواہ النسائی)

تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اور میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور میرے اوپر درود بھیجو، بلاشبہ تمہارا درود مجھے پہنچ جائے گا تم جہاں بھی ہو۔

غور فرمائیے! قبروں پر نماز پڑھنے کی کس شدت سے ممانعت ہے کہ ”تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ“ یعنی جس طرح قبروں پر کوئی نماز نہیں پڑھتا، یہ نہ ہو کہ تم گھروں میں بھی نماز نہ پڑھو۔ اور میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ عید کے معنی ہیں مسرت اور خوشی کا دن، بار بار لوٹ کر آنے والا، اجتماع کا دن۔ المنجد میں ہے کہ ”عید کو اس لیے عید کہتے ہیں کہ وہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، ان بیانات کی روشنی میں ہمارے محاورہ میں عید کا صحیح ترجمہ ہوا ”میلہ“۔ لفظ ”میلہ“ میں مندرجہ بالا چاروں لغوی تصریحات کی رعایت پائی جاتی ہے۔

خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس روضہ اطہر، گنبد خضراء کی زیارت انتہائے سعادت ہے، لیکن اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ہدیہ صلوة و سلام پیش کرنے کے لیے ہر وقت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آمد و رفت کی ضرورت نہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی ہو وہیں سے ہدیہ صلوة پیش کرے، درود شریف پڑھے تو وہ ذات پاک تک بواسطہ ملائکہ پہنچا دیا جاتا ہے۔

۹۔ بروایت حضرت جناب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے فرمایا:

أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

اچھی طرح سن لو! تم سے پہلے لوگ (یہود و نصاریٰ) اپنے نبیوں اور صالحین (اولیاء اللہ) کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔

۱۔ ایضاً باب الصلوة علی النبی، ابوداؤد، باب زیارت القبور میں بھی یہ روایت ہے

۲۔ ”مفردات القرآن“ از امام رافع اصنہانی ترجمہ لفظ ”عید“۔

۳۔ ”لغات القرآن“ جلد ۴، ص ۳۷۵، بحوالہ ”نزہت القلوب“۔

۴۔ ”صحیح مسلم“ باب النبی عن بناء المسجد علی القبور ”طبقات“ جلد ۲، ص ۲۳۰۔

غور فرمائیے! حضرت ملی اللہ علیہ السلام نے کس شدت و تکرار کے ساتھ اپنی حیاتِ طیبہ کے آخری لمحاتِ مقدسہ میں فتنہ قبر سے اپنی اُمت کو متنبہ فرمایا، قبروں پر نماز پڑھنے سے باصرار منع فرمایا، یہود و نصاریٰ کے ملعون و مردود ہونے کی بار بار اطلاع دی۔ اس لیے کہ انہوں نے حضراتِ انبیاء و صلحاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا اور وہاں سجدے کرنے لگے تھے۔

قبرِ اقدس کو حجرہ صدیقہ میں بنانے کی وجہ!

حضور ملی اللہ علیہ السلام کی مزار پر انوارِ محبوبہ محبوبہ خدا حضرت طاہرہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مقدسہ کے اندر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کھلی جگہ پر مزار پر انوار ہوتی تو دوسرے حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے مزاراتِ مقدسہ کی طرح اس کے بھی سجدہ گاہ بن جانے کا خطرہ تھا۔ اسی خطرہ کے پیش نظر حضور ملی اللہ علیہ السلام نے آخر وقت فرمایا:

اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ لَا ذَلِكَ لَا بَرَزَ قَبْرَهُ غَيْرَ
انہ خشی أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا ۝

یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا: اگر حضور کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ بنائے جانے کا خوف نہ ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کھلی جگہ پر ظاہر بنائی جاتی، چونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ (دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرح) حضور ملی اللہ علیہ السلام کی قبر پاک کو مسجد بنا لیا جاتا (اس لیے مزار مقدس کو حجرہ صدیقہ کے اندر بنایا گیا)۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت سے بھی اسی حقیقت کی نقاب کشائی ہوتی ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

اتَّمَرُوا أَنْ يَدْفَنُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَاضِعًا رَأْسَهُ فِي حُجْرِي إِذْ
قَالَ قَاتِلِ اللَّهُ أَقْوَامًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَاجْتَمَعَ رَأْسُهُمْ أَنْ
يَدْفَنُوهُ حَيْثُ قُبِضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ۝

۱۔ صحیح مسلم، باب مرض النبی ووفاته صحیح مسلم باب النبی من بناء المسجد علی القبور۔

۲۔ ”طبقات ابن سعد“ جلد ۲، ص ۲۴۱۔

صحابہؓ نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد (نبوی) میں دفن کریں، اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: (عین وفات کے وقت) جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی میں سر اقدس رکھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا: ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء (علیہم السلام) کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، لہذا مسجد میں حضور کو دفن نہ کرو مبادا حضور کی قبر پاک کو بھی لوگ سجدے کرنے لگیں..... صحابہؓ کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضور کو اسی جگہ دفن کریں جہاں آپ نے وفات پائی، (حضرت عائشہؓ کے گھر میں)۔

دعائے رسول کی بدرجہ کمال قبولیت: نبی الانبیاء کی دعا، آخر وقت آخری سانس کی دعا، پھر جوش و جذبہ

توحید پر مبنی دعا! بارگاہ الہی میں اس درجہ مقبول و مستجاب ہوئی کہ اللہ رب العزت نے کئی حجابوں اور پردوں کے اندر قبر رسول کو مستور کر دیا۔ حجرہ صدیقہ طاہرہ، عہد صحابہ کی تعمیر، پھر سلطان نور الدین رگی کی تعمیر، پھر بعد کی مضبوط و مستحکم متعدد تعمیریں، اللہ تعالیٰ نے مزار رسول کے چہرہ پر کئی نقابیں ڈال دیں تاکہ کوئی مسلمان قیامت تک مزار مقدس کو دیکھ بھی نہ سکے۔

محبوب کبریا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حیات طیبہ کے آخری لمحے دعا کی، کہ الہی! میری قبر کو بت نہ بنانا یعنی اسے سجدہ گاہ نہ بننے دینا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی خطرہ کے پیش نظر اُم المومنین طاہرہ رضی اللہ عنہا کی تحریک پر ان کے گھر میں حضرت کی مزار بنائی۔ جب تک حبیبہ حبیبہ خدا اُم المومنین طاہرہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں، خود پہرہ دیتی رہیں اور کوئی شخص آپ کی اجازت کے بغیر قبر پاک کی زیارت نہیں کر سکتا تھا، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

يَا اِمَامَ اِكْشِفْنِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبِيهِ فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مَشْرَفَةَ وَلَا لَاطَةَ مَطْوُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرَضَةِ الْحُمْرَاءِ.

(رواہ ابو داؤد)

اے میری ماں! میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صاحبین (حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ) کی قبریں ظاہر کر دے، چنانچہ انہوں نے (حجرہ کا

۱۔ "مکلوۃ الصالح" باب دفن نبی، "مستدرک حاکم" کتاب الجنائز، جلد اول، ص

دروازہ کھول کر) تینوں قبروں کو سامنے کر دیا۔ وہ نہ تو بہت بلند تھیں اور نہ ہی زمین سے بالکل ملی ہوئی تھیں (یعنی تھوڑی سی کوئی بالشت بھر اونچی تھیں) ان پر سرخ کنکریاں مٹی پھھی ہوئی تھی (یعنی مٹی کے گارے سے لپی ہوئی بھی نہیں تھیں)۔

تو جب تک حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں وہ خود حفاظت و پاسبانی کا فرض انجام دیتی رہیں، ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت و نگرانی فرمائی اور ایسا انتظام کر دیا کہ قیامت تک کوئی عام آدمی قبر نبویؐ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، سجدہ تو کوئی کیا کرے گا۔ جو خوش نصیب دیکھے گا، روضہ اظہر، سبز گنبد کو دیکھے گا، مزار مقدس تک تو کسی کی نگاہ کی رسائی ممکن ہی نہیں۔

گویا اللہ رب العزت نے فرمایا: میرے حبیب! تو نے ہم سے آخر دم یہ دعا کی کہ ”میری قبر کو لوگوں کی عبادت سے بچانا، اسے بت نہ بنانا“ اور ہم اسے کسی کو دیکھنے تک نہیں دیں گے۔ جب کوئی دیکھے گا ہی نہیں، تو عبادت کیا کرے گا؟

حضرت دانیالؑ کی مزار چھپا دی گئی: اسی خطرہ عبادت کے پیش نظر حضرت دانیالؑ کی قبر چھپا دی گئی۔

۱۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت) میں عراق کے اندر (حضرت) دانیالؑ کی قبر پائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے،

أَمَرَ أَنْ يَخْفَى عَنِ النَّاسِ وَإِنْ تَدْفَنَ تِلْكَ الرَّقْعَةَ الَّتِي وَجَدُوهَا عِنْدَهُ
فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَلْأَمِ وَغَيْرِهَا

حکم دیا کہ اسے لوگوں سے مخفی رکھو، اور جو رقعہ ان کے پاس سے ملا تھا، اس کے دفن کر دینے کا حکم دیا۔ اس رقعہ میں جنگوں وغیرہ کے متعلق باتیں تھیں۔

اللہ کے ایک نبی کی قبر ہے، ساتھ ہی ان کا ایک مکتوب ہے، مگر قتبہ قبر کے خوف و خطر سے اللہ کے پیغمبرؐ کی مزار پاک کو مستور و مخفی کر دیا گیا۔ بایں حد! کہ اس دن کے بعد اس کا کہیں نشان بھی نہ ملا۔

۲۔ امام المغازی محمد بن اسحاقؒ اپنی مغازی میں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: جب ہم نے تاتار کو فتح کیا، تو ہر مزار کے بیت المال میں ایک تخت پایا، جس پر ایک شخص کی

۱۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورہ کہف۔

میت تھی جس کے سر کے قریب ایک صحیفہ تھا۔ ہم اس صحیفہ کو اٹھا کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ انہوں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس کا عربی میں ترجمہ کرایا۔ وہ شخص (جن کی میت تخت پر تھی) حضرت دانیال علیہ السلام تھے، جن کی میت میں کوئی تغیر رونما نہیں ہوا تھا۔ ہم نے دن میں تیرہ متفرق قبریں کھودیں۔ رات کو انہیں ایک قبر میں دفن کر کے سب قبروں کو برابر کر دیا، تاکہ لوگوں کو عام قبریں معلوم ہوں اور وہ اس خاص قبر کو کھود (کر نعش کو نکال) نہ لیں۔ **للتعمیمة علی الناس ولا ینبشونہ!**

اندازہ فرمائیے حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار نے ایک پیغمبر خدا کی قبر تک کو بے نام و نشان کر دیا تاکہ عامۃ المسلمین اس خاص قبر کی پوجا کر کے فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔

جب امام الانبیاء والمرسلین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس **قبر کو چونے گچ سے پختہ بنانا جائز نہیں:**

پختہ تو کیا مٹی کے گارے سے لپی ہوئی تک نہیں تو اور کسی کی قبر کو اینٹ چونے سیمنٹ سے پختہ بنانے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟

حضرت جابر سے روایت ہے:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرَ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ
وَأَنْ يُقَعَّدَ عَلَيْهِ. (رواه مسلم)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونے سے پختہ بنانے اور اس پر قبہ وغیرہ بنانے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

جامع ترمذی^۱ اور مستدرک حاکم^۲ میں بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔

۱ "الدر الثمینی" ص ۳۳۔ ۲ "مشکوٰۃ المصابیح" باب دفن الامتیت۔

۳ ایضاً الفصل الثانی۔ ۴ "مستدرک" کتاب الجنائز۔

امام اعظمؒ کا مذہب: امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وَلَا نَرَىٰ أَنْ يُزَادَ مَا خَرَجَ مِنْهُ وَنُكِرَهُ أَنْ يُجْصَصَ أَوْ يُطَيَّنَ أَوْ يُجْعَلَ
عِنْدَهُ مَسْجِدٌ..... وَيُكْرَهُ الْأَجْرُ أَنْ يُبْنَىٰ بِهِ وَيُدْخَلَ الْقَبْرَ وَهُوَ قَوْلُ
أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. (باب تطین القبور و تجصیصها)

قبر سے جو مٹی نکلی ہے اس سے زیادہ مٹی قبر پر ڈالنا ہم جائز نہیں سمجھتے، اور قبر کو
چونے گچ کرنا یا مٹی کے گارے سے لپائی کرنا یا قبر کے قریب مسجد بنانا ہم مکروہ
(تحریمی) سمجھتے ہیں، اور پختہ اینٹوں سے قبر بنانا یا قبر کے اندر پختہ اینٹ داخل کرنا
مکروہ ہے اور امام ابوحنیفہؒ کا یہی مذہب ہے۔

امام شافعیؒ کا مذہب: امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

وَأَحِبُّ أَنْ لَا يُبْنَىٰ وَلَا يُجْصَصَ وَلَمْ أَرِ قُبُورَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
مَجْصُصَةً.

اور میں پسند کرتا ہوں کہ قبر پر نہ عمارت بنائی جائے نہ اسے چونے گچ بنایا جائے۔
میں نے مہاجرین و انصار کی قبروں کو پختہ چونے گچ نہیں دیکھا۔

ائمہ ثلاثہؒ کا مذہب: ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے۔ علامہ حلبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وَيُكْرَهُ تَجْصِيسُ الْقَبْرِ وَتَطْيِينُهُ وَبِهِ قَالَتِ الْإِمَامَةُ الثَّلَاثَةُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ بِنَاءٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ قُبَّةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

قبر کو چونے سے پختہ بنانا اور مٹی کے گارے سے اس کی لپائی کرنا مکروہ ہے اور یہ تینوں
اماموں کا مذہب ہے، اور امام اعظم ابوحنیفہؒ سے روایت ہے کہ وہ قبر پر مکان یا قبہ
وغیرہ بنانا مکروہ سمجھتے ہیں۔

۱ "کتاب الآثار" لامام محمد۔ ۲ "کتاب الامم للعافقی، جلد اول، ص ۲۳۶۔

۳ "کبیری" ص ۵۹۹۔

قبروں پر قبہ وغیرہ عمارت بنانے کا کوئی جواز نہیں:

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پر کسی قسم کی عمارت بنانے کی صاف نہی موجود ہے، اور تمام ائمہ مجتہدین کے نزدیک یہ ناجائز و ناروا ہے تو اس کے جواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

أَمَّا الْبِنَاءُ فَلَمْ أَرْ مِنْ اخْتَارَ جَوَازَهُ.

قبروں پر عمارت بنانے کے جواز کا قائل میں نے نہیں دیکھا۔

گنبد خضراء: امام البرسلین، رحمۃ اللعالمین کا روضہ منورہ، گنبد خضراء باجماع امت بوجہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کی بیسیوں خصوصیات میں

سے ایک خصوصیت ہے۔

حضرت خاتم المفسرین علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے اس سلسلہ میں بڑی طویل و مفید بحث کی ہے، ملاحظہ ہو:

واستدلُّ بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلوة في ذلك وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي وهو باطل عاطل فاسد كاسد فقد روى احمد و ابو داؤد و الترمذی و النسائی و ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

و "مسلم" ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد فأتى انها كم عن ذلك و احمد عن اسامة وهو و الشيخان و النسائی

۱ صحیح مسلم، ترمذی، مستدرک حاکم کتاب الجنائز۔ ۲ شامی، جلد اول، ص ۱۰۱۔

۳ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایات ہیں۔

(ترمذی، باب ما جاء في كراهة ان يتخذ على القبور مسجداً)

۴ "مستدرک حاکم" کی روایت میں ہے: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور.

(جلد اول، ص ۳۷۴، کتاب الجنائز)

عن عائشة و مسلم عن ابی ہریرۃ [ؓ] "لعن اللہ تعالیٰ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد" و احمد والشیخان والنسائی "ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجداً وضوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق یوم القیامۃ۔"

واحمد والطبرانی۔ "ان من شرار الناس من تدرکہم الساعة وهم احياء ومن یتخذ القبور مساجد" و عبدالرزاق "من شرار امتی من یتخذ القبور مساجد" و ایضاً "کانت بنو اسرائیل اتخذوا القبور مساجد فلعنہم اللہ تعالیٰ" الی غیر ذلک من الاخبار الصحیحۃ والأثار الصریحۃ۔

ومن ثم قال اصحابنا: تحرم الصلوۃ الی قبور الانبیاء والاولیاء تبرکاً واعظاماً..... و کون ہذا الفعل کبیرۃ ظاہر من الاحادیث و کانہ قاس کل تعظیم للقبر کایقاد السرج علیہ تعظیماً لہ و تبرکاً بہ والطواف بہ کذلک و هو اخذ غیر بعید سیما وقد صرح فی بعض الاحادیث المذكورۃ بلعن من اتخذ علی القبر سراجاً فیحمل قول الاصحاب بکراهۃ ذلک علی ما اذ لم یقصد بہ تعظیماً و تبرکاً بذی القبر۔

ص ۲۳۷

وفی صحیح مسلم عن ابی الہیاج الاسدی قال: قال علی کرم اللہ وجہہ الا ابغضک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا تدع تمثالاً الا طمستہ ولا قبراً مشرفاً الا سوتتہ، قال ابن الہمام فی فتح القدیر: و هو محمول علی ما کانوا یفعلونہ من تعلیۃ القبور بالبناء الحسن عالی والاحادیث و کلام العلماء المنصفین التبعین لما ورد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجاء عن السلف الصالح اکثر من ان یحصی ص ۲۳۸ وبالجملة لا ینبغی لمن لہ ادنی

۱ جامع ترمذی، باب ماجاء فی تسویۃ القبر میں بھی یہ روایت موجود ہے، ج مستدرک حاکم، کتاب الجنائز میں بھی۔

رُشِدَانٌ يَنْهَبُ إِلَىٰ خِلَافِ مَا نَطَقَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ وَالْأَثَارُ
الصَّرِيحَةُ مَعْرُوفًا عَلَىٰ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي الْغَوَايَةِ غَايَةٌ
وَفِي قَلِيلٍ النَّهْيُ نَهَايَةٌ.

وَلَقَدْ رَأَيْتَ مَنْ يَبِيحُ مَا يَفْعَلُهُ الْجَهْلَةُ فِي قُبُورِ الصَّالِحِينَ مِنْ
إِشْرَافِهَا وَبِنَائِهَا بِالْجِصِّ وَالْأَجْرَ وَتَعْلِيْقِ الْقِنَادِيلِ عَلَيْهَا وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا
وَالطَّرَافِ بِهَا وَاسْتِلَامِهَا وَالاجْتِمَاعِ عِنْدَهَا فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ إِلَىٰ
غَيْرِ ذَلِكَ مُحْتَجًّا بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ..... وَكُلُّ ذَلِكَ مُحَادَّةٌ لِلَّهِ
تَعَالَىٰ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْتِدَاعٌ دِينِ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَيَكْفِيكَ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ تَتَّبِعْ مَا صَنَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَبْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ قَبْرِ
عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ بَلْ أَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَالْوَقُوفِ عَلَىٰ أَعْمَالِهِمْ فِي
زِيَارَتِهِمْ لَهُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

تفسیر بیضاوی کے حاشیہ میں شہاب خفاجی وغیرہ نے آیت سے اولیاء کی قبروں پر
قبہ وغیرہ بنانے، ان پر مسجد بنانے اور ان میں نماز کے جواز پر استدلال کیا ہے، یہ
قول باطل، بے کار، فاسد اور کھوٹا ہے۔ امام احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن
ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: قبر کی زیارت کرنے والیوں پر اور قبروں پر مسجد بنانے والوں اور ان پر چراغ
جلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

اور صحیح مسلم میں روایت ہے فرمایا: خبردار! تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں
کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا، بیشک میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور امام احمد نے
حضرت اسامہؓ سے اور احمدؓ اور بخاری اور مسلم اور نسائی نے حضرت عائشہؓ سے اور
مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی یہود اور
نصاری پر لعنت، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنالیا۔ اور احمدؓ اور بخاری
اور مسلم اور نسائی نے روایت کی ہے ارشاد فرمایا: ان میں جب کوئی نیک بندہ مر

۱۔ تفسیر "روح المعانی" ج ۱۵، ص ۲۳۷، ۲۳۸، ملخصاً بلفظ آیت قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَيَّ

جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں بنا لیتے، یہ لوگ قیامت کے دن بدترین خلائق ہوں گے۔

اور احمد اور طبرانی کی روایت ہے ارشاد فرمایا: لوگوں میں بدترین وہ ہوں گے جو قیامت کے وقت زندہ ہوں گے اور جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور عبدالرزاق کی روایت ہے ارشاد فرمایا: میری امت میں بدترین لوگ وہ ہیں جو قبروں کو مسجد بنا لیں، اسی طرح ارشاد فرمایا: بنی اسرائیل نے قبروں کو مسجد بنا لیا، پس ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، ان کے علاوہ بھی صحیح احادیث و صریح آثار ہیں۔ اسی لیے ہمارے اصحاب (احناف) نے کہا ہے کہ حضرات انبیاء و اولیاء کی قبروں کی طرف منہ کر کے تبرکاً اور ان کی تعظیم کی نیت سے نماز پڑھنا حرام ہے۔..... ظاہر حدیث کے مطابق یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور علیٰ ہذا القیاس قبر کی ہر تعظیم مثلاً اس پر چراغ جلانا، اس کی تعظیم یا اس سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اور قبر کا طواف، وغیرہ بھی اسی طرح حرام اور کبیرہ گناہ ہیں اور مذکورہ بالا بعض احادیث میں قبر پر چراغ جلانے پر لعنت کی صراحت ہے، بعض اصحاب کا اسے صرف مکروہ کہنا اس وجہ سے ہے کہ قبر والے کی تعظیم و تبرک مقصود نہ ہو (صرف رسماً چراغ جلایا جائے تو وہ مکروہ ہے ورنہ حرام اور کبیرہ ہے)

اور صحیح مسلم میں ابولہیانج اسدی سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت علیؑ نے فرمایا: کیا میں تم کو اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے رسول کریمؐ نے مجھے بھیجا تھا، وہ یہ کہ جو تصویر بھی دیکھو اسے مٹا ڈالو، اور جس قبر کو اونچی پاؤ، اسے نیچا کر دو۔ امام ابن ہمام نے ”فتح القدر“ میں کہا ہے، یہ حکم اس پر محمول ہے کہ وہ قبروں کو بہت اونچا بناتے تھے، اس سلسلہ میں احادیث نبویہ اور علماء منصفین و متبعین ارشادات نبویہ و سلف صالحین کے اقوال بے حد بے شمار ہیں۔

لہذا جس کو رشد و ہدایت سے تھوڑا سا حصہ بھی ملا ہے اسے روا نہیں کہ احادیث صحیحہ و آثار صریحہ کے خلاف اس آیت سے غلط استدلال کر لے، بلاشبہ یہ گمراہی و ضلالت کی انتہا ہے اور بے عقلی کی حد ہو گئی!

اور تو نے دیکھا ہے کہ (عموماً) جاہل لوگ اولیاء اللہ کی قبروں کو اونچا اور

اینٹ چونے سے پختہ بناتے ہیں اور ان پر قدیلیں لگاتے ہیں اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا طواف کرتے ہیں اور انہیں چومتے ہیں، اور مخصوص اوقات (مقررہ تاریخوں) میں ان پر جمع ہوتے ہیں، وغیرہ، اس آیت سے حجت پکڑتے ہیں..... یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دین میں بدعت پیدا کرنا ہے جس کی اللہ عزوجل نے اجازت نہیں دی۔

اور حق جاننے کے لیے تجھے اس بات کا تجسس و تتبع کافی ہے جو اصحابؓ رسولؐ نے رسولؐ کریمؐ کی قبر کے بارے میں کیا اور وہ روئے زمین پر سب سے افضل قبر ہے بلکہ عرش سے افضل ہے اور قبر نبویؐ کی زیارت اور آپؐ پر ہدیہ سلام پیش کرنے میں صحابہ کرامؓ کے معمول و افعال پر عمل کرنا کافی ہے۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

اور مزار اہل انوار رسولؐ اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان ہو چکا ہے کہ زمین سے تھوڑی سی اونچی تھی اور چونے، گچ سے پختہ تو کیا! مٹی کے گارے سے لپی ہوئی تک نہیں تھی، اور یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ شیخین افضل الامة صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی قبور مبارکہ کا تھا۔

زیارتِ قبور

قبورِ اولیاء پر سالانہ اجتماع: ۱۔ خاتم المفسرین حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی (متوفی ۱۲۷۰ھ) نے اپنے مندرجہ بالا بیان میں

وَالْإِجْتِمَاعُ عِنْدَهَا فِي أَوْقَاتٍ مَّخْصُوصَةٍ لِعِنِّي مَخْصُوصَاتٍ (مقررہ تاریخوں) میں مزاروں پر اجتماع کو جاہل لوگوں کا کردار قرار دیا ہے۔

۲۔ بیہقی عصر حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمہ اللہ (متوفی ۱۰۰۰ھ) رقمطراز ہیں:

لَا يَجُوزُ مَا يَفْعَلُهُ الْجُهَالُ بِقُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ مِنَ السُّجُودِ وَالطَّوَافِ حَوْلَهَا وَإِتِّخَاذِ الشَّرِجِ وَالْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا وَمِنَ الْإِجْتِمَاعِ بَعْدَ الْحَوْلِ كَالْأَعْيَادِ وَيَسْمُونَهُ عُرْسًا ۱

جاہل لوگ اولیاء و شہداء کی قبروں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں جیسے سجدہ کرنا اور ان کے گرد طواف کرنا اور ان پر چراغاں کرنا اور مسجدیں بنانا اور سال کے بعد عیدوں کی طرح وہاں جمع ہونا، جسے عرس کہتے ہیں، یہ سب جائز نہیں ہیں۔

قبورِ اولیاء کی بالقصد زیارت: شیخ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۱۷۱ھ) اس کو حج لغیر اللہ سے

تعبیر کرتے ہیں۔ شرک کی قسمیں بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

وَمِنْهَا الْحَجُّ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ مَوَاضِعَ مُتَبَرِّكَةً مُخْتَصَّةً بِشُرَكَائِهِمْ يَكُونُ الْحُلُولُ بِهَا تَقَرُّبًا مِنْ هُوَلَاءِ فَتَهَى الشَّرْعُ عَنْ ذَلِكَ.

ان امور شرکیہ میں سے حج لغیر اللہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے شرکاء کے مخصوص متبرک مقامات کا قصد کیا جائے کہ وہاں جانا ان شرکاء کے تقرب کا باعث ہے۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا ثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ ۲
شریعت نے اس سے منع فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے تین

۱۔ تفسیر مظہری، تفسیر سورہ آل عمران، آیت قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ.....

۲۔ ”حجۃ اللہ البالغہ“ جلد اول، باب اقسام الشرب۔

مسجدوں کے (تقرب و تبرک کی غرض و نیت سے) سفر نہ کیا جائے۔
تقرب الی اللہ اور حصول اجر و ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد، مسجد الحرام (مکہ معظمہ)
مسجد نبوی (مدینہ طیبہ) اور مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) کی طرف سفر کرنا جائز بلکہ مستحسن ہے۔
کسی بزرگ کے مخصوص مقامات، قبر وغیرہ کو تبرک سمجھ کر حصول برکت اور اس بزرگ
کے تقرب کی نیت سے اس قبر وغیرہ کی طرف سفر کرنے کو حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ اقسام
شرک میں شمار کرتے ہیں اور اسے الْحَجُّ لِغَيْرِ اللَّهِ سے تعبیر کرتے ہیں۔

۴۔ ایک اور مقام پر رقم فرماتے ہیں:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا تُشَدُّ رِحَالٌ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ
الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا أَقُولُ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقْصِدُونَ مَوَاضِعَ
مُعْظَمَةً بِزَعْمِهِمْ يَزُورُونَهَا وَيَتَبَرَّكُونَ بِهَا وَفِيهِ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالْفِسَادِ
مَا لَا يَخْفَى فَسَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَثْلًا يَلْتَحِقَ غَيْرَ الشَّعَائِرِ
بِالشَّعَائِرِ وَلِنَثْلًا يَصِيرَ ذَرِيعَةً بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ وَالْحَقُّ عِنْدِي أَنَّ الْقَبْرَ
وَمَحَلَّ عِبَادَةِ وَلِيِّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَالطُّورَ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ فِي النَّهْيِ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ ۚ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تین مسجدوں، مسجد الحرام، مسجد الاقصیٰ اور میری اس مسجد (نبوی) کے سوا کسی جگہ
کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں“ میں کہتا ہوں کہ اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ
اپنے زعم میں جن مقامات کو وہ واجب التعظیم سمجھتے تھے، ان مقامات کی زیارت
کرنے اور ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے وہ سفر کیا کرتے تھے، اور اس
میں دین کی تحریف اور بگاڑ ظاہر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگاڑ کا سدباب
فرمایا تا کہ غیر شعائر اللہ میں داخل نہ ہو جائیں، اور یہ عبادت غیر اللہ کا ذریعہ
نہ بن جائے۔ اور میرے نزدیک حق یہ ہے کہ کسی ولی اللہ کی قبر یا اس کی عبادت
کرنے کی جگہ اور کوہ طور سب اس ممانعت میں برابر ہیں واللہ اعلم۔

۱۔ ”حجۃ اللہ البالغہ“ جلد اول، باب المساجد۔

مزاراتِ اولیاء اللہ کی زیارت: اولیاء اللہ رحمہم اللہ سے محبت و حسن عقیدت محمود مستحسن ہے۔ ان کی اتباع، اتباع رسول

ہے۔ بعد وفات ان کے لیے دعا اور ایصالِ ثواب شرعاً محمود و مطلوب ہے۔ اگر کسی ولی اللہ کی قبر قریب ہو تو وہاں جا کر یا اتفاق سے گزر رہو تو سنت کے مطابق سلام کہنا اور غنوعافیت اور مغفرت و رحمت کی دعا کرنا سب باتفاقِ اُمت جائز و درست ہے۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ باقی رہا دُور دراز کا طویل سفر کر کے کسی بزرگ کے مزار کی زیارت کے لیے جانا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ مباح ہے، اور بعض کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان اکابر اُمت و مشائخِ ملت میں سے ہیں جن کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک حق یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی قبر ان کی عبادت کا محل و تمام اور کوہِ طور یہ سب حدیث لا تشدّ رحال کی نہی میں برابر داخل ہیں، یعنی ان کی طرف سفر کر کے جانا شرعاً جائز نہیں، ممنوع ہے۔

سنتِ فاروقی: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں حضرت دانیال کی قبر کو بے نام و نشان کر دیا اور جب معلوم ہوا کہ لوگ شجرۂ بیعتِ رضوان کی

زیارت کے لیے سفر کر کے آتے جاتے ہیں تو سرے سے اس درخت ہی کو کٹوا دیا، کل جس کے شرک و فساد کا ذریعہ ہونے کا خطرہ و امکان تھا تا کہ اشراک باللہ اور فسادِ عقیدہ کا یہ منبع و ذریعہ ہی ختم ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بچے بانسری۔ اور کسی ایک صحابی رسولؐ نے خلیفہ رسولؐ کے اس اقدام کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہا۔

جہاں حضرت محدث دہلوی کا متدل حدیثِ رسول کریمؐ ہے، وہاں رسول کریمؐ کے خلیفہ ثانی بلکہ ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ عنہم کا یہ اجماع بھی حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ کا مصدق و موید ہے۔

زیارت قبور: مطلق قبر کی زیارت شرعاً مباح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. (رواہ مسلم)^۱

میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا (مگر اب) تم قبروں کی زیارت کرو۔ چونکہ لوگ عہد شرک و جاہلیت سے قریب تر تھے، اس لیے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے سے بالکل روک دیا تھا۔ جب فتنہ کا خطرہ نہ رہا تو اجازت عطاء فرمادی۔

جمہور علماء کے نزدیک قبر کی زیارت مستحب ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ زیارت قبور مردوں کے لیے سنت ہے لیکن عورتوں کے لیے اکثر علماء نے قطعی طور پر مکروہ قرار دیا ہے۔ بعض نے مکروہ نہیں کہا جبکہ فتنہ کا خوف نہ ہو۔

زیارت قبور والدین: سنت سے خصوصیت کے ساتھ اگر ثابت ہے تو قبور والدین کی زیارت ثابت ہے۔ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

جو ہر جمعہ کو والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اس کی مغفرت کی جائے گی۔ (رواہ البیہقی مرسل)^۲

بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

زیارت قبور کا مقصد: ۱۔ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا.

فَانْهَاهَا تَزَهْدٌ فِي الدُّنْيَا وَتَذِكْرٌ بِالْآخِرَةِ. (رواہ ابن ماجہ)^۳

میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا (مگر اب) تم قبروں کی زیارت کرو، بیشک قبروں کی زیارت دینا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔

۲۔ حضرت زیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم دیتے تھے کہ جب قبروں (کی زیارت) کے لیے نکلیں تو کہیں:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ
لَلْآحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

رواہ مسلم ("مشکوٰۃ المصابیح" باب زیارة القبور)

اے دیار (آخرت) والے مومنو اور مسلمانو! تم پر سلامتی ہو۔ ہم بھی انشاء اللہ تم

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب زیارة القبور۔ ۲ ایضاً۔ ۳ ایضاً۔

سے آملیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔

۳۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قبروں کے قریب سے گزرے تو ان کی طرف منہ کر کے فرمایا:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِالْآثَرِ.

(رواہ الترمذی)

اے قبروں والے! تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں بخشے۔ تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ (”مشکوٰۃ المصابیح“ باب زیارة القبور)

۴۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم:

فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْمَوْت.

رواہ مسلم (”مشکوٰۃ المصابیح“ باب زیارة القبور)

تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ بیشک یہ موت یاد دلاتی ہے۔

جہاں تک زائر (زیارت کرنے والے) کا سوال ہے، زیارتِ قبر سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اسے موت یاد آتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے، دنیا کی بے ثباتی و ناپائیداری کا نقش دل ہی پر ثبت نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ بے وفا فانی دنیا سے دل کی رغبت کم ہوتی ہے۔ خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے۔ اور انسان اپنی قبر کی تصویر و تمہید اور ٹھنڈک و نورانیت کا سامان بہم پہنچانے کی فکر کرتا ہے۔

باقی رہا اصحابِ قبور (قبر والوں) کا سوال! تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیارت کرنے والا ان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے غنود عافیت اور غفران و مغفرت طلب کرتا ہے۔ اور ایصالِ ثواب کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص قبرستان میں گزرے اور سورہٴ اخلاص ۱۱ بار پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشے تو مردوں کی تعداد کے مطابق اس کو بھی اجر ملے گا۔ (بخاری و مسند احمد ۱۲۶)

شرعی و مسنون زیارتِ قبر: سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعاملِ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہو گیا کہ زیارتِ قبور کا مشروع و مسنون طریقہ

صرف یہ ہے کہ مسلمان جب کسی مسلمان کی قبر سے گزرے یا قبر پر پہنچے، خواہ وہ قبر کسی ولی اللہ کی ہو یا غیر ولی کی، تو قبر پر (جانبِ قبلہ) کھڑا ہو کر سلام کہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے نیر اپنے لیے

عافیت و مغفرت اور رحمت کی دعا کرے، بغیر ہاتھ اٹھائے، کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا ذکر تک نہیں۔
 سلام و دعاء کے علاوہ زیارتِ قبر ممنوع و مکروہ اور مردود و ناروا افعال: کے سلسلہ میں ہر فعل مثلاً مقبرہ کی

چوکھٹ کا چومنا، مزار کا طواف،^۲ سجدہ،^۳ اس کی چوما چائی،^۴ قبر کو ہاتھ سے مس کرنا، صاحبِ قبر سے دعاء و فریاد اور فراخی رزق، اولاد اور حل مشکلات و حاجت براری کا سوال کرنا، قبر کے قریب نماز پڑھنا، قبر یا مقبرہ پر چراغاں کرنا، قبر پر پھول چڑھانا، عطر چھڑکنا، غلاف ڈالنا، نقدی وغیرہ چڑھاوے^۵ چڑھانا، غایت تعظیم کی وجہ سے سیدھا کھڑا نہ ہونا بلکہ جھکے رہنا، قبر کی طرف پشت نہ کرنا، زیارتِ قبر کے لیے کوئی خاص تاریخ مقرر کرنا،^۶ قبر پر لوگوں کا جمع ہونا وغیرہ یہ سب افعال مردود و ناروا اور غیر مشروع و ممنوع ہیں۔ بعض ان میں سے بدعت ہیں، اور بعض شرک۔ مثلاً سجدہ، صاحبِ قبر سے دعاء و فریاد و سوال، اور نذر نیاز (چڑھاوے چڑھانا)۔ بعض پر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، مثلاً چراغ جلانا اور قبر کے قریب نماز پڑھنا، خواہ وہ نماز خالص اللہ کے لیے ہو۔

یہ تمام افعال با تفاق، ائمہ اسلام غیر مشروع، ممنوع و ناروا ہیں۔ نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے نہ صحابہؓ و تابعین اور ائمہ دین و اکابر اولیاء اللہ رحمہم اللہ میں سے کسی نے ان میں سے کوئی کام کیا۔ اُلٹا ان سب نے ان تمام ناجائز کاموں کی سخت و شدید ممانعت فرمائی۔ ان کاموں کے کرنے والوں کے متعلق لعنت وغیرہ وعید شدید آئی ہے، اور شریعت نے نہایت سختی اور تکرار و تاکید کے ساتھ ان کاموں سے روکا ہے۔

عرس

کسی اللہ کے بندے نے شاید تبلیغی مقصد کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا ہو، مگر آج عموماً عرس نام ہے ان تمام بدعات و مشرکیات کے مجموعہ کا!

چند مزید محرماتِ شرعیہ: نیز چند محرمات اس پر مستزاد ہوتی ہیں مثلاً:

شریعتِ محمدیؐ کی توہین و تردید اور بھرپور مخالفت پر مشتمل گندے لوگوں، طحہ شاعروں کے غلیظ، گندے اور متعفن اشعار گانے اور باجے، جاہل، نفس پرست، بے دین اور پیٹ پوجا کرنے والے گوتوں کی (دعظ کے عنوان) سے خرافات، زن و مرد کا بے تکلف باہم خلط ملط، بے پردگی، بے شرمی اور بے لجانگی کا ایک طوفان، جس کے تصور سے شرافت لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے اور جبینِ انسانیت عرق آلود! اور لنگرہ کے نام سے، غیر اللہ کے نام پر نامزد کردہ پکوان کو تبر کا تقسیم کرنا اور کھانا وغیرہ۔

زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن: علامہ اقبالؒ نے بالکل صحیح کہ ہے

جن اولیاء اللہ رحمہم اللہ نے جانکاہ و جانکسل مصیبتیں برداشت کر کے روح فرسا تکلیفیں اٹھا کر، ترک وطن کر کے، گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر فاتے کر کے، پیاسے رہ کر، گالیاں اور پتھر تک کھا کھا کر لوگوں کو اللہ کا دین پہنچایا، خلقِ خدا کو خدا کا راستہ دکھایا، توحید کا بھولا ہوا سبق پڑھایا، اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ان کے مزار پر انوار پر!

آج عموماً ان کے مزاروں پر..... ”گورکن“ بیٹھے ہیں۔

تم ہا ذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے

خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن! اقبالؒ

ظالم واعظ: یہ لوگ اپنے دھندے اور کاروبار کی بقا و ترقی کے لیے ”واعظ“ کے نام سے کچھ ”گلوکار“ بہم پہنچاتے ہیں، واعظ کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، جن میں یہ

گوئے محض چند کھوٹے سکوں کے لیے اپنا دین و ایمان بیچتے ہیں، تاجر سجادہ نشین کے چشم و ابرو

کے اشاروں پر رقص کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے کھیلتے ہیں، اور کتاب و سنت کی کھلی تحریف کر کے موجودہ ”عرس“ کی تمام خلاف شریعت خرافات کو سند جواز ”عطا فرماتے“ ہیں۔ سجادہ نشین کی ساری ضلالت و گمراہیوں کو عین ہدایت، شرک کو توحید اور بدعت کو سنت ثابت کر کے اپنی مکاری و فن کاری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس طرح ہزاروں لاکھوں سیدھے سادے بندگانِ خدا کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتے ہیں۔

دین کی مظلومی: دین کی مظلومی بدرجہٴ انتہا پہنچ گئی کہ جس عرس کا کتاب و سنت میں نام و نشان تک نہیں ملتا، حضرات صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اعمال و کردار میں نہیں بلکہ ان کے اقوال و ارشادات میں بھی ڈھونڈنے سے جس کا ذکر نہیں ملتا، وہ عرس آج دین ہے، روح دین ہے، اصل دین ہے، بلکہ کل دین ہے، سارا دین سمٹ کر ایک لفظ ”عرس“ میں آ گیا ہے اور آج امت مسلمہ کی پوری دینی زندگی کا لب لباب یہی عرس رہ گیا ہے۔

مسلمان کہلانے والے، توحید کا کلمہ پڑھنے والے مدعیانِ اسلام سفر حج سے زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ، سفر کی زحمتیں اور صعوبتیں برداشت کر کے عرسوں میں شرکت کرتے ہیں، جہاں اہل اللہ کو اللہ واحد کا مقام دیا جاتا ہے۔ دل میں ان ہی کی عبادت کی حد تک پہنچی ہوئی تعظیم جاگزین ہوتی ہے۔ نفع و نقصان کا مالک انہیں سمجھا جاتا ہے۔ مرادیں ان سے مانگی جاتی ہیں۔ امیدیں ان سے رکھی جاتی ہیں۔ خوف ان سے کھایا جاتا ہے۔ تعبد و تذلل اور تعظیم بلیغ کا بھرپور مظاہرہ انہی کے حضور کیا جاتا ہے۔ قبروں سے لگ لپٹ کر، چمٹ کر آہ و زاری کی جاتی ہے۔ زبان محو فریاد و فغاں ہوتی ہے تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ غرض بزرگانِ دین کی مزاروں پر ان تمام خلاف شرع حرکات اور مشرکانہ کردار کا برملا ارتکاب کیا جاتا ہے جن کو مٹانے کے لیے ان بزرگانِ دین و مشائخِ ملت نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی۔

صداقتِ نبوت کی ایک واضح دلیل: اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عقل و بصیرت سے کچھ حصہ و بہرہ عطا فرمائے تو

حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت کے ہزاروں دلائل میں سے یہ بھی ایک واضح دلیل ہے کہ اپنی حیاتِ طیبہ کے آخری لمحوں میں بالکل وفات کے وقت عین عالم نزع میں فتنہ قبر سے متعلق جو کچھ فرمایا سولہ آنے حق فرمایا۔ آج انسان جب قبر کے فتنہ عظیم

پر نگاہ کرتا ہے، اور ”عرس“ کے عنوان سے قبر پر محرمات و منکرات شرعیہ، بدعات سینہ اور حرکات شرکیہ کا جو طوفان برپا دیکھتا ہے تو اس کا رُواں رُواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کے راگ الاپتا ہے اور اس کا دل و دماغ یہ گواہی دیتا ہے کہ حضرت خاتم نبوت نے آخر وقت جو کچھ فرمایا وہ از خود نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت سے علم و اطلاع پا کر فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم۔

واقعی دین کے بارے میں نبی کا ہر بول خدا کا بول ہوتا ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود!

اللہ رب العزت نے عالم اضطراب و اضطراب میں اپنے رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول فرمایا، ورنہ آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ غلاموں کی قبریں بت بنی بیج رہی ہیں اور عید، میلہ بن کر رہ گئی ہیں، جانے امام المرسلین کی مزار پر انوار کا کیا حال ہوتا؟

کتاب اللہ میں ”عرس“ کا لفظ ہے نہ سنت رسول میں اس کا نام و نشان۔ کیا

عرس کی دین میں کوئی اصل نہیں:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ یا اپنے باپ اسمعیل ذبح اللہ یا اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا عرس منعقد فرمایا؟ یا پھر حضرات صدیق و فاروق و عثمان و علی (رضی اللہ عنہم) نے اپنے اپنے عہد خلافت میں ہر سال نہ سہی! ایک بار بھی اپنے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کیا؟ یا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کا اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے اپنی ساری زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک دفعہ بھی عرس کیا؟ یا پھر حضرت حسن بصری، سعید بن مسیب اور عمر بن عبدالعزیز رحمہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی خلیفہ رسول یا صحابی رسول کا عرس کیا؟ یا پھر حضرت امام اعظم، امام مالک، امام شافعی یا امام احمد رحمہم اللہ نے اپنے شیوخ میں سے کسی کا عرس کیا؟ یا پھر امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام اعظم ابو حنیفہ کا کبھی عرس کیا؟ رحمہم اللہ، یا پھر ابو یزید بسطامی، جنید بغدادی، عبدالقادر جیلانی، شہاب الدین سہروردی، معین الدین چشتی، جلال الدین بخاری، مخدوم علی ہجویری اور مجدد الف ثانی، (رحمہم اللہ) میں سے کسی نے اپنے شیخ و مرشد کا عرس کیا؟ اگر نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا، تو پھر ہمیں خدا سے خوف کھانا چاہئے اور آئندہ اس سے بچنا چاہئے۔

ایصالِ ثواب: شریعت میں ایصالِ ثواب کی اجازت ہے۔ انسان جو نیک عمل شریعت کے مطابق کرے، اس کا ثواب جس کو چاہے بخش سکتا ہے،

خواہ وہ عمل خیر بھی کیا ہو یا پہلے کبھی کیا ہو۔

دعا اور مالی عبادت، صدقہ و خیرات کا ایصالِ ثواب بلا اتفاق جائز ہے۔ بدنی عبادت خواہ وہ قولی ہو یا فعلی مثلاً زوال، قرآن خوانی کا ثواب امام اعظم ابوحنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ کے نزدیک بخشا جاسکتا ہے۔ مگر:

۱۔ نہ تو کسی خاص بزرگ کو ایصالِ ثواب کیا جائے۔ اور نہ ہی کسی خاص تاریخ یا معینہ وقت پر! اور نہ ہی اس کا خاص اہتمام کیا جائے۔ خاص بزرگ کو ثواب پہنچانے میں شرک کے چور دروازہ سے گھس آنے کا خطرہ ہے اور تاریخ و وقت کی تعیین اور کسی خاص چیز کا اہتمام و التزام بدعت ہے۔

۲۔ جہاں بزرگانِ دین، اولیاء اللہ کو ایصالِ ثواب کیا جائے وہاں اپنے والدین، آباؤ اجداد اس کے زیادہ محتاج ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق و احق ہیں، لہذا ایصالِ ثواب کرتے وقت دعا میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے، پھر دوسرے حضرات انبیاء علیہم السلام کا، پھر حضرات صحابہ کرام و آل رسول کا، پھر جمیع حضرات اولیاء اللہ رحمہم اللہ کا، پھر ساری امت مسلمہ کا، خصوصاً اپنے آباؤ اجداد اور شیخ و مرشد کا، اللہ رب العزت اپنے رحمت سے سب کو ثواب عطا فرمائیں گے اور ان کے فضل و کرم سے اس ایصالِ ثواب کرنے والے کے ثمرہ اعمال میں بھی اس عبادت اور کار خیر کا اندراج بدستور رہے گا۔

۳۔ یاد رہے کہ ایصالِ ثواب تب ہوگا جب پہلے عمل و عبادت پر ثواب عطا بھی ہو۔ ثواب عطا تب ہوگا جب وہ عمل شریعت کے مطابق ہوگا اور لوجہ اللہ ہوگا۔ اگر عمل ہی خلاف شرع ہو یا نیت ریاء و نمائش کی ہو تو عمل ہی مردود ہوگا، اجر و ثواب کہاں سے ملے گا؟ اور جب عامل کو اجر و ثواب نہ ملا تو ایصالِ ثواب کس کا ہوگا؟

دعا واستغفار: سب سے بہتر ایصالِ ثواب، دعا واستغفار ہے، جو خود کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور دوسروں کی نسبت پہلے اپنے والدین کے لیے ثابت ہے۔
قولہ تعالیٰ:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. (ابراہیم، ۶۴)
 اے ہمارے رب، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو بھی اور کل مومنین کو بھی بخش دے، جس دن حساب قائم ہو۔

پہلے اپنے والدین: احادیث میں بھی اپنے والدین کے متعلق ایصالِ ثواب کا ذکر ہے۔
 ۱۔ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور شہاد فرمایا: (صلی اللہ علیہ وسلم)

جب انسان مر گیا، اس کا عمل ختم ہو گیا، مگر تین کاموں کا (ثواب موقوف نہیں ہوتا)
 صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوَ آلَهُ. (رواہ مسلم)
 (ایک) صدقہ جاریہ (دوسرے) علم جس سے نفع ہو (تیسرے) نیک بیٹا جو باپ کے لیے دعا کرے۔

۲۔ بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں اچانک مر گئی ہے.....

فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَلَّيْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ. (مطلق علیہ)

اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اسے اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں!

۳۔ مؤطا مالک باب صدقۃ الحی عن النسب اور ابوداؤد کتاب الوصایا میں بھی یہ روایت ہے۔
 ابوداؤد اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر اس شخص نے اپنا باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ یہ روایت ابن عباس سے ہے۔

۴۔ ابوداؤد میں یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہے مگر اس میں ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا..... مؤطا مالک کی ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے باغ صدقہ کر دیا۔

ان تمام روایات سے یہ ثابت ہو گیا کہ دعا، استغفار، ایصالِ ثواب کے لیے سب سے

۱ "مشکوٰۃ الصحیح" کتاب العلم و"ابوداؤد" کتاب الوصایا۔

۲ "مشکوٰۃ الصحیح" باب صدقۃ المرأة من مال الزوج۔

پہلا حق والدین کا ہے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کی نسبت انسان کے والدین ایصالِ ثواب کے زیادہ محتاج ہیں، مگر آج لوگ اپنے والدین کو تو بھول کر بھی ایصالِ ثواب نہیں کرتے اور حضرات اولیاء اللہ کو معین وقت پر پابندی وقت کے ساتھ ”ایصالِ ثواب“ کرتے ہیں جس کی بنیاد شرک ہے، مثلاً:

”گیارہویں شریف“: امام الاتقیاء، سید الاولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پر ہر مہینے کی گیارہویں شب کو بعض لوگ اپنی گائے

بھینسوں کا دودھ تقسیم کرتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ اس کا التزام اور پابندی کرتے ہیں، کیا مجال کہ کسی مہینے مانع ہو جائے، اور تاویل یہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت رحمہ اللہ کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں، حالانکہ ان جہال کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح حضرت شیخ رحمہ اللہ ہم سے راضی ہوں گے اور ہمارے گائے بھینسیں نہ بیمار ہوں گی نہ مریں گی، اور ان کا دودھ مکھن بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طمع اور لالچ میں ”گیارہویں شریف“ بانٹتے ہیں، اگر نہ بانٹیں تو ان کے زعم باطل میں حضرت رحمہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور مال مر جائے گا یا ان کا دودھ مکھن کم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے کا کوئی شرک ہی انکار کر سکتا ہے۔

اگر واقعی ایصالِ ثواب مقصود ہوتا تو گیارہویں شب اور دودھ کی قید کیوں؟ پھر حضرت سید المشائخ رحمہم اللہ کی تخصیص کیوں؟ کیا دوسرے حضرات اولیاء اللہ رحمہم اللہ کو ثواب کی ضرورت نہیں، پھر کیا اس کے اپنے والدین ایصالِ ثواب کے محتاج نہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو تو بھول کر کبھی کسی کا ثواب بھی نہیں بخشا اور حضرت رحمہم اللہ کو ہر مہینے دودھ کا ثواب پہنچاتا ہے۔

حضرت علیؑ کے لیے سب سے بہتر دعا درود شریف ہے، درود حضرت

درود شریف: علیؑ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے رحمت ہے اور ہادیٰ اعظم، رحمت

عالم، محسن انسانیت کے انسانیت پر احساناتِ عظیمہ و بے پایاں کا برائے نام بدلہ! جس کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

(سورہ احزاب)

تَسْلِيمًا

جسک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی (کریم) پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو!

تم بھی آپ پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔

اللہ تعالیٰ کا نبی کریم پر صلوٰۃ بھیجنا تو رحمت فرماتا ہے، اور فرشتوں اور انبیاءوں کا صلوٰۃ بھیجنا اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت خاصہ کی دعا کرنا ہے۔ اسے ہمارے محاورے میں درود کہا جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے جہاں حضرت کے مراتب عالیہ و مدارج رفیعہ میں خرید ترقی ہوگی وہاں دعا کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

۱۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. (رواہ مسلم)

جس نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس پر دس بار رحمت نازل فرمائی۔

۲۔ جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں یہ زائد ہے کہ:

وَكُتِبَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ. اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھی گئیں!

۳۔ بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرَ خَطِيئَاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ. (رواہ النسائی)

جس نے ایک دفعہ میرے لیے رحمت کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس پر دس رحمتیں نازل فرمائیں اور اس کے دس گناہ معاف کر دیئے گئے اور اس کے دس درجے بلند کر دیئے گئے۔

مقام محمود اور وسیلہ کی دعا: درود شریف کے علاوہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے۔

۱۔ بروایت زویلع رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَحْمُودًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقَرَّةَ الْمُقَرَّبَةَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي. (رواہ احمد)

۱۔ "مشکوٰۃ الصالح" باب اصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

۲۔ "ترمذی" باب فضل اصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

۳۔ "مشکوٰۃ الصالح" باب اصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

۴۔ "مشکوٰۃ الصالح" باب اصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

جس نے محمدؐ پر درود بھیجا اور کہا، اے اللہ! آپ کو وہ مقام عطا فرما جو قیامت کے دن تیرے نزدیک مقرب ہے (یعنی مقام محمود) تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔

۲۔ بروایت حضرت جابر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اذان سن کر کہا:
 اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلٰوةُ الْقَائِمَةُ اَبِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ اَبِي مُحَمَّدٍ
 وَالْقَبِيْلَةُ وَابْنَةُ مَقَامًا مُّحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهٗ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ. (رواہ البخاری)

اے اللہ! اس کا دل دعا (یعنی اذان) اور نماز قائمہ کے پروردگار! محمدؐ کو وسیلہ عطا فرما اور بزرگی دے اور (قیامت کے دن) آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرما جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہوگی۔

۳۔ بروایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا:
 جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جس طرح وہ کہے تم بھی اس طرح کہو۔ پھر مجھ پر درود پڑھو۔ بیشک جس نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس پر دس رحمتیں نازل فرمائیں۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ جنت میں ایک (اعلیٰ و ارفع) مقام ہے جو ایک ہی اللہ کے بندے کے لیے ہے اور مجھے اُمید ہے کہ وہ میں ہوں۔

فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ. (رواہ مسلم)

جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔
 جو شخص بارگاہ رب العزت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود اور وسیلہ کی دعا کرے گا، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بلند کرے گا اور آپ کو قیامت کے دن اور جنت کے اندر یہ اعلیٰ و ارفع خاص الخاص مقامات عطا فرمائے گا اور دعا کرنے والے کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ.

۱۔ "سکوة الصالح" باب فضل الاذان۔

۲۔ "سکوة الصالح" باب فضل الاذان۔

۴۔ تصویر

اصنام و اوثان یعنی بت اور پتھر قبریں بر اور راست پوجا پاٹ اور شرک کا باعث بنیں، اس لیے اسلام نے بتوں کو خاک میں ملا دیا اور قبروں کی بلندی کو لمبا میٹ کر کے انہیں برائے نام نشان کے طور پر باقی تو رہنے دیا، لیکن ان کی عبادت و تعظیم ان کے بجدہ و طواف، ان کی پوجا پاٹ، ان کی چوما چاٹی، اور ان کی زینت و تزئین کو حرام قرار دے دیا۔ اور شارع علیہ السلام نے ان افعال و اعمال کا ارتکاب کرنے والوں پر غیر مبہم الفاظ میں لعنت فرمائی۔

اصنام و حرارات، بتوں اور قبروں کے بعد شرک کے دواغی و اسباب میں تصویر و تمثیل کا نمبر ہے۔ تصویر نے شرک کی اشاعت میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس لیے شریعت محمدیؐ میں کسی انسان کی تصویر کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔

بت، قبر اور تصویر: نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی ترویج و اشاعت میں بت، قبر اور تصویر ان تینوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان تینوں کو توڑ پھوڑ دینے، ہموار کر دینے کا فرمایا۔

۱۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو مدینہ جائے

فَلَا يَدْغُ وَتَنَا إِلَّا كَسْرَةً وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَاءً وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطْفَهَا.
وہاں کسی بت کو توڑے بغیر نہ چھوڑے اور کسی قبر کو ہموار کیے بغیر اور کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑے۔

..... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: جاؤ! چنانچہ حضرت علی گئے اور واپس آ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے مدینہ میں کوئی بت نہیں چھوڑا جسے توڑ پھوڑ نہ دیا ہو، کوئی قبر نہیں چھوڑی جسے برابر نہ کر دیا ہو، اور کوئی تصویر نہیں چھوڑی جسے مٹانہ دیا ہو۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اب پھر اگر کسی نے ان میں سے کوئی چیز مٹائی،

فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ. (صحیح مسلم کتاب البیان و المناقب کتاب البیان)

تو اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد پر نازل ہوئی (صلی اللہ علیہ وسلم)

روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما فتح مکہ کے موقع پر:

أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْإِلَهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأَخْرِجَتْ فَأَخْرَجَ صُورَةَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَفِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ.....

آپ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے انکار فرما دیا کیونکہ اس میں معبود
تھے۔ آپ نے ان کے متعلق حکم دیا چنانچہ وہ نکال دیئے گئے (ان میں) ابراہیم و
اسماعیل (علیہما السلام) کی صورتیں بھی نکلیں۔ ان کے ہاتھ میں تیر تھے۔ آپ نے
فرمایا: ان مشرکین پر خدا کی مار، یہ (خوب) جانتے ہیں کہ ان دونوں نے کبھی
پانے نہیں ڈالے۔ (ان کے نکالے جانے کے بعد) پھر حضرت بیت اللہ کے اندر
داخل ہوئے اور بیت اللہ کے کونوں میں بکیر کھیا (یعنی اللہ کی کبریائی بیان فرمائی)
۳۔ صورتیں تو نکال دی گئیں اور جو تصویریں دیواروں پر بنی ہوئی تھیں وہ مٹا دی گئیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں تصویریں
دیکھیں، لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمَحَبَتْ، تو آپ اندر داخل نہ ہوئے یہاں تک کہ آپ
کے حکم سے وہ مٹا دی گئیں۔^۱

تو تصویر خواہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہو یا ملائکہ اللہ کی یا حضرت مریم علیہا الصلوٰۃ کی،
شریعت محمدی میں سب کو مٹا دینے کا صریح و شدید حکم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کعبہ
کے اندر قدم نہیں رکھتے جب تک تمام تصویریں مٹا نہیں دی جاتیں، یا پھر حضرت اپنے مبارک
ہاتھ سے مٹا دیتے ہیں۔ (سیرت طیبہ، جلد ۲، ص ۲۱۱)

جہاں تصویر ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ^۲ شارح صحیح علیہ السلام کو تصویر
سے اس قدر نفرت ہے:

۱۔ کہ حضرت نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک تکیہ پر تصویریں دیکھیں تو حجرہ
کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے اور اندر قدم مبارک نہ رکھا، لَقَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْبَابِ وَلَمْ يَدْخُلْ، نیز فرمایا کہ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ،
جس گھر میں تصویر ہو اس میں ملائکہ (رحمت) داخل نہیں ہوتے۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم) ^۳

۱۔ "صحیح بخاری" خزنة الفتح و"ابوداؤد" باب الصلوة فی الکعبہ۔

۲۔ "صحیح بخاری" کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالیٰ وَتَقَعُ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا۔

۳۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب المعادیر۔

- ۲۔ موطا مالک مناسکی اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔
- ۳۔ حضرت میمونہ امّ المؤمنین حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہم سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا مالک، مسند احمد، ابوداؤد ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں اس مضمون کی روایات موجود ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین حضرت ﷺ سے آئے گا وعدہ کر کے نہ آئے۔ آپ ﷺ پر یہ امر نہایت شاق گزرا۔ آپ بہت غمگین ہوئے۔ بات یہ تھی کہ خوابگاہ میں کسی طرح کتے کا بچہ داخل ہو گیا تھا۔ آپ ﷺ نے حضرت جبریل سے جب نہ آنے کی شکایت کی تو جبریل نے کہا: اِنَّا لَا نَدْخُلُ بِنِصَافِهِ كَلْبٌ اَوْ صُورَةٌ، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ (صحیح بخاری صحیح مسلم)۔
- ۴۔ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بِنِصَافِهِ كَلْبٌ اَوْ تَصَاوِيرٌ (متفق علیہ)۔

ملائکہ رحمت کو تصویر سے اتنی شدید نفرت ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اس میں نہیں آتے۔ نبی رحمت ﷺ بھی نہ صرف کاشانہ رحمت میں داخل نہیں ہوتے بلکہ گھر میں جس چیز پر تصویر ہو اس چیز ہی کو توڑ پھوڑ اور چیر پھاڑ دیتے ہیں۔

۵۔ امّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ:

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرَكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا مِنْ تَصَالِيحِ الْاَنْقَضَةِ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوں مگر اسے توڑ پھوڑ دیا کرتے تھے۔

- ۶۔ ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پردہ لٹکا دیکھا جس میں تصویریں تھیں، چنانچہ آپ نے اس پردے کو بھاڑ ڈالا، فقہنگہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم (متفق علیہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم)۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ فَتَلَوْنَ وَجْهَهُ (تصویروں والا پردہ دیکھ کر) حضرت کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا۔ یعنی حضرت بہت ناراض ہوئے۔

۱۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب العادیر۔ ۲۔ ایضاً۔ ۳۔ "صحیح بخاری" فصل العادیر۔

۴۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب العادیر۔

۵۔ مشرکین کی مخالفت

شرک کے سدباب کی خاطر مشرکین کی ہر نوع مخالفت کا حکم دیا گیا۔ نہ صرف عبادت میں بلکہ معاشرت اور شکل و صورت تک میں ان کی مخالفت شروع ہے۔ ان سے خلط ملط اور میل ملاپ تک کو نہایت سختی سے روکا گیا۔

۱۔ بروایت حضرت سمرۃ بنت جندب رضی اللہ عنہا ارشاد فرمایا: صلی اللہ علیہ وسلم

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَمَسَّكَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ. (ابوداؤد، کتاب الجہاد)

جو شخص مشرک کی موافقت کرے اور اس کے ساتھ سکونت رکھے وہ بھی اس مشرک کی مثل ہے۔

ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مشرک سے میل جول رکھنے اور اس کے ساتھ رہنے سے کتنی شدید ممانعت ہے۔ مشرک سے راہ و رسم میل ملاقات رکھنے والا گویا مشرک ہے، کتنی وعید شدید ہے۔

۲۔ اس وعید شدید کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ ان کی شرائط بیعت میں داخل تھا کہ مشرکین سے جدا اور دور رہیں گے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے:

عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ وَفِي لَفْظِ عَلَيَّ أَنْ نَفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ. (رواہ النسائی)

نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، ہر مسلمان کی خیر خواہی اور مشرکین سے دور، علیحدہ رہنے پر بیعت کی۔ (نسائی)

اسی طرح ایک دوسرے ارشاد میں اختلاط بالمشرکین کو کس شدید انداز میں روکا گیا۔

۳۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَنَا بَرِيٌّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالَ لَا تَتْرَأَى نَارًا هُمَا. (رواہ ابوداؤد)

۱۔ "ترجمان السنۃ" جلد دوم، حدیث نمبر ۷۸۱۔ ۲۔ "ترجمان السنۃ" جلد دوم، حدیث نمبر ۴۲۲۔

میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین میں گھس کر رہے۔ فرمایا: دونوں کو اتنے فاصلے پر رہنا چاہئے کہ ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھ سکیں۔

حجرِ اُمت کا لائق تقلید طرزِ عمل: ان ارشاداتِ نبوت کے پیش نظر حضراتِ صحابہؓ مشرکین کے ساتھ میل جول اور

خلطِ ملط سے شدید احتراز فرماتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اس باب میں یہ حال تھا کہ اگر کسی ضرورت سے مشرک کے ساتھ مصافحہ کرنا پڑ جاتا تھا تو مصافحہ کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے تھے، غَسَلَ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الْمُصَافَحَةِ بِالْمُشْرِكِ ۱۔

مگر آہ! آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ عموماً ان کے جو تعلقات و مراسم کفار و مشرکین کے ساتھ ہیں وہ مسلمانوں سے بھی نہیں۔

ظاہری شکل و صورت اور حجامت میں بھی مخالفت:

معاشرت اور باہم اختلاط میں مخالفت کے ساتھ ظاہری شکل و صورت اور چہرہ مہرہ تک میں بھی مشرکین کی مخالفت کا حکم ہے۔

۱۔ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خَالَفُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْ فَرُّوا اللَّحَى وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ. (متفق علیہ) ۲

(اپنی معاشرت اور طور طریق میں بھی) مشرکین کا خلاف کرو۔ اپنی داڑھیاں

بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ۔ (بخاری و مسلم)

حتیٰ کہ لباس میں بھی کفار و مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن پر دو زرد

رنگ کے کپڑے دیکھے تو فرمایا: یہ نہ پہنو، اِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، یہ کفار (مشرکین) کا

لباس ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، میں نے عرض کیا: انہیں دھو ڈالو۔ فرمایا: بَلْ آخِرُ قَهْمَا،

نہیں بلکہ انہیں جلا ڈالو۔ (رواہ مسلم) ۳

۱۔ "فیض الباری" جلد اول، ص ۱۷۱ کتاب الوضوء۔ ۲۔ "ترجمان السنۃ" جلد دوم، حدیث نمبر ۷۳۹۔

۳۔ "زجاجہ الصانع" جلد ۳ کتاب اللباس، "زجاجہ الصانع" "مکتوٰۃ الصانع" کی طرز پر پانچ جلدوں میں

احادیثِ رسول کا عظیم مجموعہ ہے۔ مؤلف حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحب حیدرآبادی ہیں۔

اندازہ فرمائیے! شریعت کو کفار و مشرکین کے لباس تک سے کتنی شدید نفرت ہے کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر رنگ کپڑوں کو جلانے تک کا حکم دے رہے ہیں۔

عبادت میں بھی مخالفت: شرک کے سدباب کے لیے نہ صرف مشرکین کے میل
ملاپ، رہن سہن، شکل و صورت، وضع اور حجامت میں

مخالفت کا حکم ہے، بلکہ عبادت کے باب میں بھی ان کی موافقت سے روکا گیا ہے۔ جو مشرکین
کی عبادت کے اوقات ہیں ان میں مسلمان کو عبادت منع ہے۔ بروایت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا کیونکہ:

جَبْتُهُ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. (رواہ مسلم)

اس وقت کافر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم)

گو مسلمان نماز گزار کی نیت خدا کی عبادت کی ہے، غیر اللہ کی عبادت کا ایک مرد مسلم کے
نزدیک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر جن اوقات میں کفار عبادت کرتے ہیں ان اوقات میں اللہ کی
عبادت سے روک دیا گیا تاکہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے کفار و مشرکین سے تشابہ پیدا نہ
ہو۔

یہ شرک فی العبادت کی ہر اس رگ کو جڑ سے کاٹ دینے کی کامیاب و بہترین کوشش ہے،
جس سے کفر و شرک کو زندگی اور تازگی ملنے کا امکان و احتمال تھا۔ جب مسلمان کی نماز اپنے مقصد
و مدعا، اپنی نیت و ارادہ اور اپنی ہیئت و صورت میں کفار و مشرکین کی عبادت سے مختلف و ممتاز ہے
تو اوقات میں ممتاز و مختلف کیوں نہ ہو۔

عبادت مشرکین کے محل و ظرف میں بھی منع ہے:

نہ صرف اوقات بلکہ جس محل و موقع پر مشرکین عبادت کرتے تھے، اس موقع اور محل پر
مسلمانوں کو اللہ کی عبادت ممنوع ہے۔ چنانچہ عہد رسالت میں ایک شخص نے یہ منت مانی کہ وہ
وآنہ کے مقام پر اونٹ ذبح کرے گا۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے
معلق عرض کیا تو حضرت نے دریافت فرمایا، اهل كان فيها ولن من اهل الجاهلية
يُسْقِدُ، کیا عہد جاہلیت کے بتوں میں سے وہاں کوئی بت تھا جو پوجا جاتا ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے

۱۔ "مسکوٰۃ الصالح" باب اوقات اہل۔

عرض کیا: نہیں! پھر دریافت فرمایا: خَلُّ كَمَا فِيهَا عِنْدَ بَنِ أَخْيَادِهِمْ؟ کیا کفار کی عیدوں میں سے وہاں کوئی عید ہوتی تھی؟ صحابہ میں شتم نے عرض کیا: نہیں۔ تو ارشاد فرمایا: **أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وِفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ**۔
تو اپنی نذر پوری کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نذر پوری کر لی جائز نہیں۔

نہ صرف یہ کہ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جاتی رہی ہو وہاں اللہ کی عبادت نہ کی جائے بلکہ جس جگہ کفار و مشرکین کے میلے ٹھیلے لگتے ہوں، کھیل تماشے ہوتے ہوں، وہاں بھی اللہ کی عبادت جائز نہیں، معصیت میں داخل ہے۔

گر جوں میں نماز جائز نہیں، بلکہ داخل ہونا بھی!

حضرات اجلہ صحابہؓ کا تو یہ حال تھا کہ عیسائیوں کے گرجوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ داخل تک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان گرجوں میں تصاویر ہوتی تھیں، اور تصویر و واعی شرک میں داخل ہے۔ اس لیے شرک کے سدباب کے طور پر سرے سے ان گرجوں ہی میں قدم رکھنے سے احتراز لازم ہے۔

۱۔ فاروق اعظم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ عیسائیوں کے گرجوں میں داخل نہ ہوتے تھے، البتہ لا نَدْخُلُ كِنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَالِيلِ الَّتِي فِيهَا الصُّوَرُ کیوں کہ ان میں تصویریں ہوتی تھیں۔

۲۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایسے گرجا میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس میں تصویریں ہوں۔
يُصَلِّي فِي بَيْعَةٍ إِلَّا بَيْعَةَ فِيهَا تَمَالِيلٌ۔

۶۔ غیر اللہ پر اعتماد کی ممانعت

اسلام، توکل علی اللہ سے عبارت ہے۔ مسلمان ہر حال میں ذات باری تعالیٰ پر نگاہ رکھتا ہے۔ دُکھ سکھ میں اسی پر توکل کرتا ہے۔ اسلام غیر اللہ پر اعتماد توکل کے ادنیٰ تصور کی بھی نفی اور بیخ کنی کرتا ہے۔ شریعت محمدیؐ اس باب میں بڑی حساس واقع ہوئی ہے اور وہ غیر اللہ پر اعتماد اور اس سے استمداد کی ادنیٰ سے ادنیٰ قدر کا سراغ لگا کر اس کی جڑیں تک کھود ڈالتی ہے۔ اس سلسلہ میں چند شواہد ملاحظہ ہوں؟

۱۔ اسباب سے اعراض: یہ عالم، عالم اسباب ہے، عالم اسباب میں مسبب الاسباب رب العزت نے اشیاء میں اسباب و اثرات خود رکھ دیئے ہیں۔ مگر ان اسباب پر ہی تکیہ کر کے مؤثر حقیقی سے صرف نظر کرنا غلط ہے۔ شریعت نے اس سے شدت کے ساتھ منع کیا ہے، اور بندوں کو یہ سبق دیا ہے کہ حالت و حادثات میں مؤثر حقیقی ذات پاک رب العزت ہے اور ہر دُکھ، درد، تکلیف اور مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

۱۔ ایک صاحب نے آپ ﷺ کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو اسے مرض گمان کر کے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس کا علاج کر دوں، فَاِنِّي طَبِيبٌ، کیونکہ میں طبیب ہوں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

اَنْتَ رَفِيقٌ وَاللّٰهُ الطَّبِيبُ..... یعنی تم تو رفیق ہو..... طبیب تو اللہ ہے۔

دوسری روایت میں ہے ارشاد فرمایا:

طَبِيبُهَا الَّذِي خَلَقَهَا..... یعنی جس نے اسے پیدا کیا اس کا طبیب وہی ہے۔ رواہ احمد^۱

”شرح السنۃ“ میں بھی یہ حدیث مروی ہے۔^۲

اسلام اسباب کا منکر و مخالف نہیں، عالم اسباب میں بیماری کا کسی طبیب سے علاج کرانا جائز ہے، مگر شریعت محمدیؐ میں توحید کا اتنا بلند مقام ہے کہ ایک مرد مومن کی نگاہ میں معالج کی حیثیت صرف ایک رفیق کی ہے۔ معالج حقیقی اور طبیب حقیقی صرف ذات پاک باری تعالیٰ ہے۔

۱۔ ”ترجمان السنۃ“ جلد دوم، حدیث نمبر ۷۱۵۔ ۲۔ ”مشکوٰۃ الصالح“ کتاب القصاص

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک تعلیم توحید کا صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ اثر تھا کہ ابن مسعود اور ابن ابی الدنیا کی روایت کے مطابق مرض و وفات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے خلیفہ رسول اللہ! ارشاد ہو تو ہم طیب کو بلا لیں، وہ آپ کو دیکھ لے۔ فرمایا: نہیں، وہ مجھے دیکھ چکا ہے۔ عرض کیا: پھر اس نے کیا کہا؟ فرمایا: قَالَ إِنِّي فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ۔ اس نے کہا ہے میں جو ارادہ کر لیتا ہوں اسے کر کے رہتا ہوں۔ (تاریخ الخلفاء، ص ۶۰)

حافظ ابن کثیر نے اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نقل کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے مرض و وفات میں فرمایا: آپ کے لیے کسی طیب کو نہ بلا لیں؟ فرمایا: الطیب امر ضعی، یعنی طیب ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ) ۲

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبضین صادقین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ مرض و شفا کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دواؤں میں تاثیر ہے مگر یہ تاثیر اسی ذات پاک نے رکھی ہے۔ مؤثر حقیقی وہی ایک اللہ ہے۔ درحقیقت شفا وہی عطاء فرماتا ہے جو بیمار ڈالتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۚ

۲۔ منتر جنت، ٹونے ٹونکوں وغیرہ کی ممانعت: شریعت نے منتر جنت، ٹونوں ٹونکوں کو اسی لیے سختی سے

منع کیا ہے بلکہ شرک تک سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہ توکل علی اللہ کے منافی ہیں۔
۱۔ بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا:

میری امت سے ستر ہزار جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔

هُمْ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔

(متفق علیہ) ۲

یہ وہ ہوں گے جو نہ تو منتر کرتے ہیں، نہ بدشگون لیتے ہیں، بلکہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ (حضرت) عبداللہ (بن مسعود) نے میری گردن میں ایک تاگا بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا: یہ کیا ہے؟ میں نے

۱۔ "ترجمان السنۃ" جلد دوم، حاشیہ حدیث نمبر ۷۱۵۔

۲۔ "مشکوٰۃ المصابیح" باب الخوکل والعمیر۔

کہا: منتر پڑھا ہوا دھاگہ (گنڈا) ہے، فَقَطَعَهُ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر توڑ ڈالا، اور فرمایا: تم عبد اللہ کی گھر والی ہو، لَا غِنِيَاءَ عَنِ الشِّرْكِ، تمہیں تو شرک ساتھ بے نیاز ہونا چاہئے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے:

إِنَّ الرُّقِيَّ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ.....

منتر، منکے اور ٹونے ٹونکے یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔

تمہیں یہی کافی ہے کہ (بیماری کے وقت) وہ کلمات پڑھ لیا کرو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔

أَذْهَبَ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ وَاشْفَى أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ

(ابوداؤد)

شِفَاءَ لَا يُغَاذِرُ مَقَامًا.

لوگوں کے پروردگار! بیماری دور فرما، اور شفا عطا فرما، کیونکہ شافی صرف تو ہے،

درحقیقت شفا تو صرف تیری ذات سے ہے۔ ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری کا نام و

نشان نہ رہے۔

بجائے ان منتروں، جنتروں، ٹونے ٹونکوں کے اللہ رب العزت رب الناس سے شفا

طلب کی جائے، اور نگاہ اسی کی ذات اور قدرتِ کاملہ پر رہے۔

منتر صرف وہی شرک ہے جس میں شرکیہ کلمات ہوں۔ اگر کلام الہی پڑھا جائے

یا اورے یا اسماء الہی کا ورد کیا جائے تو اس کی برکت و تاثیر میں کوئی کلام نہیں۔ حضرت

عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم عہدِ جاہلیت میں منتر پڑھ کر جھاڑ پھونک کیا کرتے

تھے۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو فرمایا: (پڑھ کر) مجھے سناؤ، اگر ان میں

شرک (کا کوئی کلمہ) نہیں تو پھر کوئی مضائقہ نہیں، لَا بَاسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكَ.

(رواہ مسلم)

شیخ الاسلام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ

رُقِيَّةٌ یعنی منتر جائز ہے جبکہ تین شرطیں جمع ہوں۔ اول یہ کہ رُقِيَّةٌ کلام اللہ یا اسماء یا صفاتِ خداوندی

کے ساتھ کیا جائے۔ دوم یہ کہ زبان عربی میں ہو یا ایسی زبان میں کہ اس کے معنی معلوم ہوں۔

۱ "مکتوٰۃ الصالح" کتاب الطب والرقي۔

۲ "ترجمان السنن" جلد دوم، حدیث ۷۹۴۔

سوم یہ کہ اعتقاد یہ ہو کہ رقیہ بذات خود مؤثر نہیں ہے بلکہ تقدیر الہی سے اثر کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اسے (ماہیہ موطا مالک میں ص 277)

امام محمد رحمہ اللہ نے موطا (محمد) میں لکھا ہے کہ: **باب التماس ما یصلح من آیات القرآن** آیات و الفاظ قرآنی اور ذکر الہی کے ساتھ رقیہ میں کوئی حرج نہیں (لا بأس) ہے، لیکن اگر منتر ایسی زبان میں ہو کہ نہ سمجھی جائے تو پھر منتر ٹھیک نہیں، فلا ینبغی ان یوقی!

قرآنی آیات اور سورتوں سے تعویذ: ۱۔ بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات

(قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ.... اور سورہ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب آپ کی تکلیف شدید ہوگی تو میں آپ پر ان سورتوں کو پڑھتی اور برکت کے لیے آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی۔
۲۔ بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک رات بچھو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ کی انگلی پر کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی پاک پر ہاتھ پھیرتے تھے اور معوذتین کے ساتھ تعویذ فرماتے تھے، **يَمْسَحُهَا وَيُعَوِّذُ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ** یعنی قرآن کریم کی آخری دونوں سورتیں تلاوت فرماتے تھے۔

۳۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں (بے عقلوں) سے اور انسان کی نظر (بد) سے (اللہ کی) پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئیں۔ جب یہ نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھتے تھے، اور ان کے ماسوا سب چھوڑ دیتا، **اَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا مَسَاهُمَا** (رواہ الترمذی وابن ماجہ) (ص ۱۰۰)

۱۔ "زجاجہ الصالح" جلد ۳ کتاب الطب والری۔

۲۔ "موطا امام مالک" باب العوذ والرقیۃ من العراض.

۳۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، "زجاجہ الصالح" جلد ۳ کتاب الطب والری، باب التماس ما یصلح من آیات القرآن.

۴۔ ایضاً "زجاجہ الصالح"۔

۳۔ بدقالی لینا بھی حرام ہے: بدقالی لینے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ شرک فرمایا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی بعض پیش آمدہ

کردار کو حوادث میں مؤثر سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ مؤثر صرف اللہ کی ذات ہے۔

۱۔ بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا:

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ قَالَهُ قَلَانَا. (رواه ابوداؤد والترمذی)

بدقالی لینا شرک ہے اور یہ تین بار فرمایا۔

۲۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اور آپ اس کے لیے برکت کی دعا فرمادیتیں۔ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک بچہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے تکیہ کے نیچے ایک استرا دیکھا۔ دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا: یہ ہم (جنات کے شر سے بچانے) کے لیے بچوں کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔

فَأَخَذَتِ الْمَوْسَى فَرَمَتْ بِهَا. آپ نے استرا اٹھا کر پھینک دیا اور اس حرکت سے انہیں منع کیا، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹونوں ٹونوں کو ناپسند فرماتے تھے، بلکہ ان سے بغض رکھتے تھے، كَانَ يَكْرَهُ الطَّيْرَةَ وَيَبْغُضُهَا.

۴۔ اگر مگر شیطانی عمل ہے: شرک کی جڑیں بہت دُور دُور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ انسانی زندگی کے بعید ترین گوشوں تک اس کی

رسائی ہے اور اس کی چال اندھیری رات میں پتھر پر چیونٹی کی چال سے زیادہ خفی و لطیف ہے، لہذا انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ شریعت محمدی کا انسانیت پر احسانِ عظیم ہے کہ اس نے فتنہ شرک کی باریکیوں سے پردہ اٹھا کر انسان کو اس سے متنبہ و آگاہ کر دیا ہے۔

امام المفسرین جبرائیل بن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ (فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا) کی تفسیر میں ابن ابی حاتم سے منقول ہے، فرمایا:

انداد شرک ہے اور شرک اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی

زیادہ خفی ہے، اور یہ کہنا کہ وَاللَّهِ وَحْيَايَكْ یعنی اللہ کی اور تیری زندگی کی قسم!

اور کہنا، لَوْ لَا كَلْبَةٌ هَذَا لَأَتَانَا اللَّصُوصُ الْبَارِحَةَ وَلَوْ لَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ

۱۔ "مکتوبۃ المصاحح" باب الفال والطيرة.

۲۔ "ترجمان السنن" جلد دوم حدیث نمبر ۷۹۵ بحوالہ ادب المفرد امام بخاری۔

لاتی اللصوص۔ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو رات کو چور گھس آتے اور یہ کہنا کہ اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو چور گھس آتے۔ اور کسی شخص کا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ۔ یعنی جو اللہ چاہے اور تو چاہے (تو وہی ہوگا)، یا کسی کا یہ کہنا کہ: لَوْ لَا اللَّهُ وَفُلَانٌ لَا تَجْعَلُ فِيهَا فُلَانٌ۔ ہذا کلمہ بہ شرک! اگر اللہ اور فلان شخص نہ ہوتا تو فلان شخص یہ کام نہ کرتا۔ یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔

مقصد یہ ہے کہ انسان کی نگاہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر رہنی چاہئے۔ اسی پر توکل کرنا چاہئے۔ اسی کی قدرت پر اعتماد کرنا چاہئے۔ جو ہوتا ہے اسی کے حکم اور اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ زمام کار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور کسی کا اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِخْرَضَ عَلِيٌّ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ إِنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنْ لَوْ تَفْتَحَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ (رواہ مسلم)

نفع مند کاموں پر حرص کر، اور اللہ کی عزت سے مدد طلب کر، طلب اعانت سے عاجز نہ ہو۔ اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو یوں نہ کہو ”اگر میں یہ کرتا تو اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا“ بلکہ یوں کہو ”اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے“ اس لیے کہ اگر (مگر) شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔

۵۔ سوال کرنے سے منع فرما دیا: انسان کا انسان سے سوال کرنا بظاہر بارگاہِ الہی سے اعراض اور توجہ الی العبد ہے۔ اس

لیے شریعتِ محمدیؐ کو اس سے بھی نفرت ہے۔

۱۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے سلسلہ میں فرمایا:

أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ۔ (متفق علیہ)

۱۔ تفسیر ”ابن کثیر“ تفسیر آیت فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ إِذَا دَاعَىٰ “مُتَكَلِّفَاتٍ الْمَصَائِحِ” بَابُ التَّوَكُّلِ وَالْحَمْرِ۔
۲۔ ”مُتَكَلِّفَاتٍ الْمَصَائِحِ” بَابُ مَنْ لَا تَحْمِلُ لَهُ الْمَسْئَلَةَ۔

اور پر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا سوال کرنے والا ہے۔

(صحیح بخاری، صحیح مسلم) موطا مالک میں بھی یہ حدیث مروی ہے
۲۔ آپ ہی سے روایت ہے ارشاد فرمایا: جو شخص لوگوں سے سوال کرے گا قیامت کے دن اس کے منہ پر گوشت کا ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ لیس فی وجہہ مضغۃ لحم. (متفق علیہ) (صحیح بخاری، صحیح مسلم) مقصد یہ ہے کہ اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے اس کے منہ کا گوشت نوج لیا جائے گا۔

لوگوں سے سوال نہ کرنے کی یہ تاکید محض اس لیے ہے کہ بندے نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے کیوں اپنی ضرورت و حاجت پیش کی۔

۳۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حج کے دن ایک شخص کو لوگوں سے سوال کرتے دیکھا تو فرمایا:
اَفِي هَذَا الْيَوْمِ وَفِي هَذَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فَخَفَقَهُ بِالذُّرَّةِ.
(رواہ رزین)

ایسے (عظیم) دن اور ایسی (مبارک) جگہ تو غیر اللہ سے سوال کرتا ہے۔ پس اسے
دُڑہ سے مارا۔

۴۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا: مجھے کون اس کی ضمانت دیتا ہے ان لا یسأل الناس شیئا کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا، فَاتَكْفُلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں (یا رسول اللہ!) چنانچہ وہ کسی سے بھی کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ (ابوداؤد، نسائی)

۵۔ اس بارے میں اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک شدت فرمائی کہ (حضرت) ابوذر رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے عہد لیا، اَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ جب انہوں نے تسلیم کر لیا تو فرمایا:

وَلَا سَوْطَكَ اِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ اِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ. (رواہ احمد)
اگر تیرا کوڑا گر جائے تو تو سواری سے اتر کر اسے اٹھائے گا (کسی کو نہیں کہے گا کہ
یہ مجھے اٹھا دو)

۱۔ "مکتوٰۃ الصواع" باب من لا تحمل لہ المسئلہ۔ ۲ ایضاً۔ ۳ ایضاً۔ ۴ ایضاً۔

۶۔ اگر انسان بھوکا ہو، حاجت مند ہو تو بھی اسے اللہ پر توکل کر کے لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرنے سے احتراز واجب ہے۔ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
 مَنْ جَاعَ أَوْ احتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ
 سَنَةً مِنْ حَلَالٍ.
 (رواہ البیہقی)

جو شخص بھوکا ہو یا حاجت مند ہو اور اپنی ضرورت کو لوگوں سے چھپائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے سال بھر کا رزق حلال دے دیں گے۔

آثار و تہمکات سے بے اعتنائی: اسلاف کے آثار و تہمکات سے شغف و انہماک بعض دفعہ شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے شریعت محمدیؐ نے ان سے بے اعتنائی فرمائی ہے۔

سیرت فاروقی کا شاہکار، شجرۃ بیعت الرضوان کٹوا دیا:

محسنِ امت، فاروقِ اعظم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف موقعوں پر شرک کی رگ گردن کاٹ کر رکھ دی۔ آپ کی اسی سیرت کا شاہکار ملاحظہ ہو:

۱۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ (المتوفی ۲۳۰ھ) اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ الشَّجْرَةَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا شَجْرَةُ الرِّضْوَانِ فَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَوْعَدْتُهُمْ فِيهَا وَأَمَرَ بِهَا فُقِطَتْ.^۱
 لوگ ”شجرۃ الرضوان“ کے پاس (یعنی اس درخت کے پاس جس کے نیچے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے بیعت رضوان لی تھی) آکر نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمرؓ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا، اور اس درخت کو کاٹ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ کاٹ دیا گیا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس (درخت کے کاٹ دینے) میں حکمت یہ تھی کہ لوگ فتنہ سے محفوظ رہیں، جہاں اس کی تعظیم میں حد سے بڑھ کر اسے نفع نقصان کا

۱۔ ”مکلوۃ الصالح“ باب فضل الفقراء۔

۲۔ ”طبقات ابن سعد“ مطبوعہ بیروت جلد ۲، ص ۱۰۰، خزوۃ حدیبیہ۔

مالک نہ سمجھنے لگیں۔^۱

۲۔ حضرت طارق بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں حج کو گیا۔ ایسے لوگوں پر میرا گزر ہوا کہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا: یہ مسجد کیسی ہے؟ لوگوں نے کہا: هَذِهِ الشَّجَرَةُ حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ یہ وہ درخت ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے بیت الرضوان لی تھی۔ میں سعید بن المسیب کے پاس آیا، اور انہیں اس کی خبر دی۔ (حضرت) سعید بن المسیب نے کہا: مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا کہ میں درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں تھا۔ جب ہم اگلے سال نکلے تو اس درخت کو نہ پہچان سکے، ہم اسے بھول گئے۔ (حضرت) سعید بن المسیب نے فرمایا کہ اصحاب محمدؐ تو اس درخت کو نہ جانتے تھے اور تم جانتے ہو تو تم اصحاب رسولؐ سے زیادہ عالم ہو گئے، اِنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمُوْهَا وَعَلِمْتُمْوَهَا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ۔^۲

اس روایت میں تو نَسَبْنَاَهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا کے الفاظ ہیں، یعنی ہم اسے بھول گئے، ہمیں اسے جاننے پر قدرت نہ رہی، اور اگلی روایت میں ہے: ہم نے اگلے سال اس درخت کی طرف رجوع کیا، فَعَبِثْنَا عَلَيْهَا یعنی وہ ہمیں نظر نہ آیا، ہم پر مشتبہ ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے وہاں بہت سے درخت تھے اور پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی۔

۳۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ:

خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ بِاَعْوَامٍ لَمَّا عَرَفَ اَحَدٌ مِنْهُمْ الشَّجَرَةَ وَاخْتَلَفُوا فِيهَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ۔^۳

اس واقعہ کے چند سال بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت اس

۱۔ "فتح البخاری" شرح بخاری جلد ۶، ص ۷۳ کتاب الجہاد باب البیعة فی الحرب۔

۲۔ "صحیح بخاری" باب فزودۃ الحدیبیہ "طبقات ابن سعد" جلد ۲، ص ۹۹ فزودہ حدیبیہ۔

۳۔ "صحیح بخاری" ایضاً۔ ۲ "طبقات ابن سعد" جلد ۲، ص ۱۰۵، فزودہ حدیبیہ۔

طرف آئی تو ان میں سے کسی ایک نے بھی اس درخت کو نہ پہچانا، اس کے بارے سب باہم مختلف ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا ”یہ سب اللہ کی رحمت تھی“

یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کا کسی درخت پر متفق نہ ہونا، اس درخت کا سب پر مشتبہ ہو جانا اور کسی ایک صحابی رسول کا بھی اس درخت کو پہچان کر متعین نہ کرنا یہ سب اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے خلق خدا کو ایک ایسے فتنے سے بچالیا جو آگے چل کر فسادِ عقیدہ کا موجب بن سکتا تھا، اور شرک کا باعث ہو سکتا تھا۔

آثارِ اسلاف: جس مبارک درخت کے نیچے امام المرسلین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ پندرہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لی، جسے قرآن کریم میں رضاء الہی کی بشارت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا، اور خود اس درخت کو بھی وحی الہی میں جگہ ملی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (فتح) جب اس مبارک و مقدس درخت..... اس اہم اثرِ نبوی..... کو بے نام و نشان کر دیا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو رحمتِ الہی کا کرشمہ سمجھتے ہیں، پھر جس درخت کے متعلق لوگوں کا ظن غالب تھا کہ یہی وہ مبارک شجرہ ہے اور وہاں عہدِ صحابہ عہدِ فاروقی میں لوگ جمع ہو کر نمازیں پڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتنہ کے خوف سے اسے کٹوا دیا۔

اس ساری حقیقت کے بعد کیا اسلاف کے مبینہ آثار اور بزرگوں کے مزعومہ تبرکات کی دین میں کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ اگر بزرگانِ دین کے آثار و تبرکات کا دین میں کوئی مقام ہے تو اثرِ نبوت شجرہ بیعت کا کیا تصور تھا؟ پھر خیر القرون عہدِ صحابہ میں فتنہ کا خوف اور ڈر تھا اور آج کا زمانہ فتنہ سے بالکل محفوظ و مامون ہے؟

حد ہوگی: دوسرے احتیاطی اور انسدادی امور و اقدامات کے علاوہ شرک کا ایک عجیب و غریب سدِ ذریعہ ملاحظہ ہو:

بروایت ابوالملیح رضی اللہ عنہ ایک شخص نے اپنے غلام کا ایک حصہ آزاد کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكَ فَأَجَارَ عِتْقَهُ.

(رواہ ابو داؤد)

۱۔ ”ترجمان السنن“ جلد دوم حدیث نمبر ۷۰۰۔

اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور (پورے) غلام کی آزادی کا حکم دے دیا۔ (ابوداؤد)
 شرک سے شریعتِ محمدی کی نفرت کا کمال ہے کہ شرک کا تصور اور لفظ تک برداشت نہیں۔
 غلام کا ایک حصہ آزاد کرنے کی صورت میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ اس غلام کی مالکیت میں خدا
 اور وہ شخص شریک بن گئے۔ اسلام اس شرکت کا تحمل بھی نہ کر سکا، اور پورا غلام آزاد کر دیا گیا۔
 عہدِ حاضر کا ایک نیابت، ایک تازہ خدا، بہت بڑا بت اور سب سے بڑا
فتنہ و طہیت: خدا وطن ہے۔ اقبال رحمہ اللہ نے سچ کہا ہے۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو پیرہن اس کا ہے وہ نہیب کا کفن ہے

وطن پرستی، دین کی موت ہے، مگر آج مسلمان ہوں یا کافر، عموماً سب اس نئے خدا کی
 پوجا پاٹ میں مست اور مگن ہیں۔ اسلام نے نسل و نسب، رنگ اور لون، قوم اور وطن کے آپس
 بت پاش پاش کر ڈالے تھے۔ مسلمان ان سب الوان و امتیازات سے وراء الوراہ صرف دین
 حنیف کے صبغہ اللہ میں رنگے گئے تھے۔

روزن از یک جلوہ این سنیاست

یعنی آب و گل پرستیدن کہ چہ

ملت از یک رنگی دلہاست

اصل ملت در وطن دیدن کہ چہ

مگر آج دوسری جاہل اقوام کے ساتھ عموماً مسلمان بھی آب و گل کی پرستش میں محو و منہمک ہیں
 قرمان نے غزوہ احد میں سخت لڑائی لڑی، سات آٹھ مشرکین کو تنہا قتل کیا، مگر نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہنمی فرمایا۔ کیونکہ اس نے یہ لڑائی محض اپنی قوم کی نام آوری کے لیے لڑی تھی۔
 اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے خود اپنی زبان سے اقرار کیا ما قاتلنا إلا علی الاحساب
 ”احساب“ ”حسب“ کی جمع ہے، حسب کے معنی ہیں خاندانی شرافت، آباء و اجداد کے محاسن و
 مفاخر (المنجد)۔ جو اپنی قوم اور اپنے خاندان کی عظمت و افتخار کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
 درمیان اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑے وہ تو جہنمی، اور جو محض اپنے وطن کے غلبہ و تسلط
 کے لیے لڑے، وہ.....؟ حقیقت یہ ہے کہ لڑائی صرف اللہ کی رضا، اعلاء کلمۃ اللہ، اور دین حق
 کی حفاظت و اشاعت کے لیے لڑی جائے۔

۱۔ ”حیۃ الصحابہ“ اردو حصہ سوم ص ۵۳۱، بحوالہ ”البدایہ والنہایہ“ جلد ۳۔

۲۔ اصحابہ لابن حجر عسقلانی ترجمہ ”قرمان“۔

وطن کی حفاظت و پاسہانی کے لیے بھی لڑائی لازمی ہے۔ مگر بایں غرض و نیت! کہ اس سے دشمنانِ دین کی مدافعت اور ان کی دستبرد سے مسلمانوں کے دین و ایمان، ان کی ناموس و آبرو اور جان و مال کی حفاظت ہوگی۔ وطن کی سرحدوں کی حفاظت و حراست جہادِ عظیم ہے اور موجبِ اجرِ عظیم!..... مگر بایں فکر و نظر کہ وطن دین و اہل دین کا حصن حصین ہے، طرف و محل ہے، دارالاسلام ہے۔ ورنہ مطلق وطن تو ایک بت ہے، بہت بڑا بت!

حرفِ آخر: اسلام نے جس اہتمام کے ساتھ شرک کی بیخ کنی کی تھی اور شریعتِ محمدیؐ نے جس شغف و انہماک کے ساتھ ذرائع شرک کا انسداد و سدباب کیا تھا، اور جہاں سے شرک کے رونا ہونے کا خطرہ بلکہ واہمہ بھی تھا، اس رخسہ و سوراخ کو پوری قوت سے بند کر دیا تھا، حسرت و افسوس کا مقام ہے کہ عامۃ المسلمین نے اس کے سولہ آنے خلاف شرک کو اپنانے کی کوشش کی اور اپنی ساری زندگی کے پورے طول و عرض پر شرک کو چھا جانے کی اجازت دے دی۔ کتاب و سنت کو شرک سے جتنا بغض و نفرت ہے، بلکہ چڑ ہے، آج مدعیانِ توحید کو اس سے اتنا پیار ہے، محبت ہے، بلکہ عشق ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

رب العزت اپنی رحمت و قدرت سے ہمیں شرک کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنی پوری زندگی کے ہر گوشے کو نے میں شرک کی نجاست سے تطہیر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں پہلے توحید کے صحیح تصور کی سمجھ عطا فرمائے پھر اسے اپنانے کی توفیق بخشے، اور ہمارا خاتمہ توحید کے کلمہ طیبہ پر ہو۔


لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) آمين يا رب العالمين۔
 رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ وَصَلِّ عَلَيَّ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
 خُصُوصًا عَلَيَّ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔

محتاجِ رحمت و امیدوارِ شفاعت

نور الحسن بخاری

قدیر آباد، ملتان شہر

ذیقعدہ ۱۳۹۳ھ



توحید اور شرک حقیقت

۳۳ حق سبک داریت

اردو بازار، لاہور، پاکستان

مکتبہ الحسین



+92-042-37241355, 0300-4339699